

مستند کتب کے نایاب تبلیغی حوالہ جات پر مشتمل

فندیل صداقت

Fackel Der Wahrheit

NÜTZLICHE VERWEISE ZU AUTHENTISCHEN
BÜCHERN DES ISLAMS

BEACON OF TRUTH

USEFUL REFERENCES
FROM AUTHENTIC AND DISTINCTIVE
BOOKS ON ISLAM

شائعه کردہ
شعبہ تصنیف. جماعت احمدیہ جزمنی

حرف آغاز

دعوت الی اللہ کے میدان میں مصروف عمل داعین الی اللہ جب اپنے موقف کے حق میں قرآن کریم احادیث یاد گیر بزرگان امت کی کتب سے حوالے پیش کرتے ہیں تو عموماً ان حوالوں کا ثبوت مانگا جاتا ہے اور یہ امر کہ ہر وقت تمام کتب ہر شخص کے پاس موجود ہوں، ناممکن ہے۔ اس مسئلہ کے حل کے لئے علمائے سلسلہ کی طرف سے گاہے گاہے مختلف انداز میں کوششیں ہوتی رہی ہیں۔ ایک ایسی ہی کوشش کا آغاز جماعت جرمی میں محترم مولانا عطاء اللہ کلیم صاحب مرحوم سابق مبلغ اخچارج بلا داغنا (مغربی افریقہ)، امریکہ و جرمنی نے چند برس قبل فرمایا تھا اور بنیادی مسائل سے متعلق اہم اور نایاب کتب کے حوالے اس خیال سے مرتب کئے تھے کہ انہیں مناسب شکل دے کر طبع کروایا جائے گا تاکہ ہر داعی الی اللہ کے لئے یہ ممکن ہو جائے کہ وہ کسی بھی مخالف کے اس قسم کے چیਜن کا جواب ”ہاتھ کنگن کو آرسی کیا“ کے طور پر دے سکے۔ چنانچہ مرحوم کلیم صاحب کی اسی کوشش اور خواہش کے نتیجے میں جماعت احمدیہ کے علم کلام کے حوالہ سے بنیادی اختلافی مسائل سے متعلق اہم اور مستند کتب کے نایاب حوالوں پر مشتمل ایک ضخیم کتاب پیش کرنے کی سعادت ہمیں مل رہی ہے۔ الحمد للہ۔ یہ کتاب مندرجہ ذیل تین ابواب پر مشتمل ہے:

☆ مسئلہ وفات مسیح ناصری ☆ صداقت حضرت مسیح موعود ☆ فیضان ختم نبوت

ان ابواب کے تحت 70 سے زائد اہم حوالہ جات کے عکس سپرد اشاعت کئے جا رہے ہیں اور ان حوالہ جات کو اس طرح سے مرتب کیا گیا ہے کہ جس کتاب کا حوالہ پیش کرنا مقصود تھا اس کے سرورق اور اس صفحہ کا عکس کتاب میں شامل کیا گیا ہے جس پر مطلوبہ حوالہ درج ہے۔ اس کے بعد اس حوالہ کی معین عبارت کا عکس پیش کر کے اس کے اردو، انگریزی اور جرمن زبانوں میں ترجمہ درج کئے گئے ہیں۔ جس سے اس کتاب کی افادیت اور اہمیت میں الا تقویٰ ہو گئی ہے۔ علاوہ ازیں اس کتاب کے آخر پر ان تمام مصنفین کے مختصر حالات زندگی اور علمی مقام اور مرتبہ پر مشتمل ایک تعارف بھی شامل کیا گیا ہے جس سے قارئین ان حوالوں کی اہمیت کا بآسانی اندازہ لگا سکتے ہیں۔

قارئین کی خدمت میں یہ کتاب پیش کرتے ہوئے ہم خدا تعالیٰ کے حضور محمد و شگر سے سجدہ ریز ہیں کہ اس نے محسن اپنے فضل سے اس کی توفیق عطا فرمائی نیز ہماری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کوشش کو اپنے فضل سے قبول فرمائے اور اس مجموعہ کو متلاشیان حق کے لئے شرح صدر اور ہدایت کا موجب بنادے۔ آمین۔

الناشر

Foreword

At discussions about the teachings of Ahmadiyyat it time and again becomes necessary to cite quotations from the Holy Quran as well as from various Ahadith and different books written by Islamic scholars. However, opponents frequently tend to ignore the actual content of the quotation, demanding that the source of the very quotation be presented to them.

It is next to impossible, though, that all references needed can be made available at once.

Therefore, scholars of the Ahmadiyya Muslim Jamaat have been making efforts to overcome this difficulty. One of such efforts was initiated by the late Maulana Ataullah Kaleem, who had served in West Africa, USA and Germany as Missionary-in-charge, and who began to collect copies of important and rare books containing essential quotations which he wished to put together and publish, so that every preacher of Ahmadiyyat should be able to counter the challenges of the opponents on the spot.

Building on the foundation laid by Maulana Ataullah Kaleem, the Jamaat Germany is now having the honour of presenting the collection in hand, which contains original quotations along with the title of the according book and a translation into Urdu, English and German. The collection is divided into three parts:

1. Question of the death of Jesus (Isa) a.s
2. Truth of the Promised Messiah
3. Blessings of Khatm-e- Nabuwat (Finality of Prophethood)

The fact that this collection, containing more than 70 blue prints from the original books with their title page, is published in three languages should make it useful even beyond the boundaries of Germany.

In the appendix, the reader will find biographical notes on those people who have been cited in the book, thus underlining their scientific and spiritual significance and, at the same time, enabling the reader verify the authenticity and importance of the according quotation.

May Allah bless our humble efforts and may this book prove to be a source of guidance and quench the thirst of those who seek the truth. Ameen

Publisher

Vorwort

Bei Diskussionen über die Lehren der Ahmadiyya-Muslim-Jamaat ist es häufig erforderlich, Zitate aus Qur-an, Hadith und den Werken anderer islamischer Gelehrter anzuführen. Die Diskussionsgegner gehen bisweilen nicht inhaltlich auf die Zitate ein, sondern machen als Vorwand die Forderung, die zitierten Originalwerke vorzulegen. Das ist natürlich unmöglich, weil die zahlreichen Bücher nicht zu jeder Zeit und an jedem Ort zur Verfügung stehen.

Um diesem Umstand abzuhelpfen, sind von den Gelehrten der Ahmadiyya-Gemeinschaft verschiedene Versuche unternommen worden. Ein Projekt dieser Art nahm der verstorbene Imam Ataullah Kaleem in Angriff, der in Westafrika, den USA und schließlich Deutschland für die Gemeinde als Leitender Imam tätig war. Er sammelte Kopien von Titeln wichtiger und seltener Bücher, sowie Kopien der Originalzitate aus ihnen, welche bei den Diskussionen benutzt werden. Er hatte die Absicht, diese später in einem Band zu veröffentlichen. Somit wären diese Zitate jedem jederzeit verfügbar.

Auf der Grundlage dieser Arbeit von Ataullah Kaleem ist es nunmehr der Ahmadiyya Muslim Jamaat in Deutschland möglich, diese vorliegende umfassende Sammlung mit wichtigen Originalzitaten in Faksimile der Titel zitierter Werke sowie dem Wortlaut der angeführten Stellen nebst Übersetzung ins Urdu, Englische und Deutsche zu veröffentlichen. Die Sammlung enthält drei Kapitel:

1. Frage des Todes Jesu Christi
2. Die Wahrhaftigkeit des Verheißenen Messias
3. Die Gnadenquelle des khatm-e-nubuwat.

Die Sammlung enthält 70 Zitate, die in den meisten Fällen in vier Sprachen vorliegen. Deshalb ist das Buch über die Grenzen Deutschlands hinaus nützlich. Im Anhang des Buches finden sich biografische Skizzen von zitierten Autoren, um ihre wissenschaftliche und spirituelle Bedeutung zu verdeutlichen. Dieser Anhang gibt dem Leser die Möglichkeit, sich ein Bild von der Authentizität und Wichtigkeit des jeweiligen Zitats machen.

Wir beten inbrünstig, möge dieses Buch die Gnade Gottes finden und ein Wegweiser für den Sucher sein. Amen

Herausgeber

فیض سنت مضاہمیو

مسئلہ وفات مسیح ناصری

25 آیت کریمہ فلماتوفیتني---الخ.....	.1
26 صحیح بخاری سے توفیتني کی وضاحت2
29 علامہ ابن عربیؒ کے نزدیک فلماتوفیتني کی تشریع.....	.3
32 آیت کریمہ وما محمد الا رسول قد خلت4
32 آیت کریمہ ما المسیح ابن مریم الا رسول5
33 وفات مسیح پر اجماع صحابہ6
37 آیت کریمہ یعنی انی متوفیک ---الخ7
38 حضرت ابن عباس کے نزدیک متوفیک کے معنے8
41 آیت کریمہ بل رفعه اللہ الیہ---الخ9
42 حدیث نبویؐ میں رفع الی اللہ کا محاورہ10
45 علامہ ابن عربیؒ کے ہاں لفظ رفع کا استعمال11
50 حضرت امام حسنؑ بھی وفات مسیح کے قائل تھے12
53 علامہ ابن عربیؒ کے نزدیک رفع اور نزول مسیح کی حقیقت13
56 آیت کریمہ واوصانی بالصلوٰۃ والزکوٰۃ مادمت حیاً14
57 امام ابن قیم اور حضرت عیسیٰ کارفع الی السماء15
60,63 حضرت عیسیٰ کی عمر 120 سال از روئے حدیث16
66 بزرگان کے وفات کے سامنے آنحضرت علیہ السلام کا وفات مسیح کا اعلان17
69 اسباب النزول کے ایڈیشن 1990 میں تحریف18

73 آیت کریمہ و اویںہما الی ربواة۔۔۔ الخ	.19
74 حضرت عیسیٰ کی ہجرت از روئے حدیث	.20
77 آیت کریمہ و ما جعلنا لبشر من قبلك المخلد۔۔۔ الخ	.21
78 قول رسول۔ مجھ سے پہلے بھی کسی رسول کو خلو دلما؟	.22
81 تمام انبیاء کی وفات ہو چکی۔ قول رسول ﷺ	.23
84 اگر حضرت موسیٰ اور عیسیٰ زندہ ہوتے تو بھی۔۔۔	.24
87 علامہ سید قطب صاحب مصری اور وفات مسیح ناصری علیہ السلام	.25

صداقت حضرت مسیح موعود علیہ السلام

93 صداقت حضرت مسیح موعود علیہ السلام	.1
96 آیت کریمہ ظہر الفساد فی البر والبحر	.2
97 آخری زمانہ میں مسلمانوں کے روحانی تنزل کا حدیث میں ذکر	.3
100 حدیث میں فرقہ ناجیہ کا ذکر	.4
104 آیت کریمہ و جمیع الشمس والقمر	.5
105 حدیث کسوف و خسوف	.6
108 امام ابن تیمیہ اور چاند اور سورج گر ھن کی تاریخوں کی وضاحت	.7
111 آیت کریمہ و آخرین منہج لما یلحقوا به	.8
112 صحیح بخاری سے حدیث لوکات الایمات۔۔۔ الخ	.9
116 آنیوالے مسیح کی علامات اور کام سنن ابی داؤد میں	.10
119 مسیح محمدی کے چار عظیم الشان کام	.11
122 مسیح موسیٰ اور مسیح محمدی کے جیلے	.12
126 حدیث ولا المهدی الاعیسی ابن مریم	.13
129 امام مہدی کی بیعت کرنے کا تاکیدی ارشاد	.14
131 آنحضرت کا اپنے پیارے مہدی کیلئے سلام	.15

134	خلافت علیٰ منہاج النبوة کی پیشگوئی	.16
137	مجد دین کے ظہور کی پیشگوئی	.17
140	سورۃ التکویر میں مذکورہ آخری زمانہ کی علامات	.18
142	صحیح مسلم میں علامات صحیح موعود علیہ السلام	.19
146	حدیث و امام مکم منکم	.20
147	حدیث فامکم منکم	.21
148	آیت کریمہ ولو تقول علينا---الخ	.22
149	مفتری علی اللہ کو 23 سال کی مہلت نہیں ملتی	.23
152	آیت کریمہ ما یا تبیھ من رسول الکانوا بہ یستہزؤن---الخ	.24
153	علماء ہی مہدی کے دشمن ہونگے	.25
156	قرب قیامت کے دس نشان	.26
159	خروج دجال	.27
171	حدیث رسول من مات بغیر امام---الخ	.28
174	صحیح بخاری میں حضرت صحیح موعودؑ کے کام	.29
177	جماعت اور امام سے وابستگی کی تاکید	.30
180	آیت کریمہ وما کاف ربک مہلک القری	.31
180	آیت کریمہ وما کاف معدیین حتیٰ نبعث رسولًا	.32

فضیان حُنْتَمْ نبوت

183	جماعت احمدیہ اور فضیان حُنْتَمْ نبوت	.1
187	آیت کریمہ اهدا الصراط المستقیم	.2
187	آیت کریمہ یقوم اذکرو انعمۃ اللہ علیکم	.3
187	آیت کریمہ ولقد اتینا بنی اسرائیل الکتب والحكم والنبوة	.4
188	آیت کریمہ من يطع الله الرسول---الخ	.5

189 آیت من بیطح اللہ والرسول۔۔۔ کی تشریح حضرت امام راغب کے نزدیک	.6
193 آیت کریمہ مکاکات محمد ابا الحد۔۔۔ الخ.....	.7
194 حضرت عائشہؓ کا مشہور قول قولوا انه خاتم النبین۔۔۔ الخ.....	.8
197 سید عبدالکریم جیلانیؒ کے نزدیک خاتم النبین سے کیا مراد ہے9
200 رسول کریم ﷺ پر تشریعی نبوت مقتطع ہوئی نہ کہ مقام نبوت10
203 آنحضرت ﷺ کے بعد مطلق نبوت بند نہیں ہوئی11
206 روح المعانی میں لا وحی بعد موقن۔۔۔ کی تشریح.....	.12
209 علامہ ابن عربیؒ کے نزدیک نبوت کی تعریف13
213 قول رسول۔ ان آخر الانبیاء۔۔۔ الخ.....	.14
216 صاحبزادہ ابراہیم۔۔۔ نبی ابن نبی15
219 حضرت ملا علی قاری کے نزدیک خاتم النبین کے معنی16
222 حدیث لوعاش لکان صدیقانبیا17
225 صحیح مسلم میں مسح موعدہ کا لقب نبی اللہ18
228 آنحضرت ﷺ خلق آدم سے بھی پہلے خاتم النبین تھے19
231 درود شریف سے اجرائے فیضان نبوت کا استدلال20
237 نبی شریعت والا کوئی مصلح نہیں آ سکتا۔۔۔ شاہ ولی اللہؒ کا موقف21
240 لفظ خاتم کا حضرت عباسؓ کے لئے استعمال22
243 کتاب ختم الاولیاء میں ختم نبوت کی تشریح23
246 مولانا رومؒ کے ہاں لفظ ختم کا استعمال کمال فن کے لئے24
250 مولانا رومؒ کے نزدیک امتی نبی ہو سکتا ہے25
254 آیت استخلاف26
255 خلافت علی منہاج النبوۃ کی پیشگوئی27
258 اقرب الساعۃ میں حدیث لا وحی بعد موقن کی حیثیت اور حدیث لانبی بعدی کے معنی28
261 آنحضرت ﷺ کے بعد نبی شریعت والا نبی نہیں آ سکتا29

264 مقام ختم نبوت کی مولانا قسم نانو توی کے نزدیک پر معارف تشرع30
269 حضرت موسیؑ کی ایک خواہش31
273 حدیث رسول سے امکان نبوت32
276 آیت کریمہ لیبینی آدم اما یا تینکم33
276 آیت و اخذ اللہ میشاق النبین34
277 آیت کریمہ و اخذنا من النبین میشاقہم35
281 مصنفین کا سوانحی خاکہ (اردو)1
291 مصنفین کا سوانحی خاکہ (انگریزی)2
304 مصنفین کا سوانحی خاکہ (جر من)3

Contents

Question of death of Jesus Christ (Isa) a.s. .1

1.	The verse falamma tawaffaitani (5:117,118)	25
2.	Explanation of tawaffaitani from “Sahi Bukhari”	26
3.	Ibn e Arabi describes the verse falamma tawaffaitani	29
4.	The verse wama Muhammadun Illa Rasool... (3:145)	32
5.	The verse mal Massihubno Maryama illa Rasool.. (5:76)	32
6.	The Sahaba’s consent about Jesus’ death.....	33
7.	The verse ya issa inni mutawaffika (3:56)	37
8.	The meaning of inni mutawaffika according to Ibn-e-Abbas (ra)..	38
9.	The verse bal rafa’hullahu ilaihi (4:158,159)	41
10.	The expression rafa’allahu according to Hadith.....	42
11.	The word rafa according to Ibn-e-Arabi	45
12.	The confirmation about Jesus’s death by Imam Hasan (ra).....	50
13.	The reality about the ascension and the return of the Messiah by Ibn-e-Arabi.....	53
14.	The verse wa aussani bissalate (19:31,34).....	56
15.	Imam Ibn-e-Qeyyim in relation to Messiah’s rafa ilessma	57
16.	Jesus’s age of 120 according to Hadith	60,63
17.	The confirmation of Jesus’ (as) death by the Holy Prophet (pbuh) with the Christians from “Najran”	66
18.	An example of manipulation.....	69
19.	The verse awena huma ila rabwatin (23:51)	73
20.	The migration of Jesus (as) according to Hadith	74
21.	The verse wama ja’alna lebasharin (21:35)	77
22.	Explanation by the Holy Prophet(pbuh) about eternal life.....	78
23.	Explanation by the Holy Prophet (pbuh): All Prophets have passed away	81
24.	Statement of the Holy Prophet (pbuh): “If Moses and Jesus lived...”	84
25.	Allama Syed Qutab of Egypt and the death of Jesus Christ (as)....	87

The Truth of The Promised Messiah a.s

1.	The truthfulness of the Promised Messiah.....	93
2.	The verse zaharal fassadu... (30:42)	96
3.	The spiritual decline of the Muslims according to a Hadith	97
4.	Hadith about a “redeemed community”	100
5.	The verse Jumiash shamsu walqamar (75:8-10)	104
6.	Hadith about eclipse of the Moon and the Sun	105

7.	Imam ibn Taimiyya and the explanation about the dates of eclipses	108
8.	The verse aakhareerna minhum (62:3-4)	111
9.	Hadith in Bukhari When the belief raises from the Earth to Pleiades	112
10.	The mission of the Promised Messiah described in Sunan Abi Daud	116
11.	Four big missions of the Mohammedan Messiah.....	119
12.	The look of the Mosaic and Mohammedan Messiah.....	122
13.	Hadith la al-mahdi illa issa bin mariam.....	126
14.	Emphatic admonition to the oath of allegiance of the Imam Mahdi.....	129
15.	Holy Prophet's (pbuh) Greetings to the Imam Mahdi.....	131
16.	Prophecy of Khilafat after Prophethood	134
17.	Prophecy about the appearance of Islamic Reformers.....	137
18.	The signs of the Later Days in the Sura al Takwir.....	140
19.	The signs of the Mehdi in Sahih Muslim	142
20.	Hadith imamukum minkum	146
21.	Hadith Famakum minkum	147
22.	The verse lau taqwwalu alaina	148
23.	A fabricator upon God won't live longer than 23 years	149
24.	The verse ma yatihim min rasulin....	152
25.	Scholars will be enemies of the Mahdi	153
26.	Ten signs about the Doomsday's approach	156
27.	Outbreak of Dajjal (an Imposter)	159
28.	Hadith man mata begher e Imam.....	171
29.	Imam Mahdi's mission according to Sahih Bukhari.....	174
30.	Emphasis on solidarity with the Imam	177
31.	The verse wama kana mohliqal.....	180
32.	The verse wama kana ma'azzibina.....	180

Blessings of Khatm-e-Nabuwat

1.	The Ahmadiyya-Community and blessings of Khatam-e-Nabuwat	183
2.	The verse Ihdinas-siratul-mustaqeem....	187
3.	The verse ya qaumi uzkuru nematullah....	187
4.	The verse walaqad ataina bani israilal kitaba walhukma wannabuwat.....	187
5.	The verse mai'ny-yuti illaha war-rasula....	188
6.	Explanation of verse mai'ny-yuti illaha war-rasula.... By Imam Raghib	189

7.	The verse ma kana Mohammadun aba.....	193
8.	Hazrat Aisha's explanation about the word Khataman-Nabiyyin	194
9.	The meaning of Khataman-Nabiyyin” according to Ibn-e- Arabi.....	197
10.	The Holy Prophet is the last law bearing prophet, not seal of Prophets	200
11.	Possibility of prophethood after the Holy Prophet (pbuh)	203
12.	Explanation of the statement la wahiyyun b'ada mauti in accordance with Ruhul Muani	206
13.	Ibne Arabi (r.a) describes the definition of Nabuwat	209
14.	Statement of the Holy Prophet (pbuh) inni akherul anbiyya.....	213
15.	Statement of Nabi ibn-e- Nabi about Ibrahim son of the Holy Prophet (pbuh)	216
16.	Mulla Ali Qari about Khatam an-Nabiyyin	219
17.	Hadith lau A'asha lakana sadiqan nabiyya....	222
18.	The title of the Promised Messiah in Sahih Muslim	225
19.	The Holy Prophet was the Khatam an-Nabiyyin before the creation of Adam.....	228
20.	According to Darud Sharif blessings of Nabuwat continue.....	231
21.	There shall be no Law bearing reformer (Shah Waliullah)	237
22.	Use of term Khatam about Hazrat Ibn-e-Abbas (r.a.).....	240
23.	Explanation of Khatam-e-Nabuwat in the book Khatam-ul-Aouliya.....	243
24.	Use of term Khatam according to Moulana Rumi (r.a.)	246
25.	Maulana Rumi believes in a ummati-prophet.....	250
26.	The verse istikhlas.....	254
27.	Prophecy of the Khalifat ala minhajun-nabuwat.....	255
28.	The meaning of La nabiyya baadi in Iqtrabus-sa'at	258
29.	No law bearing prophet after Hazrat Mohammad (pbuh) according to Dafe ul Wasawis.....	261
30.	A plausible explanation of the Khatam-e-Nabuwat according to Moulana Qasim Nanotvi	264
31.	Prophet Moses wished to be among one of the prophets of Ummat-e-Mohammadiyya	269
32.	Hadith Abu Bakr khairun nase illa ainy'yakoona nabiyyun....	273
33.	The verse ya bani aadama imma yatiyannakum...	276
34.	The verse wa iz akhazallaho mithaqan nabiyyina.....	276
35.	The verse wa iz akhazna minan nabiyyina mithaqahum.....	277
1.	Biographies of the authors (Urdu).....	281
2.	Biographies of the authors (English)	291
3.	Biographies of the authors (German)	304

INHALTSVERZEICHNIS

Frage des Todes Jesu Christi

1.	Der Vers „...als du mich sterben ließest“ (5:117,118).....	25
2.	Kommentar aus Shahi Buchari zum Vers falamma tawaffaitani ...	26
3.	Ibn Arabi zum Vers falamma tawaffaitani	29
4.	Der Vers "Muhammad ist nur ein Gesandter ... "	32
5.	Der Vers "Der Messias, Sohn der Maria, ist nur ein Gesandter ... "	32
6.	Übereinkunft der Sahaba zur Frage des Todes Christi.....	33
7.	Der Vers ya issa inni mutawaffika	37
8.	Bedeutung von inni mutawaffika nach Ibn Abbas.....	38
9.	Der Vers bal rafa'allahu ilaihi	41
10.	Der Ausdruck rafa'allahu nach Hadith.....	42
11.	Gebrauch von rafa' bei Ibn Arabi	45
12.	Bestätigung vom Tod Christi durch Imam Hussain.....	50
13.	Die Wirklichkeit der Himmelfahrt und Wiederkunft des Messias bei Ibn Arabi	53
14.	Der Vers wa aussani bissalate.....	56
15.	Imam Ibn e Qayyim über die Himmelfahrt Jesu	57
16.	Laut Hadith lebte Jesus 120 Jahre.....	60,63
17.	Bestätigung des Todes Christi durch Heiligen Propheten bei den Christen von Nedjran.....	66
18.	Manipulation in Asbab ul Nusul	69
19.	Der Vers „wa aawainahuma ila rabwa“	73
20.	Die Migration Jesu nach einer Hadith	74
21.	Der Vers wama ja'alna bashar	77
22.	Erklärung des Propheten: Hat ein Prophet vor mir ewiges Leben erhalten	78
23.	Erklärung des Propheten: Alle Gesandte sind verstorben.....	81
24.	Ausspruch des Propheten: „Wenn Moses und Jesus leben würden“	84
25.	Allama Sayyed Qutb und der Tod Jesu Christi	87

Die Wahrhaftigkeit des Verheißenen Messias

1.	Die Wahrhaftigkeit des Verheißenen Messias	93
2.	Der Vers zaharal fassaadu	96
3.	Der spirituelle Verfall der Muslime in der Endzeit nach einer Hadith.....	97

4.	Hadith über eine "erlöste Gemeinde"	100
5.	Der Vers jumiash shamsu walqamar	104
6.	Hadith über Mond- und Sonnenfinsternis.....	105
7.	Imam ibn Taimiyya und Erklärung der Daten von Sonnen und Mondfinsternis	108
8.	Der Vers aacharina minhum...	116
9.	Hadith in Buchari "Wenn der Glaube sich zu den Plejaden erhebt..."	112
10.	Abi Daud über die Zeichen und Aufgaben d. Verheißenen Messias.....	116
11.	Vier große Aufgaben des mohammadanischen Messias	119
12.	Das Aussehen des mosaischen Messias und des mohammadanischen Messias	122
13.	Hadith "la al-mahdi illa issa bin mariam".....	126
14.	Eindringliche Ermahnung zum Treugelöbnis des Imam Mahdi....	129
15.	Die Grüße des Propheten für den Imam Mahdi	131
16.	Prophezeiung eines Khalifats nach dem Prophetentum	134
17.	Prophezeiung über die Erscheinung von Reformern im Islam	137
18.	Die Zeichen der Endzeit in der Sura al-Takwir	140
19.	Zeichen des Mahdis in Sahih Muslim.....	142
20.	Hadith "imamukum minkum"	146
21.	Hadith fa-ammakum minkum.....	147
22.	Der Vers "lau taqawwalu alaina"	148
23.	Einer, der Offenbarung erdichtet, kann danach nicht länger als 23 Jahre leben	149
24.	Der Vers ma yatihim min rasulin.....	152
25.	Gelehrte werden Feinde des Mahdis sein	153
26.	Zehn Zeichen des Herannahens des Jüngsten Tags.....	156
27.	Auszug des Dajjal.....	159
28.	Hadith "Wer stirbt, ohne seinen Imam zu kennen..."	171
29.	Aufgaben des Verheißenen Messias nach Sahih Buchari	174
30.	Ermahnung zur Verbundenheit mit dem Imam.....	177
31.	Der Vers wamakana rabbaka muhliku.....	180
32.	Der Vers wama kana mu'azzibina.....	180

Die Gnadenquelle der Khatm-e-Nabuwwat

1.	Die Ahmadiyya-Gemeinde und Khatm-e-Nabuwwat	183
2.	Der Vers Führe uns auf den geraden Weg.....	187
3.	Der Vers ya qaumi	187
4.	Der Vers walaqad ataina bani israila alkitaba	187
5.	Der Vers manyuti 'illaha wa rasula	188
6.	Imam Raghib über jene, "denen Gnade erwiesen wurde"	189
7.	Der Vers ma kana mohammadun...	193

8.	Erklärung der Hazrat Aischa zum Begriff Khatam an-Nabiyyin...	194
9.	Bedeutung von Khatam an-Nabiyyin nach Ibn Arabi.....	197
10.	Der Heilige Prophet ist der letzte gesetzbringende Prophet.....	200
11.	Prophetentum nach dem Heiligen Propheten ist nicht völlig unmöglich.....	203
12.	Erklärung des Ausspruchs la wahiyun b'ada mauti nach Ruhul Ma'ani	206
13.	Allgemeines Prophetentum nach dem Heiligen Propheten ist möglich	209
14.	Ausspruch des Propheten: inni aacharul anbiyya	213
15.	Hazrat Ibrahim (Sohn des Propheten), Prophet, Sohn eines Propheten.....	216
16.	Mulla Ali Qari über Khatam an-Nabiyyin	219
17.	Hadith lo ascha lakana saddiqan nabiyya	222
18.	Der Verheißene Messias ist nach Shahih Muslim ein Prophet	225
19.	Der Heilige Prophet Muhammad war vor der Schöpfung der Welt der Khatam an-Nabiyyin	228
20.	Durud beinhaltet auch die Möglichkeit des Prophetentums nach dem Heiligen Propheten Muhammad (s).....	231
21.	Es gibt keinen Reformer mit einem neuen Gesetz	237
22.	Hazrat Abbas ist Khatam al-Muhajir	240
23.	Erklärung der Khatm-e-Nabuwwat im Buch Khatm-e-Aulia.....	243
24.	Maulana Rumi versteht unter khatm Vollkommenheit	246
25.	Maulana Rumi hält einen ummati-Propheten für möglich.....	250
26.	Der Vers-Istikhlas	254
27.	Prophezeiung des Khalifats auf der Grundlage des Prophetentums	255
28.	Iqtrab as-sa'ah: Ausspruch La wahiyun ba'ada mauti ist nicht authentisch	258
29.	Nach dem Heiligen Propheten kann kein Bringer eines neuen religiösen Gesetzes kommen	261
30.	Plausible Erklärung der Khatm-e-Nabuwwat in Tahzir un-Naas.....	264
31.	Hazrat Muhammad (s) sagte Propheten aus der Umma voraus....	269
32.	Hadith über die Möglichkeit eines Propheten nach dem Heiligen Propheten Muhammad	273
33.	Der Vers ya bani aadama imma yatiyannakum.....	276
34.	Der Vers wa iza achazallaho mithaq an-Nabiyyina.....	276
35.	Der Vers wa iza achazna minan nabiyyina mithaqahum... ..	277
1.	Die Biographien der Autoren (Urdu).....	281
2.	Die Biographien der Autoren (Englisch).....	291
3.	Die Biographien der Autoren (Deutsch)	304

مسئلہ وفات مسیح ناصری

مسئلہ وفات مسیح ناصری کو تین لحاظ سے خاص اہمیت حاصل ہے۔ اول اس لحاظ سے کہ اس وقت دنیا کا بیشتر حصہ عیسائی مذہب کا پیرو ہونے کی وجہ سے حضرت مسیح ناصری کو خدا کا بیٹا سمجھتے ہوئے اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ وہ اس دنیا میں چند سال زندگی گزارنے کے بعد پھر آسمان پر واپس چلے گئے اور وہاں زندہ موجود ہیں اور نعوذ باللہ خدا کی ازلی حکومت کے حصہ دار ہیں۔ دوسرے اس لحاظ سے کہ عیسائیوں کے اس عقیدہ سے خاموش طور پر متاثر ہو کر اور بعض قرآنی آیات اور احادیث کی غلط تشریح کر کے اس زمانے کے جمہور مسلمان بھی اس خیال پر قائم ہو گئے ہیں کہ گو حضرت عیسیٰ خدا یا خدا کا بیٹا تو نہیں تھے بلکہ صرف خدا کے ایک نبی تھے مگر صلیب کے واقعہ پر خدا نے انہیں بھجم عنصری زندہ آسمان پر اٹھالیا تھا اور وہ اب تک آسمان پر زندہ موجود ہیں اور آخری زمانہ میں دوبارہ زمین پر نازل ہو کر اُمّتِ محمدیہ کی اصلاح کریں گے۔ تیرے اس لحاظ سے کہ چونکہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب بانی سلسلہ احمدیہ کا دعویٰ مسیح موعود ہونے کا ہے اس لئے جب تک حضرت مسیح ناصری کی وفات و حیات کے عقیدہ کا فیصلہ نہ ہو کوئی مسلمان حضرت مرزا صاحب کے دعویٰ میسیحیت کی طرف سنجیدگی کے ساتھ توجہ نہیں کر سکتا۔ ان تین وجوہات کی وجہ سے ضروری ہے کہ قرآن و حدیث اور عقل خداداد کی روشنی میں اس مسئلہ کو حل کر کے مخلوق خدا کی بدایت کا سامان مہیا کیا جائے اور عیسائیت کے مقابلے میں اسلام کا بول بالا ہو۔

تیرہوں صدی ہجری میں مسلمانوں میں راجح اس عقیدہ حیات مسیح کا سہارا لے کر عیسائی پادریوں نے سادہ لوح مسلمانوں کو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں عیسائی بنایا۔ ہندوستان کے علاقوں کے علاقے ان پادریوں نے فتح کرنے کے دعوے کئے۔ حتیٰ کہ خاص خانہ کعبہ پر یسوع مسیح کا جنمداری کے عزم کا اعلان بھی کیا۔

اس سیالاب کا سد باب کرنے کے لئے کسی بڑے سے بڑے مسلمان عالم یا رہنماء کے پاس کچھ بھی تونہ تھا۔ اور بڑھتے ہوئے اس سیالاب کے سامنے اگر کوئی سد سکندری بنا تو حضرت مرزا غلام احمد قادریانی کا وجود تھا۔ جن کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے وفات مسیح کا ایسا کار گر ہتھیار تھا یا تھا۔ چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے عیسائیت کا بڑھتا ہوا الشکر پسپا ہونے لگا اور بالآخر اسلام کے حق میں وہ انقلاب آیا، جس نے دنیا کا نقشہ بدل کر رکھ دیا اور اس فتح میں کاتند کرہ غیر وہ نے بھی کیا اور یہ اقرار بھی کہ یہ ساری مہم وفات مسیح کے ذریعہ طے ہوئی۔

پس مسئلہ وفات مسیح ناصری جماعت احمدیہ کے لئے ہی نہیں بلکہ ساری امت مسلمہ کے لئے ایک بنیادی اہمیت کا حامل ہے۔ اس

کی اسی اہمیت کے پیش نظر آئندہ صفحات میں ایسے بزرگان سلف کی مستند اور مسلمہ کتب سے ایسے اقتباسات کے عکس شائع کئے جا رہے ہیں۔ جو اس حقیقت کا اعتراف کرتے ہیں کہ ابتدائی اور بنیادی طور پر اُمت مسلمہ میں عقیدہ حیات مسیح ناصری کا تصور اور وجود نہ تھا، بلکہ یہ بہت بعد میں آہستہ آہستہ اُس وقت مسلمان عقائد کا حصہ بنا جب کثرت سے عیسائی حلقة بگوش اسلام ہونے لگئے تھے۔

The issue of the death of Jesus Christ

The issue of the death of the Messiah of Nazareth is important in three respects. Firstly, the major part of the world being follower of Christianity and regarding Hazrat Messiah as the son of God believe that he lived in this world for a few years and was then raised to heaven, where he is alive and, God forbid, shares the eternal regime of God. Secondly, also the Muslim masses of this time after being silently influenced by this belief and by wrongly interpreting certain Quranic verses and Hadith are firmly holding the thought that while Hazrat Isa was neither God nor son of God but on the occasion of his crucifixion Almighty Allah lifted him alive with his body and that he is still alive in heaven. In the latter days after descending on earth, they claim, he will reform the Muslim Ummah. And Thirdly, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, founder of the Ahmadiyya movement in Islam, claimed to be the Promised Messiah. However, till the issue of death and life of Hazrat Messiah is not resolved, no Muslim can properly examine the claim of Hazrat Mirza Sahib. Due to these three reasons it is essential that in the light of Quran, Hadith and Godly blessed wisdom this issue about the death of Jesus should be clarified for the guidance of mankind, so that the superiority of Islam may be established over Christianity.

During the 13th century with the support of the prevailing belief about the Messiah of Nazareth still being alive, the Christian missionaries converted thousands and hundreds of thousands of simple Muslims to Christianity. The Christian missionaries made claims of conquering territories after territories of India. So much so they indicated their determination to host the flag of Christianity in Mecca. To resist against the invasion of Christianity, no Muslim leader or scholar had anything to protect Islam. It was only Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, who became a wall of rock. God has blessed him with arguments regarding the death of Hazrat Messiah, as an effective weapon. As a result, the invasion of Christianity was retreated. And at last a revolution in favour of Islam took place, which changed the whole situation. This great victory, even opponents confessed, was due to the reasoning proving the death of the Messiah of Nazareth.

Therefore the issue of the death of Jesus of Nazareth is not only important for Ahmadis, but also for the whole Muslim community. The fact is that in the early days of Islam there was no such concept or belief about eternal life of the Messiah. However, this belief gradually found its way to the Muslim community when Christian started joining the fold of Islam in large numbers.

Abstracts of the books of the Holy Saints of Ummah regarding this issue are reproduced below.

Frage des Todes Jesus Christi^{as}

Der Frage nach dem Tode Jesus Christi^{as} kommt in dreifacher Hinsicht große Bedeutung zu. Erstens, weil ein großer Teil der Welt Anhänger der christlichen Religion ist und folglich auch daran glaubt, dass er einige Jahre in dieser Welt lebte und dann wieder in den Himmel aufgefahren sei, wo er noch lebendig sei und (Gott behüte) an der Ewigen Herrschaft Gottes Anteil habe. Zweitens, weil auch die Mehrheit der Muslime sich von dieser Lehre hat beeinflussen lassen und aufgrund der Missdeutung einiger Qur-ân Verse und Überlieferungen nun annimmt, Jesus^{as} sei zwar kein Sohn Gottes, sondern ein Prophet, aber bei der Kreuzigung sei er von Gott in seinem irdischen Körper in den Himmel aufgenommen worden, wo er immer noch leben würde und in der Endzeit wiederkäme und die Anhänger des Propheten Muhammad reformieren würde. Drittens, weil Hazrat Mirza Ghulam Ahmad^{as} beansprucht, der Verheißene Messias^{as} zu sein. So muss zunächst die Frage des Todes Jesu Christi^{as} geklärt werden, bevor der Anspruch Hazrat Mirza Ghulam Ahmads^{as} auf das Amt des Verheißenen Messias^{as} ernsthaft untersucht werden kann. Aus diesen drei Gründen ist es wichtig, diese Frage aus der Perspektive von Qur-ân, Hadith und dem natürlichen Menschenverstand zu beleuchten und Unklarheiten zu beseitigen, so dass daraus Nutzen erzielt wird und der Islam gegenüber dem Christentum wieder an Glanz zunimmt.

Im 13. Jahrhundert nach der Hidschra haben sich christliche Missionare diese Fehlmeinung hinsichtlich des Lebens Jesus^{as} unter den Muslimen zunutze gemacht und Abertausende von ihnen zum Christentum bekehrt. Sie beanspruchten, ganze Regionen von Indien für das Christentum erobert zu haben. Sie verkündeten sogar, die Fahne des Christentums bald an der Kaaba hissen zu können. Die muslimischen Führer und Gelehrte von damals wussten dieser Flut von Konversionen zum Christentum nichts entgegenzusetzen. Wenn es einem gelang, diese Flut einzudämmen, so war es Hazrat Mirza Ghulam Ahmad^{as}. Denn Gott hatte ihm die Wahrheit von Jesus^{as} Tod anvertraut, das die Heere christlicher Missionare letztlich zum Rückzug zwang und einen Wandel herbeiführte, der die Situation komplett

veränderte. Freund und Feind erkannten an, dass dieser eindeutige Sieg gegen die Missionare durch das Darstellen der tatsächlichen Umstände von Jesus'as Tod möglich wurde.

Kurzum, die Frage von Leben und Tod Christi ist nicht nur für die Ahmadiyyat zentral, sondern für die gesamte islamische Gemeinschaft. Daher werden auf den folgenden Seiten Aussagen von bedeutenden Gelehrten und Zitate aus wichtigen Werken des Islam - auch in Faksimile der entsprechenden Originalseiten - vorgelegt, die beweisen, dass die Muslime anfänglich nicht an ein vermeintliches Fortleben Jesu^{as} im Himmel glaubten, und dass sich dieser Glaube erst viel später seinen Weg in die Lehre der Muslime bahnte, nämlich zu der Zeit, als Christen in Massen dem Islam beitraten.

وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَعْنِي ابْنَ مَرْيَمَ إِنَّكَ قُلْتَ لِلنَّاسِ أَنَّجَدُونِي وَأُنْجِيَ الْهَنِينَ مِنْ دُورِنِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُوْنُ لِيَ
أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحِقٍّ إِنْ كُنْتَ قُلْتَ فُتُنَّةً فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُكَ مَا فِي تَفْسِيرٍ وَلَا آغْلَمُكَ مَا فِي تَفْسِيرٍ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ
الْعُيُوبِ ۝ مَا قُلْتَ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمْرَتَنِي بِهِ أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ۝ وَكُنْتَ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ ۝ فَلَمَّا
تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبُ عَلَيْهِمْ ۝ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝ (المائدۃ: 117-118)

اور جب اللہ نے کہا۔ اے عیسیٰ ابن مریم! کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا دو معبود بنالتواس نے جواب دیا کہ (ہم) تجھے (تمام عیوبوں سے) پاک قرار دیتے ہیں۔ میری شان کے شایاں نہ تھا کہ میں (وہ بات) کہتا، جس کا مجھے حق نہ تھا اور اگر میں نے ایسا کہا تھا تو تجھے ضرور اس کا علم ہو گا جو کچھ میرے جی میں ہے تو جانتا ہے اور جو کچھ تیرے جی میں ہے میں نہیں جانتا۔ تو یقیناً (سب) غیب کی باقتوں سے اچھی طرح واقف ہے۔ میں نے ان سے صرف وہی بات کہی جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا یعنی یہ کہ اللہ کی عبادت کرو، جو میرا (اچھی) رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے اور جب تک میں ان میں (موجود) رہا، میں ان کا نگران رہا۔ مگر جب تو نے مجھے وفات دے دی تو تسویہ ان پر نگران تھا (میں نہ تھا) اور توہر چیز پر نگران ہے۔

Sura 5:117-118 And when Allah will say, "O Jesus, son of Mary, didst thou say to men, "Take me and my mother for two gods beside Allah?" he will answer, "Holy art Thou. I could never say that to which I had no right. If I had said it, thou wouldst have surely known it. Thou knowest what is in my mind, and I know not what is in thy mind. It is only Thou Who art the Knower of hidden things. "I said nothing to them except that which Thou didst command me- worship Allah, my Lord and your Lord.' And I was a witness over them as long as I remained among them, but since Thou didst cause me to die, Thou hast been the watcher over them; and Thou art Witness over all things.

Sura 5:118 Und wenn Allah sprechen wird: «O Jesus, Sohn der Maria, hast du zu den Menschen gesprochen: "Nehmet mich und meine Mutter als zwei Götter neben Allah"?», wird er antworten: «Heilig bist Du. Nie konnte ich das sagen, wozu ich kein Recht hatte. Hätte ich es gesagt, Du würdest es sicherlich wissen. Du weißt, was in meiner Seele ist, aber ich weiß nicht, was Du im Sinn trägst. Du allein bist der Wisser der verborgenen Dinge. Nichts anderes sprach ich zu ihnen, als was Du mich geheißen hast: "Betet Allah an, meinen Herrn und euren Herrn." Und ich war ihr Zeuge, solange ich unter ihnen weilte, doch seit Du mich sterben ließest, bist Du der Wächter über sie gewesen; und Du bist aller Dinge Zeuge.»

صَحْقُ الْبَخَارِيِّ

تألِيف

الإِمامُ الْحَافِظُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مَحَمْدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَخَارِيُّ
الْمُتَوفِّيَ سَنَةً ٢٥٦ هـ

مراجعةً وضبطاً وفهمةً
الشِّيخُ مُحَمَّدُ عَلَى الْقَطْبِ الشِّيخُ هَشَامُ الْبَخَارِيُّ

المُحَمَّدُ الْبَخَارِيُّ

الْمَكْتَبَةُ الْعَظِيمَةُ
مَكْتَبَةُ الْمُحَمَّدِ الْبَخَارِيِّ

١٤١١

كتاب التفسير

1411

سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: حَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ: «بِاَيْهَا النَّاسُ، إِنَّكُمْ مَحْشُورُونَ إِلَى اللَّهِ حُفَاظَةً عُرَاءً عُرَاءً، ثُمَّ قَالَ: «كَمَابَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقِنَا تَعْيِدُهُ وَعَدَّا عَيْنَنَا إِنَّا كَانَافَعِيلِكُمْ»^(١). إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، ثُمَّ قَالَ: أَلَا وَإِنَّ أَوَّلَ الْخَلَاقِ يُعْكِسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِبْرَاهِيمَ، أَلَا وَإِنَّهُ يُجَاهُ بِرِجَالٍ مِنْ أُمَّتِي فَيُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتُ الشَّمَالِ، فَأَقُولُ: يَا رَبَّ أَصْبِحَابِي، فَيُقَالُ: إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثْتُ بَعْدَكَ، فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ: «وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَيْئًا مَاءِدَمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا وَقَيَّتِنِي كُنْتَ أَنْتَ الْرَّقِيبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَّتِي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ»^(٢). فَيُقَالُ: إِنَّ هُؤُلَاءِ لَمْ يَرَالُوا مُرْتَدِينَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ مُنْذُ فَارَقُوهُمْ».

١٥ - بَابٌ: قَوْلِهِ:

﴿إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عَبَادُكُمْ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾^(٣)

٤٦٢٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَبِيرٍ: حَدَّثَنَا سُفيَّانُ: حَدَّثَنَا الْمُغِيْرَةُ بْنُ النُّعْمَانِ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبْنِ عَبَّاسٍ: عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «إِنَّكُمْ مَحْشُورُونَ، وَإِنَّ نَاسًا يُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتُ الشَّمَالِ، فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ: «وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دَمْتُ فِيهِمْ - إِلَى قَوْلِهِ - الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ».

٦ - تَفْسِيرُ سُورَةِ الْأَنْعَامِ

قَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ: «ثُمَّلَمَتْ كُنْ فَتَنَهُمْ»^(٤): مَعْذِرَتُهُمْ. «مَعْرُوشَاتٍ»^(٥): مَا يُعْرِشُ مِنَ الْكَرْمِ وَغَيْرِ ذَلِكِ. «حَمُولَةً»^(٦): مَا يُحْمَلُ عَلَيْهَا. «وَلَلَّبِسَاتَا»^(٧): لَسْبَهُنَا. لَأَنْدَرُكُمْ بِهِ أَهْلَ مَكَّةَ «يَنَاؤُنَّ»^(٨): يَبْعَدُونَ: «تُبَسَّلَ»^(٩): تُفَضُّحُ. «أَبْسِلُوا»^(١٠): أَفْضِحُوْهَا. «بَاسْطُوا أَيْدِيهِمْ»^(١١):

(٦) سورة الأنعام: الآية ٩

(٧) سورة الأنعام: الآية ٢٦

(٨) سورة الأنعام: الآية ٧٠

(٩) سورة الأنعام: الآية ٧٠

(١٠) سورة الأنعام: الآية ٩٣

(١) سورة الأنبياء: الآية ١٠٤

(٢) سورة العنكبوت: الآية ١١٨

(٣) سورة الأنعام: الآية ٢٣

(٤) سورة الأنعام: الآية ١٤١

(٥) سورة الأنعام: الآية ١٤٢

عَنْ أَبْنَى عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: حَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ،...
يُجَاهُ إِرْجَالٍ مِنْ أُمَّتِي فَيُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتُ الشَّمَالِ»، فَأَقُولُ: يَا رَبَّ أَصْبَحَابِي، فَيَقُولُ:
إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثْنَا بَعْدَكَ، فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ: «وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا
مَادُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَفَتَّتَيْ كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ»

(صحیح بخاری ، کتاب التفسیر ، سورۃ المائدہ زیر آیت وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا --- جلد 3 صفحہ 1411)

حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا! اے لوگو۔۔۔ قیامت کے دن میری امت کے کچھ لوگ دوزخ کی طرف لے جائیں گے تو میں کھوں گا اے میرے رب یہ تو میرے صحابہ ہیں۔ جواب ملے گا تو انہیں جانتا کہ تیرے پیچھے انہوں نے کیا کیا۔ اس وقت میں وہی کھوں گا۔ جو اللہ تعالیٰ کے صالح بندے (عیسیٰ بن مریم) نے کہا تھا۔ کہ میں ان کا اسی وقت تک نگران ہاجب تک ان میں ہا۔ اور جب تو نے مجھے وفات دے دی تو وہی ان کا نگہبان تھا۔

Hazrat Ibn Abbas, Allah be pleased with him relates, that the Holy Prophet, peace and blessings of Allah be upon him, delivered a sermon and said:-

"..... O, people, a number of people from the followers of my Ummah would be taken to the hell, thereupon, I shall say, O my Lord, these are my companions. Then I would be told: you do not know what they contrived after you. At that time, I shall say precisely what the righteous servant- Jesus son of Mary- said: "And I was witness over them as long as I remained among them, but since Thou didst cause me to die, Thou hast been the watcher over them."

(Al-Bukhari, Kitab-ul-Tafsir, Sura Maaida, Page 1411, Vol. 3)

Hazrat Ibn-e-Abbasra berichtetet, daß der Heilige Prophet^{saw} in einer seiner Ansprachen sagte: "[...] gebt acht, einige Menschen meiner Gefolgschaft werden in die Hölle gebracht werden. Darauf werde ich sagen 'O mein Herr, das sind doch meine Gefährten.' Mir wird geantwortet werden: 'Du weißt nicht, was sie nach deinem Ableben taten.' Darauf werde ich genau das erwidern, was seinerzeit der rechtschaffene Diener Gottes (Jesusas, Sohn der Maria) erwiderte: 'Und ich war ihr Zeuge, solange ich unter ihnen weilte, aber als Du mich sterben ließest, bist Du der Wächter über sie geworden.'"

(Al-Buchari, Kitab-ul-Tafsir, Sura Maaida, Seite1411, Bd.3)

تَفْسِيرُ

الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ

لِلشَّيْخِ الْأَكْبَرِ الْعَارِفِ بِاللهِ

الْعَلَامَةِ مُحَمَّدِ الدِّينِ بْنِ عَزِيزِي

الْمُتَوَفِّى سَنَةُ ٦٣٨ هِجْرِيَّةٍ

تَحْقِيقٌ وَتَقْدِيمٌ

الدَّكتُورُ مُصطفىُّ عَالِبٌ

الْمَحَلُّ الْأَوَّلُ

دارِ الْإِنْجِلِيسِ

لِلطبَاعَةِ وَالنَّسْرَةِ وَالتَّوزِيعِ - بَيْرُوت

الذي نسبة ربيبيته الى الكل سواء ، فنلطوا فما رأوه إلا في بعض التفاصيل لضيق وعائهم ، « و كنت عليهم شهداً » رقيباً حاضراً أو راعياً ، وأعلمهم ما دمت فيهم ، أي ما يجيء مني وجود بقية « فلما توفيتني » أذيبتي بالكلبة بك « كنت أنت الرقيب عليهم » لثناي فيك « وأنت على كل شيء شهيد » حاضر يوجد بك ، وإن لم يكن ذلك الشيء .

« إن تعذيبهم » بإدامة العذاب « فإنهم عبادك » أحقاء بالحجب والحرمان ، وأنت أولى بهم ، تتعلّم ما تشاء . « وإن تغفر لهم » برفع العذاب . « فإنك أنت العزيز » القوي القادر على ذلك ، لا ترول عزتك بتقريبيهم ، ورفع حباعيهم . « الحكم » تتعلّم ما تفعله من التعذيب بالحجب ، والحرمان والتقرير بالطف ، والغفران بمكتنك البالغة . « هذا يوم » نفع صدقك يبارك وصدق كل صادق ، لكونه خيرة الكمالات ، وخاصة الملكوت . « لهم جنات » الصفات ، بدليل ثرة الرضوان ، فإن الرضا لا يكون إلا بفناء الإرادة ، ولا تتفق إرادتهم إلا إذا غلبت إرادة الله عليهم فأفتقها ، وهذا أقدم رضوان الله عنهم على رضوانهم عنه ، أي لما أرادهم الله تعالى في الأزل ، بظهورية إرادته ، وحمل رضوانه ، ورضي بهم حلاً وأهلاً لذلك ، سلب عنهم إرادتهم بأن يجعل إرادته مكانها ، وأبدلهم بها ، فرضي عنهم ، وأرضام « ذلك الفوز المظيم » أي الفلاح العظيم الثاني ، ولو كان فناء الذات لكان الفوز الأكبر ، والفلاح الأعظم ، له ما في العالم العلوي ، والسفلي ، باطن وظاهره . « وما فيهن » أسماؤه وصفاته وأفعاله « وهو على كل شيء قديم » إن شاء أبقى بظهور ذاته ، وإن شاء أوجده بستره بأسانته وصفاته .

وَكُنْتَ عَلَيْهِمْ شَهِداً ، رَقِيباً حَاضِراً أَرَاعِيهِمْ ، وَأَعْلَمُهُمْ
دَمْتَ فِيهِمْ ، أَيِّ مَا بَقِيَ مِنِّي وَجُودٌ بَقِيَةٌ دَفْلَا تُوفِّيَنِي ، أَفْتَبِتُنِي
بِالْكَلِيْةِ بِكَ « كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبُ عَلَيْهِمْ » لِفَنَانِي فِيكَ دَوَّانْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
شَهِيدٌ ، حَاضِرٌ بِوْجَدِكَ ، وَإِلَّا مِمَّا يَكُنْ ذَلِكَ الشَّيْءُ .

(تفسیر القرآن الکریم، جلد ۱، صفحہ 354)

حضرت محبی الدین ابن عربیؒ سورۃ ماکہ کی آخری آیات کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں:- وَكُنْتَ عَلَيْهِمْ شَهِيداً مِّنْ أَنْ كَانَ حَاضِرٌ تَحْتَ أَرْضِكَ وَأَنْ كَانَ مَدْمُوتاً فِيهِمْ لِيَعْلَمَ دِيَاتَهُمْ - مَادَمْتَ فِيهِمْ لِيَعْلَمَ جَبَ تَكَ مِنْ أَنْ مِنْ باقی رہا فلما تُوفِّيَنِي جَبَ تَوَنَّ مَجْھے کُلی طور پر فنا کر دیا کنت انت الرقیب علیہم میرے فنا ہونے کی وجہ سے تو تو ان پر نگران تھا وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ تُوْحَدُ هُوَ وَرَنْدَيْهُ بَاتٌ كَبُحْنَهُ هُوَ تَقْتَلُ.

Elucidating the last verses of Sura Ma'idah, Hazrat Mohyuddin Ibn Arabi writes:- I was overseeing them and looking after them as well as teaching them - as long as I remained among them - but when You caused me to die then You alone were the watchkeeper over them following my death, You were present and exist, otherwise this could not have taken place. (Tafseer alQuran vol. 1, Page 354)

Die letzten Verse der Sura al-Maidah analysierend, sagte Hadhrat Mohyiddin Ibn Arabi: "Und ich war ihr Zeuge und sorgte mich um diese und lehrte sie, solange ich unter ihnen weilte. Doch seit Du mich sterben ließest, warst Du nach meinem Tod der Wächter über sie. Du bist aller Dinge Zeuge, sonst wäre jenes, dass passiert ist, nicht geschehen. (Tafsir alQuran Bd. 1, Page 354)

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَأَيْنَ مَاتَ أَوْ قُتِلَ افْتَلَنَّ يَقْبِلُونَ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقِلِبْ عَلَى عَقَبَيْهِ فَلَئِنْ يُفْهَمَ اللَّهُ شَيْعًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الْشُّكْرَ بِمِنْ (آل عمران: 145)

اور محمد صرف ایک رسول ہے۔ اس سے پہلے سب رسول فوت ہو چکے ہیں۔ پس اگر وہ وفات پا جائے یا قتل کیا جائے تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ جاؤ گے؟ اور جو شخص اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ جائے وہ اللہ کا ہر گز کچھ نقصان نہیں کر سکتا۔ اور اللہ شکر گزاروں کو ضرور بدله دے گا۔

Sura 3:145 And Muhammad is only a Messenger. Verily, all Messengers have passed away before him. If then he die or be slain, will you turn back on your heels? And he who turns back on his heels shall not harm Allah at all. And Allah will certainly reward the grateful.

Sura 3:145 Mohammad ist nur ein Gesandter. Vor ihm sind Gesandte dahingegangen. Wenn er nun stirbt oder getötet wird, werdet ihr umkehren auf euren Fersen? Und wer auf seinen Fersen umkehrt, der fügt Allah nicht den mindesten Schaden zu. Und Allah wird die Dankbaren belohnen.

مَا الْمُصَيْخُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمَّةٌ صِدِّيقَةٌ كَانَتِ يَاْعْلَمُنَ الظَّعَامَ أَنْظُرْنَاهُنَّا تُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَتِ تُمَّا النُّظُرَ أَلِيْيُوْفَكُوْتِ (المائدۃ: 76)

مسیح ابن مریم صرف ایک رسول تھا، اس سے پہلے رسول (بھی) فوت ہو چکے ہیں۔ اور اسکی ماں بڑی راستباز تھی۔ وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے دیکھ کس طرح ان کے (فائدہ کے) لئے دلائل بیان کرتے ہیں۔ پھر دیکھ کہ ان کا خیال کس طرح بدل دیا جاتا ہے۔

Sura 5:76 The Messiah, son of Mary, was only a Messenger; surely, Messengers like unto him had indeed passed away before him. And his mother was a truthful woman. They both used to eat food. See how We explain the Signs for their good, and see how they are turned away.

Sura 5:76 Der Messias, Sohn der Maria, war nur ein Gesandter; gewiß, andere Gesandte sind vor ihm dahingegangen. Und seine Mutter war eine Wahrheitsliebende; beide pflegten sie Speise zu sich zu nehmen. Sieh, wie Wir die Zeichen für sie erklären, und sieh, wie sie sich abwenden.

صَحِحُ البَخَارِي

تألِيف

الإِمامُ الْحَافِظُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَسَمَّ عَيْلُ الْبَخَارِي
الْمَتَوفِيَ سَنَةُ ٢٥٦ هـ

مراجعة وضبط وفهرسة
الشيخ محمد علي القطب الشيخ هشام البخاري

الجزء الثالث

المكتبة العضيرية
كيدا، بيروت

أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَانَ يَسْأَلُ فِي مَرْضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، يَقُولُ: (أَيْنَ أَنَا غَدًا، أَيْنَ أَنَا غَدًا). يُرِيدُ يَوْمَ عَائِشَةَ، فَإِذَا لَهُ أَرْوَاجُهُ يَكُونُ حَيْثُ شَاءَ، فَكَانَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ حَتَّى مَاتَ عِنْدَهَا، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَمَاتَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي كَانَ يَدْوُرُ عَلَيْهِ فِي بَيْتِي، فَقَبَضَهُ اللَّهُ وَإِنَّ رَأْسَهُ لَيْسَ نَعْرِي وَسَخْرِي، وَخَالَطَ رِيقُهُ رِيقِي . ثُمَّ قَالَتْ: دَخَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنَ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، وَمَعَهُ سِوَاكٌ يَسْتَنِدُ إِلَيْهِ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ، فَقُلْتُ لَهُ: أَعْطِنِي هَذَا السِّوَاكَ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ، فَأَعْطَاهُنِي، فَقَضَيْتُهُ، ثُمَّ مَضْعَطْتُهُ، فَأَعْطَيْتُهُ رَسُولَ اللَّهِ فَأَسْتَنَ بِهِ، وَهُوَ مُسْتَنٌ إِلَى صَدْرِي .

٤٤٥١ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي يُوبَ، عَنْ أَبِنِ أَبِي مَلِيكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: تُوفِيَ النَّبِيُّ فِي بَيْتِي وَفِي يَوْمِي، وَبَيْنَ سَخْرِي وَنَعْرِي، وَكَانَتْ إِحْدَانَا تَعْوِذُ بِدُعَاءِ إِذَا مَرِضَ، فَدَهَبْتُ أَعْوَدُهُ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ وَقَالَ: (فِي الرِّفِيقِ الْأَعْلَى، فِي الرِّفِيقِ الْأَعْلَى). وَمَرَّ عَبْدُ الرَّحْمَنُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، وَفِي يَدِهِ حِرْبَةٌ رَطْبَةٌ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ، فَظَنَّتُ أَنَّ لَهُ بِهَا حَاجَةً، فَأَخْذَهَا، فَمَضَعَتْ رَأْسَهَا، وَنَفَضَتْهَا، فَدَفَعْتُهَا إِلَيْهِ، فَأَسْتَنَ بِهَا كَاحْسَنَ مَا كَانَ مُسْتَنًا، ثُمَّ نَأَوَيْتُهَا، فَسَقَطَتْ يَدُهُ، أَوْ سَقَطَتْ مِنْ يَدِهِ، فَجَمَعَ اللَّهُ بَيْنِ رِيقِي وَرِيقِهِ فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنَ الدُّنْيَا وَأَوْلَى يَوْمٍ مِنَ الْآخِرَةِ .

٤٤٥٢ - ٤٤٥٣ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنْ أَبْنِ شَهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ: أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ أَبَا بَكْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَقْبَلَ عَلَى فَرَسٍ مِنْ مَسْكِبِهِ بِالسُّنْحِ، حَتَّى نَزَلَ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَلَمْ يَكُلْ النَّاسُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ، فَتَبَيَّمَ رَسُولُ اللَّهِ وَهُوَ مُغْشَى بِثُوبٍ جَبْرَةٍ، فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ ثُمَّ أَكَبَ عَلَيْهِ فَقَبْلَهُ وَبَكَ، ثُمَّ قَالَ: بَأَبِي أَنْتَ وَأَمِّي، وَاللَّهِ لَا يَجْمِعُ اللَّهُ عَلَيْكَ مُؤْتَمِنِينَ، أَمَا الْمُوْتَةُ الَّتِي كُتِبَتْ عَلَيْكَ فَقَدْ مُتَهَا .

٤٤٥٤ قَالَ الرُّهْرُيُّ: وَحَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ خَرَجَ وَعُمُرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَكْلُمُ النَّاسَ، فَقَالَ: أَجْلِسْ يَا عُمَرُ، فَأَبَى عُمَرُ أَنْ يَجْلِسَ، فَأَقْبَلَ النَّاسُ إِلَيْهِ وَتَرَكُوا عُمَرَ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَمَا بَعْدُ، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ، وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ . قَالَ اللَّهُ: ﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَقَتِهِ ﴾

1344

صحيح البخاري

١٣٤٤

قَبْلَهُ الْأَرْشَلُ - إِلَى قَوْلِهِ - أَلَّا تَكُونُ النَّاسُ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ هَذِهِ الْآيَةَ حَتَّى تَلَاهَا أَبُو بَكْرٍ، فَتَلَقَّاها مِنْهُ النَّاسُ كُلُّهُمْ، فَمَا أَسْمَعَ بَشَرًا مِنَ النَّاسِ إِلَّا يَتَلَوَّهَا.

فَأَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيْبٍ: أَنَّ عُمَرَ قَالَ: وَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ سَمِعْتُ أَبَا بَكْرَ تَلَاهَا فَعَيْرَتْ، حَتَّى مَا تُقْلِنِي رِجْلَاهِي، وَحَتَّى أَهْوَيْتْ إِلَى الْأَرْضِ حِينَ سَمِعْتُهُ تَلَاهَا، عِلْمْتُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدْ مَاتَ.

٤٤٥٦ - ٤٤٥٧ - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفِيَّانَ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْتَةَ، عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ أَبَا بَكْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَبْلَ النَّبِيِّ ﷺ بَعْدَ مَوْتِهِ.

٤٤٥٨ - حَدَّثَنَا عَلَيْهِ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، وَرَأَدَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: لَدَدْنَاهُ فِي مَرْضِيهِ، فَجَعَلَ يُشَبِّهُ إِلَيْنَا: أَنْ لَا تَلَدُونِي، فَقُلْنَا: كَرَاهِيَّةُ الْمَرِيضِ لِلنِّدَوَاءِ، فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ: (أَلَمْ أَنْهُكُمْ أَنْ تَلَدُونِي). قُلْنَا: كَرَاهِيَّةُ الْمَرِيضِ لِلنِّدَوَاءِ، فَقَالَ: (لَا يَقْنِي أَحَدٌ فِي الْبَيْتِ إِلَّا لَدُّ وَآتَنَا أَنْظَرًا إِلَّا الْعَبَّاسُ، فَإِنَّهُ لَمْ يَشَهِدْكُمْ).

رَوَاهُ أَبْنُ أَبِي الزَّنَادِ، عَنْ هَشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ .

٤٤٥٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: أَخْبَرَنَا أَبْرَهُرُ: أَخْبَرَنَا أَبْنُ عَوْنَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَوْصَى إِلَيْهِ عَلَيْهِ، فَقَالَتْ: مَنْ قَالَهُ، لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَلَيْسَ بِمُسِنْدِهِ إِلَى صَدْرِي، فَدَعَاهُ بِالْطَّسْتِ، فَأَنْجَنَتْ، فَمَاتَ، فَمَا شَعَرْتُ، فَكَيْفَ أَوْصَى إِلَيْهِ عَلَيْهِ؟

٤٤٦٠ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعِيمٍ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مَغْوِلٍ، عَنْ طَلْحَةَ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ أَبْنَ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَوْصَى النَّبِيُّ ﷺ؟ فَقَالَ: لَا، فَقُلْتُ: كَيْفَ كُبِّتَ عَلَيَّ النَّاسُ الْوَصِيَّةُ، أَوْ أُمِرُوا بِهَا؟ قَالَ: أَوْصَى بِكَتَابِ اللَّهِ.

٤٤٦١ - حَدَّثَنَا قُتْبَيْهُ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِبِ

(١) سورة آل عمران: الآية ١٤٤

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ أَبَا بَكْرٍ خَرَجَ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يُكَلِّمُ النَّاسَ ، فَقَالَ : أَجْلِسْ يَا عُمَرَ ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ أَنْ يَجْلِسَ ، قَأْفَلَ النَّاسُ إِلَيْهِ وَتَرَكُوا عُمَرَ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : أَمَا بَعْدُ ، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ مُحَمَّداً بِإِلَهٍ فَإِنَّ مُحَمَّداً قَدْ مَاتَ ، وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ . قَالَ اللَّهُ : وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَقْتَ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلَ -

(صحیح بخاری ، کتاب المغازی ، باب مرض النبی ووفاته، جلد 3 صفحہ 1343-1344)

حضرت عبد اللہ بن عباسؓ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکرؓ (رسول اللہ کی وفات کے موقع پر) تشریف لائے اور حضرت عمرؓ لوگوں سے مخاطب تھے۔ آپ نے فرمایا۔ اے عمر! یہ جاؤ۔ حضرت عمرؓ تو نہیں بیٹھے مگر لوگ انہیں چھوڑ کر حضرت ابو بکرؓ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا تا آج د! (اے لوگو!) تم میں سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے اور تم میں سے جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ یقین کر لے کہ اللہ زندہ ہے اس پر کبھی موت نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک رسول ہیں آپ سے پہلے تمام رسول وفات پا گئے ہیں۔

Hazrat Abdullah bin Abbas relates that Hazrat Abu Bakr, Allah be pleased with him, came when the Holy Prophet peace and blessing of Allah be upon him had passed away and at that time Hazrat Umar was addressing the people. Hazrat Abu Bakr asked Hazrat Umar to sit down. However, Hazrat Umar did not sit but the people left him and paid heed to Hazrat Abu Bakr. Hazrat Abu Bakr said: ...O People those amongst you who worshipped Muhammad. peace and blessing of Allah be upon him, let them know that Muhammad (pbuh) has passed away. But those amongst you who worshipped Allah, let them believe firmly that Allah lives on and will never die. Allah has said that Muhammad is but a messenger and all messengers before him have passed away.

(Bukhari, Kitabul Maghazi Babu Marzun Nabi wa wafatohu, vol. 3, page 1343-1344)

Hazrat Abdullah bin Abbas^{ra} überliefert: "Hazrat Abu Bakr^{ra} kam (als der Gesandte verstarb), während Hazrat Umar zu den Menschen sprach. Er sagte: 'O Umar, setz dich hin.' Hazrat Umar setzte sich nicht, aber die Menschen wandten sich Hazrat Abu Bakr zu. Hazrat Abu Bakr sagte:(O Menschen), wer von euch Muhammad^{saw} anbetete, soll wissen, dass er verstorben ist. Wer von euch Allah anbetet, soll sich gewiss sein, dass Allah lebt, Er wird nie sterben. Allah, der Erhabene, sagte: Muhammad^{saw} ist nur ein Gesandter. Alle Gesandten vor ihm sind! verstorben."

(Bukhari, Kitabul Maghazi, Babu Marzun Nabi wa wafatohu, Bd. 3, Seite 1343-1344)

إِذْ قَالَ اللَّهُ يَعْلَمُنِي أَنِّي مُتَوَفِّيْكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُظْهِرُكَ مِنَ الْأَذِيْنَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِيْنَ اَبْجَوُوكَ فَوْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا
إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَخْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْلِقُونَ^(۵۶) (آل عمران: ۵۶)

(اس وقت کو یاد کرو) جب اللہ نے کہا۔ اے عیسیٰ! میں تھے (طبعی طور پر) وفات دوں گا اور تھے اپنے حضور میں عزت بخشوں گا اور کافروں (کے اذامات) سے تھے پاک کروں گا اور جو تیرے پیروں ہیں ان لوگوں پر جو منکر ہیں قیامت کے دن تک غالب رکھوں گا۔ پھر میری ہی طرف تمہیں لوٹا ہو گا۔ تب میں ان باقوں میں جن میں تم اختلاف کرتے ہو تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا۔

Sura 3:56 When Allah said, "O Jesus, I will cause thee to die a natural death and will exalt thee to Myself, and will clear thee from the charges of those who disbelieve, and will place those who follow thee above those who disbelieve, until the Day of Resurrection; then to Me shall be your return, and I will judge between you concerning that wherein you differ".

Sura 3:56 Wie Allah sprach "O Jesus, Ich will dich [eines natürlichen Todes] sterben lassen und will dir bei Mir Ehre verleihen und dich reinigen (von den Anwürfen) derer, die ungläubig sind, und will die, die dir folgen, über jene setzen, die ungläubig sind, bis zum Tage der Auferstehung: Dann ist zu Mir eure Wiederkehr, und Ich will richten zwischen euch über das, worin ihr uneins seid.

صَحَّحَ الْبَخَارِيُّ

تألِيف

الإِمامُ الْحَافِظُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدِ الْبَخَارِيُّ
الْمُتَوفِّيَ سَنَةُ ٥٧٦ هـ

مراجعةً وَضَبطَ وَفَهْرِسَةً

الشِّيخُ مُحَمَّدُ عَلِيُّ الْقَطْبُ الشِّيخُ هَشَامُ الْبَخَارِيُّ

الْجُزْءُ الثَّالِثُ

الْمُكْتَشَفُ الْعَظِيمُ

مَكْتَبَةُ مَسْلِهٗ وَفَاتَ مُحَمَّدٌ نَّاصِرٌ

مَكْتَبَةُ مَسْلِهٗ وَفَاتَ مُحَمَّدٌ نَّاصِرٌ

١٤١٠

صحيح البخاري

١٤١٠

الْمَائِدَةُ: أَصْلُهَا مَفْعُولَةٌ، كَعِيشَةٌ رَاضِيَةٌ، وَتَطْلِيقَةٌ بَائِتِةٌ، وَالْمَعْنَى: مِيدَ بِهَا صَاحِبُهَا مِنْ خَيْرٍ، يُقَالُ مَادَنِي يَمِيدُنِي.
وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ: «مُتَوَقِّيَ»^(١): مُمِيتُكَ.

٤٦٢٣ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ صَالِحٍ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ أَبْنِ شَهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: الْبَحِيرَةُ: الَّتِي يُمْنَعُ دُرُّهَا لِلطَّوَاغِيْتِ، فَلَا يَحْلُّبَا أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ، وَالسَّائِيْتُ: كَانُوا يُسَيِّبُونَهَا لِأَهْلِهِمْ فَلَا يُحْمَلُ عَلَيْهَا شَيْءٌ.
قَالَ: وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «رَأَيْتُ عُمَرَ وَبْنَ عَابِرِ الْخُزَاعِيَّ يَجْرُ قُصْبَهُ فِي النَّارِ، كَانَ أَوَّلَ مَنْ سَبَّ السَّوَائِبَ». وَالْوَصِيلَةُ الْأَقَاءُ الْكَبْرُ: تُبَكَّرُ فِي أَوَّلِ نَسَاجِ الْإِلَيْلِ بِأَنَّشِيْ، ثُمَّ تُشَنِّي بَعْدَ أَنَّشِيْ، وَكَانُوا يُسَيِّبُونَهُمْ لِطَوَاغِيْتِهِمْ، إِنْ وَصَلَتْ إِحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى لَيْسَ بَيْنَهُمَا ذَكْرٌ، وَالْحَامِ: فَحُلُّ الْإِلَيْلِ يَضْرِبُ الضَّرَابَ الْمَعْدُودَ، فَإِذَا قَضَى ضَرَابَهُ وَدَعَوْهُ لِلطَّوَاغِيْتِ وَأَعْفَوهُ مِنَ الْحَمْلِ، فَلَمْ يُحْمَلْ عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَسَمَّوهُ الْحَامِيَّ.
وَقَالَ أَبُو الْيَمَانِ: أَخْبَرَنَا شَعِيبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: سَمِعْتُ سَعِيداً يُخْبِرُهُ بِهَذَا.

قَالَ: وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ: نَحْوَهُ.

وَرَوَاهُ أَبُنُ الْهَادِ، عَنْ أَبْنِ شَهَابٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ.

٤٦٢٤ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْكَرْمَانِيُّ: حَدَّثَنَا حَسَانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ الرُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ: أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «رَأَيْتُ جَهَنَّمَ يَحْطُمُ بَعْضَهَا بَعْضًا، وَرَأَيْتُ عَمَراً يَجْرُ قُصْبَهُ، وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ سَبَّ السَّوَائِبَ».

١٤ - بَابُ: «وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً مَاءِدْمَتْ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الْأَرْقَيْبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَشَهِيدٌ»^(٢)

٤٦٢٥ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدَ: حَدَّثَنَا شَعْبَةُ: أَخْبَرَنَا الْمُغَيْرَةُ بْنُ النُّعْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ

(١) سورة آل عمران: الآية ٥٥

(٢) سورة المائدَة: الآية ١١٧

وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ : ﴿مَتَوَفِّيكَ﴾^(۱) : مُمِيتُكَ .

(صحیح بخاری جلد 3، کتاب التغیر سورہ المائدہ جعل اللہ من بکیرہ۔۔۔ صفحہ 1410)

بخاری شریف میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متوفیک کے معنی "میں تجھے وفات دون گا" کے کئے ہیں

In Sahih Bukhari, Hazrat Ibn Abbas, Allah be pleased with him, has been quoted as translating "Mutawaffika" with "I will cause thee to die".

(Bukhari, Kitab alTafseer, Sura Maaida)

Ibn Abbas sagte: "Das Wort mutawaffika bedeutet: Ich werde dich sterben lassen."
(Al-Buchari, Kitab alTafseer, Sura Maaida)

وَقُولُهُمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ يَعْنِي ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَاتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكُنْ شُرِيكُهُ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أَخْتَلُفُوا فِيهِ لَفِي شَيْءٍ مَا كَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعُ الظَّنِّ وَمَا قَاتَلُوهُ يَقِيْنًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا (النساء: 159-158)

اور ان کے قول کے سبب سے کہ یقینا ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو جو اللہ کا رسول تھا قتل کر دیا ہے۔ اور وہ یقینا اسے قتل نہیں کر سکے۔ اور نہ اسے صلیب دے (کرم) سکے بلکہ ان پر معاملہ مشتبہ کر دیا گیا۔ اور یقینا وہ لوگ جنہوں نے اس بارہ میں اختلاف کیا ہے اس کے متعلق شک میں مبتلا ہیں۔ ان کے پاس اس کا کوئی علم نہیں سوائے ظن کی پیروی کرنے کے اور وہ یقین طور پر اسے قتل نہ کر سکے۔ بلکہ اللہ نے اپنی طرف اس کا رفع کر لیا اور یقینا اللہ کا مل غلبہ والا (اور) بہت حکمت والا ہے۔

Sura 4:158,159 And for their saying, 'We did slay the Messiah, Jesus, son of Mary, the Messenger of ALLAH;' whereas they slew him not, nor did they bring about his death upon the cross, but he was made to appear to them like one crucified; and those who differ therein are certainly in a state of doubt about it; they have no certain knowledge thereof, but only pursue a conjecture; and they did not arrive at a certainty concerning it. On the contrary, ALLAH exalted him to Himself. And ALLAH is Mighty, Wise.

Sura 4:158,159 Und wegen ihrer Rede: "Wir haben den Messias, Jesus, den Sohn der Maria, den "Gesandten" Allahs, getötet"; während sie ihn doch weder erschlugen noch den Kreuzestod erleiden ließen, sondern er erschien ihnen nur gleich (einem Gekreuzigten); und jene, die in dieser Sache uneins sind, sind wahrlich im Zweifel darüber; sie haben keine (bestimmte) Kunde davon, sondern folgen bloß einer Vermutung; und sie haben darüber keine Gewissheit. Vielmehr hat ihm Allah einen Ehrenplatz bei Sich eingeräumt, und Allah ist allmächtig, allweise.

كتناعمال

فِي سَبْزَ الْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ

للعلامة علاء الدين علي المنشي بن حسام الدين الهندي

البرهان فوري المتوفى ٩٧٥

الجزء الثالث

ضبطه وفسر غريبه صحنه ووضع فهارسه ومقتاته

اشيخ بكر جيتاين اشيخ مصطفى هافت

مؤسسة الرسالة

التواضع

٥٧١٩ - التواضع لا يزيد العبد إلا رفعة ، فتواضعوا يرفعكم الله
والغفو لا يزيد العبد إلا عنزاً ، فاعفوا يعزكم الله ، والصدقة لا تزيد
المال إلا كثرة ، فتصدقوا يرحمكم الله عن وجل . (ابن أبي الدنيا في ذم
الغضب عن محمد بن عمير العبدى) .

٥٧٢٠ - إذا تواضع العبد رفعه الله إلى السماء السابعة . (الخرائطي
في مكارم الأخلاق عن ابن عباس) .

٥٧٢١ - من يتواضع لله درجة يرفعه الله درجة حتى يجعله في عليين
ومن يتكبر على الله درجة يضئه الله درجة حتى يجعله في أسفل السافلين .
(هـ حب لـ عن أبي سعيد) .

٥٧٢٢ - إن الله تعالى أوحى إلى أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد
على أحد ، ولا يبغى أحد على أحد (مـ دـ هـ عن عياض بن حمار) ^(١) .

(١) رواه مسلم في صحيحه كتاب الجنة وصفة نعيها عن عياض بن حمار
المجاشعي بباب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار
برقم (٢٨٦٥) و (٤/٢١٩٩) .

وعياض بن حمار بن أبي حمار بن ناجية بن عقال بن محمد بن =

٥٧٢٠ - إِذَا تَوَاضَعَ الْعَبْدُ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ . (الخراطي
في مكارم الأخلاق عن ابن عباس) .

(کنز العمال باب الاول فی الاخلاق، زیر عنوان التواضع، جلد ۳ صفحہ ۱۱۰)

آنحضرت ﷺ نے فرمایا:- جب بندہ عاجزی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ساتویں آسمان کی طرف لے جاتا ہے۔

The Holy Prophet, peace and blessings of Allah be upon him, is reported to have said:- When the servant of God adopts humility, Allah the Exalted elevates him up to the seventh heaven."

(Kanzulummal, Babul Awwal Fil Akhlaq, vol 3 page 110)

Der Heilige Prophet^{saw} sagte: "Wenn der Diener sich erniedrigt und demütigt, dann wird er von Gott zum siebenten Himmel emporgehoben.

(Kansulommal, Babul Awwal Fil Akhlaq, Bd 3 Seite 110)

فِصْوَاحُ الْأَكْبَرِ

وَالْتَّعْلِيقَاتُ عَلَيْهِ

لِشِحْنَامِي الْأَكْبَرِ مُجِيبِ الدِّينِ بْنِ عَرَبِيِّ الْمَتَوفِيِّ ٦٣٨ هـ

- ١٨١ -

٢٢ - فض حكمة إيناسية في كلمة إيلاسية

إيلاس هو إدريس كاننبياً قبل نوح ، ورفعه الله مكاناً علياً ، فهو في قلب الأفلاك ساكن وهو فلك الشمس . ثم بعث إلى قرية بعلبك ، وبعل اسم صنم ، وبعل هو سلطان تلك القرية . وكان هذا الصنم المسمى بعلا مخصوصاً بالملك . وكان إيلاس الذي هو إدريس قد ' مثل له^(١) انقلاب الجبل المسمى لبنان - من اللبنان ، وهي الحاجة - عن فرس من نار ، وجيء^(٢) آلاته من نار^(٣) . فلما رأه ركب عليه فسقطت عنه الشهوة ، فكان عقلاً (٤ - ٨٢) بلا شهوة ، فلم يبق له تعلق بما تتعلق به الأغراض النفسية . فكان الحق فيه متزهاً ، فكان على النصف من المعرفة بالله ؟ فإن العقل إذا تجرد لنفسه من حيث أخذته العلوم عن نظره ، كانت^(٥) معرفته بالله على التزييه لا على التشبيه . وإذا أعطاه الله المعرفة بالتجلي كملت معرفته بالله ، فنزعه في موضع وشبه في موضع ، ورأى سريان الحق في الصور الطبيعية والعنصرية . وما بقيت له صورة إلا ويرى^(٦) عين الحق عينها . وهذه المعرفة التامة التي جاءت بها الشرائع المنزلة من عند الله ، وحكمت بهذه المعرفة الأوهام كلها . ولذلك كانت الأوهام أقوى سلطاناً في هذه النشأة من العقول ، لأن العاقل ولو^(٧) بلغ في عقله ما بلغ لم يخل من حكم الوهم عليه والتصور فيما عقل . فالوهم هو السلطان الأعظم في هذه الصورة الكاملة الإنسانية ، وبه جاءت الشرائع المنزلة فشبّهت ونزّلت ؛ شبّهت في التزييه بالوهم ، ونزّلت في التشبيه بالعقل . فارتبط الكل بالكل ، فلم

(١) ن : ساقطة (٢) ساقط في ب (٣) ن : فكانت (٤) ا : وترى (٥) ن : لو.

— ٤٥ —

عدد غير قليل من الكتب في الحكمة وعلوم الأسرار - السحر وعلم النجوم والكميات . وبعض هذه الكتب مزيج غريب من الفلسفة الأفلاطونية والفلسفة المصرية القديمة مع شيء من الأساطير اليونانية . فلما فتح العرب مصر والشام وجدوا تلك المؤلفات الهرميسية ، لا في صورتها الأصلية ، بل بعد أن عمل فيها التفكير اليهودي عمله وترك فيها طابعه الخاص . وسرعان ما اقتبسوها منها وتمثلوا أفكارها وأضافوا إلى هذه الأفكار أو نقصوا منها . وبعد أن كان هناك هرميس واحد أصبح الهرامسة عند العرب ثلاثة :

الأول هرميس الذي هو « أخنون » وهذا هو الذي سموه إدريس . يحيى القبطي واليعقوبي وابن أبي أصيبيعة أنه عاش في صعيد مصر قبل الطوفان ، وأنه جاب أقطار الأرض باحثاً عن الحكمة ثم رفعه الله إليه . قالوا وقد كان أول من تكلم في الجواهر العلوية وحركات الأفلاك الخ الخ . ولا داعي لذكر باقي الهرامسة لعدم حاجتنا إليهم هنا .

وليس هناك من شك في أن العرب قد عرفوا بعض الكتب الهرميسية ، والكتب التي ترجمت حياة هرميس . يقول القبطي إنه نقل بعض صفحات من كتاب هرميس في الحديث الذي دار بينه وبين طوط .

وليس هناك من شك أيضاً أن بعض مؤلفات كبار المسلمين مثل رسالة حبي ابن يقطان لابن سينا ومؤلفات ابن عربي وال Sahih و Radd al-Muhtar المقتول تمت بصلة وثيقة إلى الكتابات الهرميسية . فحيي بن يقطان مثلاً ليس إلا اسماً وضعيه ابن سينا للعقل الفعال الذي يشرح أسرار الكون على نحو ما يشرح بومندريس في الكتابات الهرميسية أسرار الوجود لابنه طوط .

وليس إدريس في فصنا هذا سوى روح مجرد يسكن فلك الشمس ، وهو الفلك الذي قال قدماء المصريين إنه مقام روحانية هرميس وكلوا إلى هرميس اختيار أرواح الموتى قبل دخولهم فيه .

- ٤٦ -

ويبحث هذا الفص في بعض نواحي المسألة الكبرى التي بحث فيها الفص السابق ، أعني مسألة التزيه الإلهي ، ولذلك سمي بالحكمة القدوسيه في حين سمي سابقه بالحكمة السبُّوحية: والقدس والسبوح من أسماء الله ومعناها المترء ، وإن كانوا يقولون إن القدس أخص في معنى التزيه من السبوح وأبلغ: إذ التسبيح تزيه الله عن الشريك وعن صفات النقص كالعجز وأمثاله ، في حين أن التقديس تزيه الله عما سبق وعن كل صفات المكانتات ولو ازماها - حتى كالماتها - وعن كل ما يتوجه ويتعقل في حقه تعالى من الأحكام الموجبة للتحديد والتقييد . بعبارة أخرى التقديس هو نهاية التجريد ، ولا يقول به إلا النفوس المجردة التي لاصلة لها بالعلاقة المادية . ولذلك نسب في هذا الفص إلى إدريس ، وهو النبي الذي رفعه الله إلى السماء بعد أن خلع عنه بدنه وقطع علاقته بالعالم المادي كما تقول بذلك الأخبار . والفرق بين تزيه نوح وتزيه إدريس أن تزيه الأول عقلي وتزيه الثاني ذوقي .

والذي لا شك فيه عندي أن ابن عربي لا يذكر نوحًا أو إدريس أو غيرهما من الأنبياء ، على أنها شخصيات تاريخية حقيقة ، ولا يصورها لنا التصوير الذي نعرفه في القرآن أو غيره من الكتب المقدسة ، وإنما هي مثل يضر بها وأدوات يستخدمها في شرح أجزاء مذهبة . فليس نوح عنده إلا مثالاً للرجل الذي يقول بتزيه الله تعالى متبعاً في ذلك مجرد العقل ، غير ناظر إلى ما ورد في القرآن من آيات التشبيه ، وغير مؤمن بأن للحق صوراً ومجالياً في الوجود العالمي . وليس إدريس عنده كذلك إلا مثالاً لما يمكن أن تكون عليه النفس المجردة في موقفها من الله . وهذه النفس - إن وجدت - لا يمكن أن تقف من الله إلا موقف التقديس بالمعنى الذي شرحناه .

(٢) العلو :

ومن لوازם القول بالتقديس وصف الله بالعلو : وهو وصف ورد في القرآن

إلياس هو إدريس كاننبياً قبل نوح ، ورفعه الله مكاننا علياً ، فهو في قلب الأفلاك ساكن وهو فلك الشمس.

(أصول الحكم، في كلية الياسية، صفحه 181)

شیخ محمد الدین ابن عربی فرماتے ہیں: الیاس دراصل ادریس ہی ہیں جو نوح سے پہلے نبی ہو گزرے ہیں اور اللہ نے انہیں بلند جگہ کی طرف اٹھایا تھا۔

Sheikh Muhyiddin ibn Arabi says: Ilyas is in reality Idrees who preceeded Noah, and Allah raised him to a high place.

(Fusus al Hikam, Page 181)

Sheikh Muhyiddin Ibn Arabi sagt: "Ilyas ist in Wirklichkeit Idris. Er war ein Prophet vor Noah, und Allah erhab ihn auf einen hohen Platz."

(Fusus al Hikam, Seite 181)

وهذا هو الذي سموه إدريس . يحيى القبطي واليعقوبي وابن أبي أصيحة أنه عاش في صعيد مصر قبل الطوفان ، وأنه جاب أقطار الأرض باحثاً عن الحكمة ثم رفعه الله إليه وهو النبي الذي رفعه الله إلى السماء بعد أن خلع عنه بدنه وقطع علاقته بالعالم المادي كما تقول بذلك الأخبار .

(أصول الحكم، الفصل الرابع، صفحه 45-46)

اور یہ وہی ہیں جنہیں اللہ نے آسمان کی طرف اٹھایا تھا بعد اس کے کہ ان سے ان کے جسم کو علیحدہ کیا، اور ان کا مادی عالم سے تعلق قطع کیا۔

Sheikh Muhiyyud din ibn Arabi adds: He is the prophet whom Allah raised to heaven after he was seperated from his body and his relation with the material world was cut.

(Fusus al Hikam, Fass 4, page 45-46)

Er sagt weiter: "Er ist der Prophet, den Allah gen Himmel erhab, nachdem Er ihn von seinem Körper trennte und von der materiellen Welt abschnitt."

(Fusus al Hikam, Fass 4, Seite 45-46)

* وَإِنَّكَ لَمَلِئْتَ خَلْقَ عَظِيمٍ *

* الْبَرَزَانُ الْأَوَّلُ *

مِنْ

* كَفَايَةُ الطَّالِبِ الْيَبِيِّ فِي خَصَائِصِ الْجَيْبِ *

* الْمَرْوُفُ *

بِالْخَصَائِصِ الْكَبِيرِ

لِشِعْرِ الْإِمامِ الْمَلاَمِ الْمَامِ حَافِظِ عَصْرِهِ وَوَجْدِ دَهْرِهِ أَبِي الْفَضْلِ جَلالِ الدِّينِ

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ السِّيرِيِّ الْأَشْعَفِيِّ الْمُوْتَوْفِيِّ سَنَةً احْدَى عَشَرَةَ وَتَسْعَ مَائَةً

تَمَدَّهُ اللَّهُ شَانِي بِالرَّجْمَةِ وَالرَّضْوَانِ وَاسْكَنَهُ سُعْجَ الْجَنَانِ

أَنَّا شَارِزٌ

أَمْكَبَتَهُ التَّوْرِيدُ الْمُصْنُوعَيْنَ ○ الْأَلْيُونُ يَا كَبِيتَا

قال: أخبرنا محمد بن ربيعة الكلابي عن طلق الأعمى عن جدته قالت: كنت أنوح أنا وأم كلثوم بنت علي على علي، عليه السلام.

قال: أخبرنا عبدالله بن نمير وعبيد الله بن موسى قالا: أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن أبي إسحاق عن هبيرة بن يريم قال: سمعت الحسن بن علي قام يخطب الناس فقال: يا أيها الناس لقد فارقكم أنس رجل ما سبقه الأولون ولا يدركه الآخرون، لقد كان رسول الله، ﷺ، يبعثه المبعث فيعطيه الرأبة فما يردد حتى يفتح الله عليه، إن جبريل عن يمينه وميكائيل عن يساره، ما ترك صfare ولا بيضاء، إلا سبعمائة درهم فضلـت من عطائه أراد أن يشتري بها خادماً.

قال: أخبرنا عبدالله بن نمير عن الأجلح عن أبي إسحاق عن هبيرة بن يريم قال: لما توفي علي بن أبي طالب قام الحسن بن علي فصعد المنبر فقال: أيها الناس، قد قضى الليلة رجل لم يسبقـه الأولون ولا يدركـه الآخرون، قد كان رسول الله، ﷺ، يبعثـه المبعثـ فيكتـبهـ جـبرـيلـ عنـ يـمـينـهـ وـمـيكـائـيلـ عنـ شـمـالـهـ فـلاـ يـشـنـيـ حـتـىـ يـفـتـحـ اللهـ لـهـ، وـمـاـ تـرـكـ إـلـآـ سـبـعـمـائـةـ دـرـهـمـ أـرـادـ أنـ يـشـتـريـ بـهـ خـادـمـاـ، وـلـقـدـ قـبـضـ فـيـ اللـيـلـةـ الـتـيـ عـرـجـ فـيـهـ بـرـوـحـ عـيـسـىـ اـبـنـ مـرـيمـ لـيـلـةـ سـبـعـ وـعـشـرـينـ مـنـ رـمـضـانـ.

قال: أخبرنا أبو معاوية الضـرـيرـ عنـ حـجـاجـ عنـ أـبـيـ إـسـحـاقـ عنـ عـمـرـوـ بـنـ الـأـصـمـ قال: قيل للحسن بن علي إن ناساً من شيعة أبي الحسن علي، عليه السلام، يزعمون أنه دابة الأرض وأنه سيُبعث قبل يوم القيمة، فقال: كذبوا ليس أولئك شيعة، أولئك أعداؤه، لو علمـنا ذلك ما قـسـمنـا مـيرـاثـهـ وـلـاـ انـكـحـنـاـ نـسـاءـهـ. قال ابن سعد: هكـذاـ قال عنـ عـمـرـوـ بـنـ الـأـصـمـ.

قال: أخبرنا أسباط بن محمد عن مطرـفـ عنـ أـبـيـ إـسـحـاقـ عنـ عـمـرـوـ بـنـ الـأـصـمـ قال: دخلـتـ عـلـىـ الحـسـنـ بـنـ عـلـيـ وـهـوـ فـيـ دـارـ عـمـرـوـ بـنـ حـرـيـثـ فـقـلـتـ لـهـ: إـنـ نـاسـاـ يـزـعـمـونـ أـنـ عـلـيـاـ يـرـجـعـ قـبـلـ يـوـمـ الـقـيـامـةـ، فـضـحـكـ وـقـالـ: سـبـحـانـ اللهـ! لـوـ عـلـمـنـاـ ذـلـكـ ماـ زـوـجـنـاـ نـسـاءـهـ وـلـاـ سـاـهـمـنـاـ مـيرـاثـهـ. قـالـوـ وـكـانـ عـبـدـ الرـحـمـنـ بـنـ مـلـجـمـ فـيـ السـجـنـ، فـلـمـ مـاتـ عـلـيـ، رـضـوانـ اللهـ عـلـيـهـ وـرـحـمـتـهـ وـبـرـكـاتـهـ، وـدـفـنـ بـعـثـ الحـسـنـ بـنـ عـلـيـ إـلـىـ عـبـدـ الرـحـمـنـ بـنـ مـلـجـمـ فـأـخـرـجـهـ مـنـ السـجـنـ لـيـقـتـلـهـ، فـاجـتـمـعـ النـاسـ وـجـاؤـهـ بـالـنـفـطـ وـالـبـارـيـ وـالـنـارـ فـقـالـوـ نـحـرـقـهـ، فـقـالـ عـبـدـ اللهـ بـنـ جـعـفـرـ وـحسـنـ بـنـ عـلـيـ وـمـحـمـدـ بـنـ الـحنـفـيـةـ: دـعـونـاـ حـتـىـ نـشـفـيـ أـنـفـسـنـاـ مـنـهـ، فـقـطـعـ عـبـدـ اللهـ بـنـ جـعـفـرـ يـدـيـهـ وـرـجـلـيـهـ فـلـمـ يـجـرـعـ وـلـمـ يـتـكـلـمـ،

لَمَّا تَوَفَّى عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ قَامَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ فَصَعَدَ الْمَنْبَرَ فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، قَدْ قُبِضَ اللَّيْلَةَ رَجُلٌ لَمْ يَسْبِقُهُ الْأَوْلَوْنَ وَلَا يَدْرِكُهُ الْآخِرُونَ، قَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَعْثُثُ الْمَبْعَثَ فِي كِتْبَتِهِ جَبَرِيلُ عَنْ يَمِينِهِ وَمِيكَائِيلُ عَنْ شَمَائِلِهِ فَلَا يَشْنَى حَتَّى يُفْتَحَ اللَّهُ لَهُ، وَمَا تَرَكَ إِلَّا سَبْعَمَائَةً دَرْهَمًا أَرَادَ أَنْ يَشْتَرِي بِهَا خَادِمًا، وَلَقَدْ قُبِضَ فِي اللَّيْلَةِ الَّتِي عُرْجَ فِيهَا بِرُوحِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ لَيْلَةَ سِعِّ وَعَشْرِينَ مِنْ رَمَضَانَ.

(الطبقات الکبریٰ، زیر عنوان ذکر عبد الرحمن بن ملجم، جلد 3 صفحہ 28)

حضرت امام حسنؑ سے روایت ہے کہ آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی وفات پر فرمایا ! اے لوگو! آج وہ شخص فوت ہوا ہے کہ اس کی بعض باتوں کو نہ پہلے پہنچے ہیں اور نہ بعد کو آنے والے پہنچیں گے۔ رسول ﷺ اسے جنگ کیلئے بھیجتے تو جبراہیل اس کے دامنے طرف ہو جاتے اور میکاہیل بائیں طرف پس وہ بلا فتح حاصل کئے واپس نہیں ہوتا تھا اور اس نے ضرور سات سو درہم اپنا ترکہ چھوڑا ہے جس سے اس کا ارادہ یہ تھا کہ ایک غلام خریدے۔ اور اس رات کو فوت ہوا ہے جس رات کو عیسیٰ بن مریمؐ کی روح آسمان کی طرف اٹھائی گئی تھی یعنی رمضان کی ستائیسویں تاریخ گو۔

Hazrat Imam Hasan, recounting the events relating to the death of Hazrat Ali, Allah be pleased with him, is reported to have said:- O ye People, the man who has died today, neither those who proceeded him, nor who follow him after would be any match to his qualities. When the Holy Prophet sent him to battle, he had Angel Gabriel on the right and Angel Michael on the left to support him. He never returned from a battle defeated. He bequeathed seven hundred Derhams which he had saved to purchase a slave to set him free. He died during the 27th night of the month of Ramadhan, the same night that the spirit of Jesus was raised to Heaven.

(Ibne Saad, Tabaqat ul Kubra vol 3 page 28)

Es wird überliefert, daß Hazrat Imam Hassan^{ra} zum Zeitpunkt des Todes von Hazrat Ali^{ra} sagte: "O Ihr Menschen, der Mann, der heute verstorben ist, hatte einige Vorzüge, die niemand früher besaß, noch wird sie einer jemals erreichen: Wenn der Prophet^{saw} ihn zum Kampf entsandte, begleiteten ihn die Engeln Gabriel zu seiner Rechten und Michael zu seiner Linken, so dass er stets erfolgreich von der Schlacht zurückkehrte. Er hat 700 Derhams hinterlassen. Mit dieser Summe wollte er aber einen Sklaven freikaufen. Er verstarb in der 27ten Nacht des Monats Ramadhan, also in der gleichen Nacht, in der die Seele Jesu^{as} zum Himmel auffuhr".

(Ibne Saad, Tabaqat Bd 3 Seite 28)

تَفْسِيرٌ

الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ

للشَّيْخِ الْأَكْبَرِ الْعَارِفِ بِاللهِ
الْعَلَامَةِ مُحَمَّدِ الدِّينِ بْنِ عَزِيزٍ
الْمُتَوَفِّ سَنَةُ ٦٣٨ هـ

تَحْقِيقٌ وَتَقْدِيمٌ
الدُّكْتُورُ مُصطفى عَالِبٌ

الْمَحَكَّمُ الْأَوَّلُ

طَارِ الْأَنْهَى لِللهِ
لِلطباعةِ وَالنشرِ وَالتوزيعِ - بَيْرُوت

« بل رفعه الله إليه » إلى قوله : « ليؤمن به » ، رفع عيسى عليه السلام ،
إتصال روحه عند المفارقة عن العالم السفلي بالعالم العلوي ، وكونه في السماء
الرابعة ، إشارة إلى أن مصدر فيضان روحه ، روحانية ذلك الشم ، الذي
هو بثابة قلب العالم ومرجعه إليه ، وتلك الروحانية نور يحيّر لك ذلك الذي
بمشرقته ، وإشراق أشعته على نفسه المباشرة لتحريركه ؟ ولما كان مرجعه
إلى مقره الأصلي ، ولم يصل إلى الكمال الحقيقي ، وجُب نزوله في آخر الزمان
بتعلمه بيده آخر ، وحيثئذ يعرفه كل أحد ، فيؤمن به أهل الكتاب ، أي
أهل العلم المارقين بالمبدا والمعد لهم عن آخرهم ، قبل موت عيسى بالفسماء
في الله ، وإذا آمنوا به يكون يوم القيمة ، أي يوم يروزهم عن الحجب
المسمانية ، وقيامهم عن حال غفلتهم ، ونومهم الذي هم عليه الآن . « شهيداً »
شاهدم يتبعى عليهم الحق في صورته كما أشير إليه .

« فَيَظْلَمُ مَنْ أَلَّذِينَ هَادُوا سَرَّهُمَا عَلَيْهِمْ طَبَبَاتٍ
أَحَبَّتْ لَهُمْ وَبَصَدَّهُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا . وَأَخْذَهُمْ
الرِّبَا وَقَدْ نُهَا عَنْهُ وَأَكْلَهُمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ
وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا . لَكِنَّ أَرَأَيْسُخُونَ
فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَأَمْلُؤُمُنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ وَمَا
أَنْزَلَ مِنْ قَبْلِكَ وَأَمْلَقَيْنَ الْمُلْكَوَةَ وَأَمْلُؤُمُنُونَ أَلْزَكَوَةَ
وَأَمْلُؤُمُنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ أَلْآخِرِ أَوْلَيْكَ سَنُوْتِيهِمْ أَجْرًا
عَظِيمًا . إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّنَ

رفع عیسیٰ علیہ السلام ،

إِنْصَالُ رُوحَهُ عَنِ الْمَفَارِقَةِ عَنِ الْعَالَمِ السُّفْلَىٰ بِالْعَالَمِ الْعُلُوِّيِّ
وَلَا كَانَ مَرْجِعَهُ إِلَى مَقْرِئِهِ الْأَصْلِيِّ ، وَلَمْ يَصُلْ إِلَى الْكَالِ الْحَقِيقِيِّ ، وَجَبَ نَزْولُهُ
فِي أَخْرِ الزَّمَانِ بِتَمْلِيَّهِ بِبَدْنِ أَخْرِ

(تفسیر القرآن الکریم، جلد 1، صفحہ 296)

حضرت محبی الدین ابن عربیؑ فرماتے ہیں کہ رفع عیسیٰ علیہ السلام سے مراد آپؐ کی روح کا عالم سفلی سے الگ ہو کر عالم علوی سے مل جانا ہے۔۔۔ اور چونکہ آپؐ کی روح کا اپنے اصلی مقام (یا اصلی قرار گاہ) کی طرف لوٹ کر جانا ضروری ہے اور وہ بھی ابھی تک حقیقی کمال تک نہیں پہنچی اس لئے آخری زمان میں ایک نئے جسم کے ساتھ تعلق رکھتے ہوئے اس کا نازل ہونا یقین ہے۔

Hazrat Mohyuddin Ibn Arabi states:-"By Raf'a e Isa, peace be upon him, it is meant that his soul ascended to heaven. As it is essential for his soul to return to his real place or ultimate place of rest, and as it has not yet reached its true perfection, in the last days most certainly descend to earth again, but with a new body.

(Tafsir ul Quran Vol 1 Page 296)

Hadhrat Mohyiddin Ibn Arabi sagte: "Mit der Himmelfahrt Jesu ist das Aufsteigen seiner Seele von dieser Welt in das himmlische Reich gemeint [...] Da seine Seele zu ihrem Ursprung zurückkehren muss, ihre wahre Vollkommenheit jedoch noch nicht erlangt hat, wird sie in den letzten Tagen gewiss zu dieser Welt zurückkehren, und zwar verbunden mit einem neuen Körper."

(Tafsir ul Quran Bd 1 Seite 296)

قَالَ رَبِّنِي اللَّهُ أَتَشْرِكُ بِهِ مِنْ حَلَقَةٍ^۱ وَجَعَلَنِي مُبْرَأً أَيْنَ مَا كُنْتُ^۲ وَأَوْصَنِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ
مَا دُمْتُ حَيًا^۳ وَبَرًا يِوَالدَّتِ^۴ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَارًا شَقِيقًا^۵ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ الْمُرْدُ^۶ وَيَوْمَ الْأَمْوَاتِ
وَيَوْمَ أُبَعْثَرُ حَيًا^۷ (مریم: 31-34)

(یہ سن کر ابن مریم نے) کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس نے مجھے کتاب بخشی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ اور میں جہاں کہیں بھی ہوں اس نے مجھے بارکت (وجود) بنایا ہے اور جب تک میں زندہ ہوں مجھے نماز اور زکوٰۃ کی تاکید کی ہے۔ اور مجھے اپنی والدہ سے نیک سلوک کرنے والا بنایا ہے اور مجھے ظالم اور بد بخت نہیں بنایا اور جس دن میں پیدا ہوا تھا اس دن بھی مجھ پر سلامتی نازل ہوئی تھی اور جب میں مروں گا اور جب مجھے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا (اس وقت بھی مجھ پر سلامتی نازل کی جائے گی)

Sura 19:31-34 He said, I am a servant of Allah. He has given me the Book, and made me a Prophet. And He has made me blessed wheresoever I may be, and has enjoined upon me Prayer and almsgiving so long as I live; And He has made me dutiful toward my mother, and He has not made me haughty and unblessed. And peace was on me the day I was born, and peace there will be on me the day I shall die, and the day I shall be raised up to life again.

Sura 19:31-34 Er Sprach: „Ich bin ein Diener Allahs, Er hat mir das Buch gegeben und mich zu einem Propheten gemacht; Er machte mich gesegnet, wo ich auch sein mag, und Er befahl mir Gebet und Almosen, solange ich lebe; Und (Er machte mich) ehrerbietig gegen meine Mutter; Er hat mich nicht hochfahrend, elend gemacht. Friede war über mir am Tage, da ich geboren ward, und (Friede wird über mir sein) am Tage, da ich sterben werde, und am Tage da ich wieder zum Leben erweckt werde.“

ذَكْرُ الْمُحَاجَّةِ
مَعْنَى عَنْ

في هدي خير العباد

لابن قيم الجوزية

الإمام المحدث المفسر الفقيه شيخ الدين أبي عبد الله محمد بن إبراهيم الرزاعي الدمشقي
(٦٩١ - ٧٥١)

مَصْنَعٌ نَّصُوصَهُ ، وَضَرَبَ أَمَارِيهُ ، وَعَلَّقَ عَلَيْهِ

شَعِيبُ الْأَرْنُوُطُ عَبْدُ الْقَادِرِ الْأَرْنُوُطُ

لِلْجَزِيلِ الْمَؤْوَلِ

مكتبة المنار الإسلامية

مؤسسة الرسالة

خير لرسوله ، وإنما أبكي لانقطاع خبر السماء ، فهيجتها على البكاء ،
فبكيا (١) .

فصل

في مبعثه ﷺ وأول ما نزل عليه

بعثه الله على رأس أربعين ، وهي سنُّ الكمال . قيل : ولها تبعث الرسل ،
وأما ما يذكر عن المسيح أنه رُفعَ إلى السماء وله ثلاثة وثلاثون سنة ، فهذا
لا يعرف له أثر متصل يجحب المصير إليه .

وأول ما بدئ به رسول الله ﷺ من أمر النبوة الرؤيا ، فكان لا يرى
رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح (٢) . قيل : وكان ذلك ستة أشهر ، ومدة النبوة
ثلاث وعشرون سنة ، فهذه الرؤيا جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة
والله أعلم .

ثم أكرمه الله تعالى بالنبوة ، فجاءه الملك وهو بغار حراء . وكان
يُحبُّ الخلوة فيه ، فأول ما نزل عليه ﴿اقرأ باسم ربك الذي خلق﴾
[العلق : ١] هذا قول عائشة (٣) والجمهور .

(١) أخرجه مسلم (٢٤٥٤) في الفضائل : باب من فضائل أم أيمن .

(٢) أخرج البخاري ٢١/١ عن عائشة قالت : أول ما بدئ به رسول الله ﷺ من الوحي
الرؤيا الصالحة في النوم ، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح

(٣) أخرجه البخاري ٨/٥٥١ و ٥٥٢ و ٥٥٣ في تفسير سورة «اقرأ باسم ربك الذي خلق»
وفي بدء الوحي : باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ . وفي الأنبياء بباب (واذ ذكر في
الكتاب موسى) وفي التعبير بباب أول ما بدئ به رسول الله ﷺ من الوحي الرؤيا الصالحة .

وَأَمَّا مَا يُذَكَّرُ عَنِ الْمَسِيحِ أَنَّهُ رُفِعَ إِلَى السَّمَاوَاتِ وَلِهِ ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ سَنَةً ، فَهَذَا
لَا يُعْرَفُ لَهُ أَثْرٌ مُتَصَلٌ يَجِبُ الْمُصِيرُ إِلَيْهِ .

(زاد المعاد، فصل في مبعثه ﷺ، وأول منزل عليه، جلد 1 صفحه 84)

حافظ امام ابن قیمؒ فرماتے ہیں:- اور حضرت مسیح علیہ السلام کے متعلق جو یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ 33 سال کی عمر میں آسمان کی طرف اٹھائے گئے۔ اس کی کوئی ایسی سند متصل موجود نہیں جس کی بناء پر اس قول کو قبول کیا جائے۔

Hazrat Hafiz Imam Ibn Qayyam says:- And what is asserted about the Messiah - that he was lifted towards heaven at the age of 33 years- has not been supported by any Hadith and cannot, therefore, win our conviction.

(Zad ul Maad vol. 1, page 84)

Hafiz Imam Ibn-e-Qayyam sagt: "Und das Gerücht über den Messias, dass er im Alter von 33 Jahren gen Himmel fuhr, wird durch keinerlei Hadith, das uns überzeugen könnte, bestätigt."

(Sad ul Maad Bd. 1, Seite 84)

كتنز العمال

فِي سِينَةِ الْقُوَّالِ وَالْأَغْنَالِ

للعلامة علاء الدين علي المنشي بن حسام الدين البندري

البرهان فوري المتوفى ٩٧٥

الجزء الحادي عشر

صححة ووضع فهارسه ومتناهه

خطبه وفسر غريبه

أشیخ صفتہ امتحان

اشیخ بکری حنیانی

مؤسسة الرسالة

٣٢٢٦١ - لَنْ يُعْمَرَ اللَّهُ تَعَالَى مُلْكًا فِي أُمَّةِ نَبِيٍّ مُضِى قَبْلَهُ مَا بَلَغَ ذَلِكَ
النَّبِيُّ مِنَ الْعَمَرِ فِي أُمَّتِهِ . (ك - عن علي) .

٣٢٢٦٢ - إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ كَانَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ إِلَّا عَاشَ نَصْفَ عَمْرِ النَّبِيِّ
كَانَ قَبْلَهُ ، وَإِنَّ عِيسَى ابْنُ مُرْسَى عَاشَ عَشْرِينَ وَمَائَةً وَإِنِّي لَا أَرَانِي إِلَّا ذَاهِبًا
عَلَى رَأْسِ السَّتِينِ ، يَا بَنِيَّ أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ النَّاسِ الْمُسْلِمِينَ أَمْرَأٌ أَعْظَمُ ذَرِيَّةً
مِنْكَ فَلَا تَكُونُنِي مِنْ أَدْنَى امْرَأَةٍ صَبَرَّاً ، إِنَّكَ أُولُو أَهْلِ بَيْتٍ لَحُوقَّاً بِي ،
وَإِنَّكَ سَيِّدُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِلَّا مَا كَانَ مِنَ الْبَتُولِ مُرْسَى بَنْتُ عُمَرَانَ .
(طَبَ - عن فاطمة الزَّهْرَاءِ) .

٣٢٢٦٣ - لَمْ يَقْبِرْ نَبِيٌّ إِلَّا حِيتَ يَوْتُ . (حَمَّ - عن أَبِي بَكْرٍ
وَفِيهِ انْقِطَاعٌ) .

٣٢٢٦٤ - مَا مِنْ نَبِيٍّ تَقْدِرُ أُمَّتَهُ عَلَى دُفْنِهِ إِلَّا دُفِنُوهُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي
قُبِضَ فِيهِ . (الرَّافِعِيُّ مِنْ طَرِيقِ الزَّبِيرِ بْنِ بَكَارٍ) .

٣٢٢٦٥ - حَدَّنِي يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ طَلْحَةَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي
بَكْرٍ الصَّدِيقِ حَدَّنِي عَمِيْ شَعِيبُ بْنُ طَلْحَةَ حَدَّنِي أَبِي سَعْدٍ أَسْمَاءَ بْنَتَ أَبِي
بَكْرٍ : مَا قَبْضَ نَبِيٌّ إِلَّا جَعَلَ رُوحَهُ بَيْنَ عَيْنِيهِ ثُمَّ خَيَّرَ بَيْنَ الرَّجْعَةِ إِلَى الدُّنْيَا
وَالْمَوْتِ . (الدَّلِيلِيُّ - عن عَائِشَةَ) .

٣٢٢٦٦ - مَا بَعَثَ اللَّهُ تَعَالَى نَبِيًّا قَطْ فِي قَوْمٍ ثُمَّ يَقْبِضُهُ إِلَّا جَعَلَ بَعْدَهُ
قَرْتَةً وَمَلَأً مِنْ تَلْكَ الْفَتْرَةِ جَهَنَّمَ . (طَبَ - عن أَبِي عَبَّاسٍ) .

٣٢٢٦٢ - إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ كَانَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ إِلَّا عَاشَ نَصْفَ عُمُرِ الَّذِي
كَانَ قَبْلَهُ، وَإِنَّ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ عَاشَ عَشْرِينَ وَمَا تَرَى وَإِنِّي لَا أَرَانِي إِلَّا ذَاهِبًا
عَلَى رَأْسِ السَّتِينِ،

(کنزالعمال، باب اثنان الفصل الاول، فی فضائل سائر الانبیاء، جلد 11 صفحہ 479)

کنزالعمال میں آنحضرت ﷺ کا ایک قول یوں درج ہے کہ جبرائیل نے مجھے خبر دی ہے کہ کوئی نبی نہیں گزراد کہ جس کی عمر پہلے نبی سے آدمی نہ ہوئی ہو اور یقیناً عیسیٰ ابن مریم ایک سو بیس سال کی عمر تک زندہ رہے تھے۔ پس میں سمجھتا ہوں کہ میری عمر سانچھ سال کے قریب ہوگی۔

The Holy Prophet^{saw}, peace and blessings of Allah be upon him, said: Gebriel informed me that every successive prophet has lived to half the age of his predecessor. And verily Jesus, son of Mary, lived to 120 years. Therefore, I think, I may reach the age of sixty.

(Kanzulummal vol 11 page 479)

Der Heilige Prophet^{saw} sagte: " [...] Jeder Prophet lebte halb so lang wie sein Vorgänger. Und wahrlich, Jesus, Sohn der Maria, lebte 120 Jahre. Deshalb nehme ich an, dass ich etwa 60 Jahre leben werde."

(Kanzulummal Bd 11 Seite 479)

فتح الباري في مقام القبر

تفسير سلفي أشعري خالٍ من الإيسار والجبلية والذهبية والكلامية
يعنى عن جميع الفتاوى والتغريبات جميعاً

تأليف

السيد ابراهيم العدلية الملقب بـ "مَدِيد البابي"
أبا الطيب" صديقه بن محسن بن على السيني الفرجي البغدادي
ـ ١٤٤٨ - ١٣٥٧ هـ"

عني بطبعه وقدم له وراجمه

خادم العلم

عبد الله بن إبراهيم الأنصاري

الجزء الثاني

المكتبة العضيرية
مسنداً - بيروت

وعن سعيد بن المسيب قال: رفع عيسى وهو ابن ثلات وثلاثين سنة رفعه الله من بيت المقدس ليلة القدر من رمضان وحملت به أمه ولها ثلاث عشرة سنة، وولدته بمضي خمس وستين سنة من غلبة الاسكندر على أرض بابل وعاشت بعد رفعه ست سنين.

أورد على هذا عبارة المواهب مع شرحها للزرقاني وإنما يكون الوصف بالنبوة بعد بلوغ الموصوف بها أربعين سنة إذ هو سن الكمال ولها تبعث الرسل، ومفاد هذا الحصر الشامل لجميع الأنبياء حتى يحيى وعيسى هو الصحيح، ففي زاد المعاد للحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى ما يذكر: أن عيسى رفع وهو ابن ثلات وثلاثين سنة لا يعرف به أثر متصل يحب المصير إليه، قال الشامي وهو كما قال، فإن ذلك إنما يروى عن النصارى، والمصرح به في الأحاديث النبوية أنه إنما رفع وهو ابن مائة وعشرين سنة.

ثم قال الزرقاني: وقع للحافظ الجلال السيوطي في تكميلة تفسير المحل وشرح التقایة وغيرها من كتبه الجزم بأن عيسى رفع وهو ابن ثلات وثلاثين سنة، ويمکث بعد نزوله سبع سنين، وما زلت أتعجب منه مع مزيد حفظه وإتقانه وجمعه للمعنى والمنقول حتى رأيته في (مرقة الصعود) رجع عن ذلك انتهى.

قلت: وفي حديث أبي داود الطيالسي بدل سبع سنين أربعين سنة ويتوافق ويصلى عليه، قال السيوطي: فيحتمل أن المراد مجموع لبثه في الأرض قبل الرفع وبعده انتهى، وفيه ما تقدم.

أورد على قوله «ليلة القدر» أنها من خصائص هذه الأمة وربما يقال في الجواب لعل الخصوصية على الوجه الذي هي عليه الآن من كون العمل فيها خيراً من العمل في ألف شهر، ومن كون الدعاء فيها مجاباً حالاً بعين المطلوب

ففي زاد المعاد للحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى ما يذكر: أن عيسى رفع وهو ابن ثلات وثلاثين سنة لا يعرف به أثر متصل بحب المصير إليه ، قال الشامي وهو كما قال ، فإن ذلك إنما يروي عن النصارى ، والمصرح به في الأحاديث النبوية أنه إنما رفع وهو ابن مائة وعشرين سنة .

(فتح البيان في المقاصد القرآن، سورة آل عمران، تفسير زير آيت وإنزال الله تعزى إلينا موسى فيك۔۔۔ جلد 2 صفحہ 247)

علامہ ابو طیب صدیق بن حسن صاحب لکھتے ہیں کہ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب زاد المعاد میں لکھا ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 33 سال کی عمر میں اٹھائے گئے اس کی تائید کسی حدیث سے نہیں ہوتی تا اس کامانا واجب ہو۔ شامی نے کہا کہ جیسا کہ امام ابن قیم نے فرمایاں الواقع ایسا ہی ہے۔ اس عقیدہ کی بناء عیسائیوں کی روایات ہیں۔ آنحضرت علیہ السلام کی احادیث سے واضح ہوتا ہے کہ ان کا (یعنی حضرت عیسیٰ) کارفع ایک سو بیس سال کی عمر میں ہوا۔

Allama Abu Tayyeb Siddique bin Hasan says:- " It is written in Zadul Ma'ad authored by Hafiz Ibne Qayyam, Allah's mercy be upon him, that the assertion that Jesus, peace and blessings of Allah be upon him, was lifted up at the age of 33 years, has not been supported by any Hadith and cannot, therefore, merit our belief. Shami has been quoted as saying that the truth of the matters is exactly the same as described by Imam Ibne Qayyim. This belief of ascension of Jesus at the age of 33 years is based on the narratives of the Christians. It is quite clear from the Traditions of the Holy Prophet, that Jesus's spiritual ascension took place at the age of 120 years.

(Fat hul Bayan vol 2 page 247)

Ein eminenter Gelehrter, Abu Tayyeb Siddique bin Hasan, sagte: "Es wird in Sadul Ma'ad, verfasst von Hafiz Ibne Qayyam, Allahs Segen sei mit ihm, berichtet, dass das Gerücht, dass Jesus^{as} im Alter von 33 Jahren gen Himmel fuhr, in keinem Hadith überzeugend bestätigt wird. Al-Shami überliefert, dass der wahre Tatbestand von Imam Ibn Qayyam geschildert wird. Der Glaube an die Himmelfahrt Jesu^{as} im Alter von 33 Jahren ist auf Erzählungen der Christen zurückzuführen. Aus den Überlieferungen des Heiligen Propheten^{saw} ist eindeutig ersichtlich, dass der Tod Jesu sich ereignete, als dieser 120 Jahre alt war.

(Fat hul Bayyan Bd 2 Seite 247)

أَسْبَابُ التَّرْزُولِ

وَبِهَا مُشَاهِدَةٌ

النَّاسِخُ وَالْمُنْسُوخُ

تصنيف الشیخ الإمام أبي الحسن عَلَی
بن أَحْمَدَ الْوَاحِدِيِّ النِّسَابُورِيِّ

تأليف الشیخ الإمام المحقق أبي القاسم
هَبَّةُ اللَّهِ إِبْنُ سَلَامَةَ أَبِي النَّصِيرِ

عَنْ أَمْرِ اللَّهِ
بَيْزَوْت

(أسباب الرول) (٦٨)

كثيرون حق حسن على في دينهم وكانت ملوك الروم قد شرفوه
ومولوه وبنوا له الكبائس لله واجتهد فقدموا على رسول الله صلى
الله عليه وسلم ودخلوا مسجده حين سل العبر عليهم ثواب الجبرات
جياب وارديبة في جبال رجبار الحارث بن كعب يقول بعض من رأهم
من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأينا ونداً منهم وند
حانت صلاتهن فقاموا فصلوا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم
 فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوهم فصلوا الى المشرق فكلم
السيد والماقب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم رسول الله
صلى الله عليه وسلم أسلما فقلنا قد أسلما قيل كذبنا منك من
الإسلام دعا زكارة ولها وعادتك الصليب وأكلك لائزير قال لا ان لم
يكن عيسى ولد الله فزن أبوه وخاسمهو جيما في عيسى فقال لها التي
صلى الله عليه وسلم السُّنْن تعلون انه لا يكون ولد الا ويشهده
قالوا بلى قال السُّنْن تعلون ان ربنا هي لا يموت وان عيسى اتى عليه
النهاه قالوا بلى قال السُّنْن تعلون ان ربنا قيم على كل شيء يحفظه ويرزقه
قالوا بلى قال نهل يملك عيسى من ذلك شيئاً قالوا لا قال فان ربنا
صور عيسى في الرسم كيف شاء وربنا لا يأكل ولا يشرب ولا يتحدث
قالوا بلى قال السُّنْن تعلون ان عيسى حمله امه كا تحمل المرأة ثم
وضسته كا تضع المرأة ولدها ثم غذى كا يغذى الصبي ثم كان يطع
ويشرب ومحدث قالوا بلى قال نكيف يكون هذا كا زعم فكتروا
فأذل الله عن وجل فهم سدر سورة آل عمران الى بضماء ونباين
آية منها قوله ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُبْلُوْنَ﴾ الآية قال الكلبي
عن أبي صالح عن ابن عباس ان اليهود اهل للدينه قالوا اما هنهم امة
الشر كن يوم بدر هذا امة التي الامي الذي يشربنا به موسى ونجدوه

في كعب بن عميرة
الأنصارى وذلك
انه قال لما زرت
مع النبي صلى الله
عليه وسلم الخديبة
رسى النبي صلى
الله عليه وسلم وانا
اطبع قدرا لي
والتميل ينهاط
على وجهى فقال
لي رسول الله
صلى الله عليه وسلم
يا كعب بن عميرة
لعلك يؤذيك هؤام
رأوك فنزلت فلن
كان مرئانا او

قال لهم أبا

صلى الله عليه وسلم .السم تملون انه لا يكون ولد الا ويتب ابا
قالوا بلى قال السم تملون ان ربنا حي لا يموت وان عيسى آتى عليه
النقاء قالوا بلى قال السم تملون ان ربنا قيم على كل شيء يحفظه ويرزقه

(اسباب النزول، مطبوعہ بیروت، صفحہ 68)

آنحضرت ﷺ نے نجران کے وفد سے فرمایا کہ کیا تم کو معلوم نہیں کہ ہمارا رب زندہ ہے کبھی نہیں مرتا جبکہ عیسیٰ پر تو فنا آچکی۔

The Holy Prophet (pbuh) said to the group of Najran: Do you not know that our Lord is living and He will never die, whereas Jesus has already died ?

(Asbabun Nazul, page 68)

Der Heilige Prophet^{saw} sagte zur Gesandschaft aus Nadschran: "Wisst ihr denn nicht, dass unser Herr lebendig ist, Er wird nicht sterben, aber Jesus^{as} ist schon gestorben."

(Asbabun Nasul, Seite 68)

أَسْبَابُ النَّزُولِ

تأليف

أبي الحسن على بن أحمد الواحدى النيسابورى

٤٦٨ هـ

حقوق الطبع محفوظة

الطبعة الأولى

١٤١١ هـ - ١٩٩٠ م



٩١٣٨٦٢

- ٤٤ -

حدثنا سفيان ، عن أدم بن سليمان قال : سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس قال : لما نزلت هذه الآية - ﴿ وَإِنْ تَبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تَخْفُوهُ يَحْاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ ۝ دَخَلَ قُلُوبَهُمْ مِنْهَا شَيْءٌ لَمْ يَدْخُلْهَا مِنْ شَيْءٍ ، فَقَالَ النَّبِيُّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - قُولُوا سَمِعْنَا فَأَطْعَنَا ، فَأَقْرَأَ اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهِ إِيمَانَهُمْ فِي قُلُوبِهِمْ ، فَقَالُوا سَمِعْنَا فَأَطْعَنَا ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى - ﴿ لَا يَكُفُّ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَنْفُسِهِ إِلَّا وَسَعَهَا ۝ حَتَّىٰ بُلَغَ - أَوْ أَخْطَلَنَا - فَقَالَ : قَدْ فَعَلْتَ إِلَى أَخْرَ الْبَقَرَةِ ، كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ قَدْ فَعَلْتَ ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أُبْنِ بَكْرٍ بْنِ أَبِي شَيْبَةِ عَنْ وَكِيعٍ .

قال المفسرون : لما نزلت هذه الآية - ﴿ وَإِنْ تَبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ ۝ جاءَ أَبُو يَكْرَ وَعَمْرُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ وَمَعَاذَ بْنَ جَبَلَ وَنَاسًا مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَيْهِ النَّبِيُّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فَجَشُوا عَلَى الرَّبِّ وَقَالُوا : يَارَسُولَ اللَّهِ ، وَاللَّهُ مَنْزَلَتْ آيَةً أَشَدَّ عَلَيْنَا مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ ، إِنَّ أَحَدَنَا لِيَحْدُثَ نَفْسَهُ بِمَا لَا يُحِبُّ أَنْ يُبَثِّتَ فِي قَلْبِهِ وَأَنْ لِهِ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا ، وَإِنَا لَمْ نَأْخُذُنَّ بِمَا نَحْدُثُ بِهِ أَنْفُسَنَا هَلْكَنَا وَاللَّهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - هَذَا أَنْزَلَتْ ، فَقَالُوا : هَلْكَنَا وَكَفَنَا مِنَ الْعَمَلِ مَا لَا نَطِيقٌ ، قَالَ فَلَعْلَكُمْ تَقُولُونَ كَمَا قَالَ بْنُ إِسْرَائِيلَ لِمُوسَى : سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا ، قُولُوا : سَمِعْنَا فَقَالُوا سَمِعْنَا فَأَطْعَنَا ، وَاشْتَدَّ ذَلِكُ عَلَيْهِمْ ، فَمَكَثُوا بِذَلِكَ حَوْلًا ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فَرْجٍ وَرَاحَةً بِقَوْلِهِ - ﴿ لَا يَكُفُّ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَنْفُسِهِ إِلَّا وَسَعَهَا ۝ - الْآيَةُ ، فَنَسَخَتْ هَذِهِ الْآيَةِ مَا قَبْلَهَا ، قَالَ النَّبِيُّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - إِنَّ اللَّهَ قَدْ تَجَاوَزَ لَأْمَتِي مَا حَدَثَنَا بِهِ أَنْفُسَهُمْ مَالِمْ يَعْمَلُوا أَوْ يَتَكَلَّمُوا بِهِ .

سورة آل عمران

قال المفسرون : قديم وقد نجران ، وكانوا سنتين راكبا على رسوله - عَلَيْهِ السَّلَامُ - وفيهم أربعة عشر رجلا من أشرافهم ، وفي الأربعة عشر ثلاثة نفر إلىهم ينول أمرهم ، فالعقاب أمير القوم وصاحب مشورتهم الذي لا يصدرون إلا عن رأيه واسميه عبد المسيح ، والسيد إمامهم وصاحب رحلهم واسميه الأيمهم ، وأبو حارثة بن علقة أستقفهم وحبرهم ، وإمامهم وصاحب مداركهم ، وكان قد شرف فيهم ودرس كتابهم حتى حسن علمه في دينهم ، وكانت ملوك الروم قد شرفوه ومولوه وبينوا له الكنائس لعلمه واجتهاده ، فقدموا على رسول الله - عَلَيْهِ السَّلَامُ - ودخلوا مسجده حين صلى العصر ، عليهم ثياب الحبرات جبات وأربديه في جمال رجال الحارث بن كعب ، يقول بعض من أصحابه رسول الله - عَلَيْهِ السَّلَامُ - ما رأينا وقد مثمنهم ، وقد حانت صلاتهم فقاموا فصلوا في مسجد رسول الله - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فقال رسول الله - عَلَيْهِ السَّلَامُ - دعوهم فصلوا إلى المشرق ، فكلم السيد والعاقب رسول الله - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فقال لهم رسول الله - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أسلما ، فقالا : قد أسلمنا قبلك ، قال : كذبتما منعكم من الإسلام دعاكم الله ولدا ، وعبادتكما الصليب ، وأكلكم الخنزير ، قالا : إن لم يكن عيسى ولد الله فمن أبوه ؟ وخاصموه جميعا في عيسى ، فقال لهم النبي - عَلَيْهِ السَّلَامُ - ألسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَبِّنَا قَيْمَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ يَحْفَظُهُ وَيَرْزُقُهُ ؟ ويشبه أباء ؟ قالوا : بلى ، قال ألسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَبِّنَا قَيْمَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ يَحْفَظُهُ وَيَرْزُقُهُ ؟ قالوا : بلى : قال : فهل يملك عيسى من ذلك شيئا ؟ قالوا : لا ، قال : فإن ربنا صور

- ٤٥ -

عيسى في الرحم كيف شاء ، وربنا لا يأكل ولا يشرب ولا يحدث ؟ قالوا : بل ، قال : ألسنت تعلمون أن عيسى حملته أمه كما تحمل المرأة ، ثم وضعته كما تضع المرأة ولدتها ، ثم غذى كما يغذي الصبي ، ثم كان يطعم ويشرب ويحدث ؟ قالوا : بل ، قال : فكيف يكن هذا كما زعمتم ؟ فسكتوا ، فأنزل الله عز وجل فيهم صدر سورة آل عمران إلى بضعة وثمانين آية منها .

* الآية ١٢ قوله ﴿ قل للذين كفروا ستغلبون ﴾ الآية ، قال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس : إن يهود أهل المدينة قالوا لما هزم الله المشركين يوم بدر : هذا والله النبي الأمي الذي بشرنا به موسى ، ونجده في كتابنا بنته وصفته ، وإنه لا نزد له رأية ، فأرادوا تصديقه وإتباعه ، ثم قال بعضهم لبعض : لا تعجلوا حتى تنظر إلى وقعة له أخرى ، فلما كان يوم أحد ونكب أصحاب رسول الله - عليهما السلام - شدوا و قالوا : لا والله ما هو به ، وغلب عليهم الشقاء فلم يسلموا ، وكان بينهم وبين رسول الله - عليهما السلام - عهد إلى مدة ، فنقضوا ذلك العهد ، وانطلق كعب بن الأشرف في ستين راكباً إلى أهل مكة أبى سفيان وأصحابه فرأقوهم وأجمعوا أمرهم ، وقالوا : لتكونن كلمتنا واحدة ، ثم رجعوا إلى المدينة ، فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية .

وقال محمد بن إسحاق بن يسار : لما أصاب رسول الله - عليهما السلام - قريشاً بدر ، فقدم المدينة جمع اليهود وقال : يا معاشر اليهود اخذروا من الله مثل ما نزل بقريش يوم بدر ، وأسلموا قبل أن يتزلبكم ما تزلب بهم ، فقد عرفتني أنتنبي مرسل ، تجدون ذلك في كتابكم وعهد الله إليكم ، فقالوا : يا محمد لا يغرنك أئن لقيت قوماً أغماراً لاعلم لهم بالحرب ، فاصببت فيهم فرصة ، أما والله لو قاتلناك لعرفت أنا نحن الناس ، فأنزل الله تعالى - قل للذين كفروا - يعني اليهود - ستغلبون - تهزمون - وتحشرون إلى جهنم - في الآخرة هذه رواية عكرمة وسعيد بن جبير عن ابن عباس .

* الآية ١٨ قوله ﴿ شهد الله أنه لا إله إلا هو ﴾ قال الكلبي : لما ظهر رسول الله - عليهما السلام - بالمدينة قدم عليه حبران من أهبار أهل الشام ، فلما أبصرها المدينة ، قال أحدهما لصاحبه : ما أشبه هذه المدينة بصفة مدينة النبي الذي يخرج في آخر الزمان ، فلما دخل على النبي - عليهما السلام - عرفاه بالصفة والنعت فقال له : أنت محمد ؟ قال : نعم ، قالا : وأنت أحمد ؟ قال : نعم ، قالا ، إنما نسألك عن شهادة ، فإن أنت أخبرتنا بها أمنا بك وصدقناك ، فقال لهما رسول الله - عليهما السلام - سالني ، فقالا : أخبرنا عن أعمظم شهادة في كتاب الله ؟ فأنزل الله تعالى على نبيه - شهد الله أنه لا إله إلا هو والملاك وأولوا العلم - فأسلم الرجلان وصدقوا برسول الله - عليهما السلام - .

* الآية ٢٣ قوله ﴿ ألم تر إلى الذين أتوا نصيباً من الكتاب ﴾ الآية ، اختلفوا في سبب نزولها ، فقال السدي : دعا النبي - عليهما السلام - اليهود إن الإسلام فقال له النعمان بن أذفي : هل يا محمد نخاصمك إلى الأخبار ، فقال رسول الله - عليهما السلام - : بل إلى كتاب الله ، فقال : بل إلى الأخبار ، فأنزل الله تعالى هذه الآية .

وخاصمومہ جمیعاً فی عیسیٰ ، فقال لهما النبی - ﷺ - أَلسْتُ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ لَا يَكُونُ ولدٌ إِلَّا
ویشبھ أباہ ؟ قالوا : بلى ، قال ألسْتُ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَبِّنَا قَیْمَ عَلَیْ کل شئیء یحفظه ویرزقہ ؟
قالوا : بلى : قال : فهل یملک عیسیٰ من ذلک شئیئاً ؟ قالوا : لا ، قال : فإِنْ رَبِّنَا صَوْرَ

(اسباب النزول، صفحہ 44، مطبوعہ 1990ء)

ضروری نوٹ:- قارئین کرام! مندرجہ بالا اسباب النزول مطبوعہ 1990ء میں سے عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا حوالہ حذف کر دیا گیا ہے۔ جبکہ یہ پہلے شامل تھا۔ دیکھئے صفحہ 70-72 کتاب مذکور اسکی وجہ تحریف ہے۔ اس سے جماعت احمدیہ کے مخالف علماء کی یہود سے مشابہت ثابت ہو گئی ہے جیسا کہ آنحضرت ﷺ نے پیشگوئی کی تھی کہ مسلمان یہود سے ہر امر میں مشابہ ہو جائیں گے۔

Important Note: In the 1990 edition of this book "Asbabun Nazul" the part of the sentence referring to the death of Isa a.s. was deleted, whereas it was written in the old edition, see page No. 70-72 of this book. This is a clear manipulation by the opponents of the Jamaat and thus Muslims are following in the footsteps of the Jews, as Holy Prophet (pbuh) had prophesied that Muslims would resemble them in every respect.

(Asbabun Nuzul page 44, edition 1990)

Wichtige Anmerkung: Sehr geehrte Leser, in der im Jahre 1990 erschienenen Ausgabe des Buches "Assbabun Nasul" ist der den Tod des Isa (a.s.) betreffende Teil des Satzes nicht mehr vorhanden! (s. Seiten 70ff. dieser Ausgabe.) Dies ist eine klare Manipulation seitens der Gegner der Ahmadiyya-Gemeinschaft, damit folgen Muslime auf den Spuren der Juden. Der Heilige Prophet s.a.s. hatte prophezeit, dass die Muslime den Juden in jeder Hinsicht ähneln werden.

(Assbabun Nusul Seite 44, Ausgabe 1990)

وَجَعْلَنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّةَ آيَةً وَأَوْيُنُهُمَا إِلَى رَبِّوَةٍ ذَاتِ قَرَابٍ وَمَعِينٍ^⑥ (المؤمنون: 51)

اور ہم نے ابن مریم اور اس کی ماں کو ایک نشان بنایا اور ہم نے ان دونوں کو ایک اونچی جگہ پر پناہ دی جو ظہرنے کے قابل اور بہت ہوئے پانیوں والی تھی۔

Sura 23:51 And We made the son of Mary and his mother a Sign, and gave them refuge on an elevated land of green valleys and springs of running water.

Sura 23:51 Und Wir machten den Sohn der Maria und seine Mutter zu einem Zeichen und gaben ihnen Zuflucht auf einem Hügel mit einer grünen Talmulde und dem fließenden Wasser von Quellen.

كتاب العمال

في أهين الأقوال وألافعمال

للعلامة علاء الدين علي المنشي بن حسام الدين الهندي

البرهان فوري المتوفى ٩٧٥

الجزء الثالث

ضبطه وفسر غريبه صحه ووضع فهارسه ومتاحه

اشيخ بكر جيتاني اشيخ سفراهيف

مؤسسة الرسالة

٥٩٥٤ - يَكُونُ فِي أُمّتِي رَجُالٌ ، طُلُسٌ رَؤْسُهُمْ ، دَنِسٌ ثِيَابُهُمْ ،
لَوْ أَقْسَمُوا عَلَى اللَّهِ لَا يَرَهُمْ . (الدِّيلِيِّيُّ عن أَبِي مُوسَى) .

٥٩٥٥ - أَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَى عِيسَى : أَنْ يَا عِيسَى اسْتَقِلْ مِنْ مَكَانٍ
إِلَى مَكَانٍ ، لَثَلَاثَةَ شُرْفٍ ، فَتُؤْذِنِي ، فَوْ عَزْتِي وَجَلَالِي لِأَزْوَجَنَّكَ أَلْفَ
حُورَاءَ ، وَلَا وَلَمْنَ عَلَيْكَ أَرْبَعَمِائَةَ عَامٍ . (كَرَ عن أَبِي هَرِيرَةَ) وَفِيهِ هَانِي
ابن المَوْكِلِ الْإِسْكَنْدَرِي قَالَ فِي الْمَغْنِي مَجْهُولٌ^(١) .

(١) هَانِي بْنُ الْمَوْكِلِ الْإِسْكَنْدَرِي أَبُو هَاشِمِ الْمَالِكِي الْفَقِيهِ .
رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ وَحْيَةَ بْنِ شَرِيعٍ وَمَعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ وَعَنْهُ : بَقِيَ بْنُ مُخْلَدٍ
وَعُمَّرَ دَهْرًا طَوِيلًا أَرِيدَ مِنْ مائَةَ سَنَةٍ وَتَوَفَّى (٢٤٢) هـ
قَالَ أَبْنُ جَبَانَ : كَانَ تَدْخُلُ عَلَيْهِ الْمَنَاكِيرُ وَكَثُرَتْ فَلَا يَجُوزُ الْاحْتِجاجُ بِهِ
فَمِنْ مَنَاكِيرِهِ هَذَا الْحَدِيثُ .
وَأَرْدَهُ الْذَّهِيْيِيُّ فِي مِيزَانِ الْاعْتِدَالِ (٢٩١/٤) ص.



٥٩٥٥ - أَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَى عِيسَى : أَنْ يَا عِيسَى اسْقُلْ مِنْ مَكَانٍ
إِلَى مَكَانٍ ، لَذِلَّةً تُعْرَفُ ، فَشُوْذٌ ،

(کنز العمال باب الاول فی الاخلاق، زیر عنوان الامکال جلد 3، صفحہ 158)

آنحضرت ﷺ نے فرمایا:- اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو وحی کرتے ہوئے فرمایا اے عیسیٰ ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف نقل مکانی کرتے رہو تاکہ تجھے پہچان کر تکلیف میں نہ ڈالا جائے۔

The Holy Prophet, peace and blessings of Allah be upon him, is reported to have said:- "Allah the Exalted revealed to Jesus, peace be upon him, :- 'O Isa, continue to move from one place to another so that you might not be persecuted after being recognised."

(Kanzulummal chapter 1 in vol 3 page 158)

Der Heilige Prophet^{saw} sagte: "Gott offenbarte Jesus: "O Jesus, fahre fort, von einem Ort zum anderen zu wandern, damit du nicht erkannt wirst und in Schwierigkeiten gerätst."

(Kansulummal Kapitel 1 in Bd 3 Seite 158)

وَمَا جَعَلْنَا لِبَتَّةٍ مِّنْ قَبْلِكَ الْحُلْمَ أَفَإِنْ مِّنْ فَهُمُ الْخُلْدُونَ ﴿٣٥﴾ (الأنبياء:35)

اور ہم نے کسی انسان کو تجھ سے پہلے ہمیشہ کی زندگی نہیں بخشی۔ کیا اگر تو مر جائے تو وہ غیر طبعی عمر تک زندہ رہیں گے۔

Sura 21:35 We granted not everlasting life to any human being before thee. If then thou shouldst die, shall they live here forever ?

Sura 21:35 Wir gewährten keinem Menschenwesen vor dir immerwährendes Leben. Drum, wenn du sterben solltest, können sie immerwährend leben?

حَسَنُ طَهُونِي

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

جَمِيعَهَا وَشَرَحَهَا

مُشَحَّثُ الْمُطَبِّبِ

ذَرِ الْأَعْنَاصَمِيرَ

فأخذت بيده حتى جلس على المابر ثم قال : نادى الناس فاجتمعوا إليه .
 فقال : أما بعد أنها الناس فإني أهدم إليكم الله الذى لا إله إلا هو . وإنك قد
 دُنْتَ مني خفوق^(١) من بين أظهركم . فمن كنت جلدت له ظهرآً فهذا ظهرى
 فليستقد^(٢) منه . ومن كنت شتمت له عرضاً فهذا عرضى . فليستقد منه :
 ومن أخذت له مالاً فهذا مال ، فليأخذ منه . ولا تخش الشحناه^(٣) من قبل
 فإنها ليست من شأنى . ألا وإن أحبكم إلى من أخذت مني حقاً . إن كان له
 أو حللى^(٤) فلقيت ربى . وأنا طيب النفس ، وقد أدرى أن هذا غير مغن
 عنى حتى أقوم فيكم مراراً ثم نزل فصل الظهر . ثم رجع فجلس على المنبر
 فعاد لمقالته الأولى ، فادعى عليه زجل بثلاثة دراهم فأعطيته عرضها ثم قال :
 أيها النازم ، من كان عنده شيء فليؤده ، ولا يقل فضوح^(٥) الدنيا . ألا وإن
 فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة ثم صلى على أصحاب أمن . واستغفر
 الله : إن عبداً خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده . فاختار ما عنده
 فبكى أبو بكر رضى الله عنه وقال : فديناك بأنفسنا وآبائنا .

الجهرة : (٦٠/١) ، الطبرى : (١٩١/٢) . الكامل لابن الأثير :
 (١٥٤/٢)

٥٦٥ - خطبته فيه يوصى بالأنصار :

الحمد لله وأتني عليه وقال : (أيها الناس بلغنى أنكم تحافظون من موته
 نبيكم صلى الله عليه وسلم هل خلدنبي قبل فيمن بعث إليه فأخلد فيكم ؟
 ألا وإنني لاحق بربى . وإنكم لاحقون بي . فارصيكم بالمهاجرين الأولين)

(١) خفرق : غياب بالمرت .

(٢) فليستقد : فليتعذر .

(٣) الشحناه من نبل : الدعاوة من جهة .

(٤) حللى : ساخنى .

(٥) الفضوح بضم الواه : الفتنية انكشاف العرب .

سَمِّدَ اللَّهُ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ وَقَالَ : (أَيُّهَا النَّاسُ بِلِغْنِي أَنْكُمْ تَخَافُونَ مِنْ مَوْتٍ
نَبِيَّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُلْ خَلَدَ نَبِيٌّ قَبْلِيْ فَيُمَنِّيْ بَعْثَ إِلَيْهِ فَأَخْلَدَ فِيْكُمْ ؟
أَلَا وَإِنِّي لَأَحْقَنُ بَرِّيْ . وَإِنَّكُمْ لَأَحْقَنُونِيْ - فَأَوْصِيَّكُمْ بِالْمَهَاجِرَةِ الْأَوَّلَيْنَ

(خطبہ المصطفی از محمد خلیل الخطیب صفحہ 345)

آنحضرت ﷺ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و شاء کرنے کے بعد فرمایا! اے لوگو! مجھے پڑتا گا ہے کہ تم کو اپنے نبی ﷺ کی موت کا خوف دامن گیر ہے کیا مجھ سے پہلے کسی نبی کو جن کی طرف وہ بھیجا گیا تھا خلود (ہمیشہ کی زندگی) ملی کہ میں تم میں ہمیشہ کے لئے رہوں۔ سنو میں اپنے رب کو ملنے والا ہوں اور یقیناً تم مجھ کو ملوگے۔ سو میں تم کو مہاجرین کے متعلق وصیت کرتا ہوں۔

The Holy Prophet , Peace and blessing of Allah be upon him, praised Allah the Exalted and eulogized Him, and then he said:- O people, I have come to know that you are afraid of your Prophet's death. Did any of the prophet who was sent before me had everlasting life that I should live with you for ever? Hearken, I am going to meet my Lord, and certainly you will meet me. Hence, I give you advise regarding the first immigrants (from Mecca).

(Khutaba alMustafa by Mohammad Khalil alKahteeb: page 345)

Der Heilige Prophet^{saw} lobpreiste Allah und verherrlichte Ihn und sagte: "O ihr Menschen, ich habe erfahren, dass ihr euch vor dem Tod eures Propheten fürchtet. Hat je ein Prophet, der gesandt wurde, ewiges (irdisches) Leben erhalten, so dass auch ich ewig Leben sollte? Hört, ich werde bald meinen Herrn treffen und gewiss werdet auch ihr mich treffen. Also ermahne ich euch in Bezug auf die Behandlung der Muhadscherien (die Flüchtlinge aus Mekka)."

(Khutaba alMustafa von Mohammad Khalil alKhatib; Seite 345)

الجَمَاعَ الْحَكَمُ الْقَرْآنِ

لِلْأَذْيَعِيْنِ عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْدَلَةِ الْأَنصَارِيِّ الْقَرْطَجِيِّ

المُجَلَّدُ الثَّانِي
٤ - ٣

دار الكتب العلمية
بيروت - لبنان

الجزء الرابع - سورة آل عمران: الآية (١٧١) ١٧٦

هي حياة الذّكر قال : يرزقون الثناء الجميل . والأول الحقيقة . وقد قيل : إن الأرواح تدرك في تلك الحال التي يسرحون فيها من رواحة الجنّة وطبيتها ونعيمها وسرورها ما يليق بالأرواح ؛ مما ترتزق وتتنعّش به . وأما اللذات الجسمانية فإذا أعيدت تلك الأرواح إلى أجسادها استوفت من النعيم جميع ما أعد الله لها . وهذا قول حسن ، وإن كان فيه نوع من المجاز ، فهو المافق لما آخرناه . والموفق ٢٧٥ إلاه . و«فَرِحَّينَ» نصب في موضع الحال/من المضمّن في «بُرْزُقُونَ» . ويجوز في الكلام «فِرَحُونَ» على النعت لأحياء . وهو من الفرح بمعنى السرور . والفضل في هذه الآية هو النعيم المذكور . وقرأ ابن السَّمَيْطَع «فَارِحَّينَ» بالآلف وهم لغتان ، كالفره والفاره ، والحبور والحاذر ، والطعمي والطامع ، والبخل والباخل . قال النحاس : ويجوز في غير القرآن رفعه ، يكون نعتاً لأحياء .

قوله تعالى : **﴿وَسَيَّسِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوْهُمْ مِّنْ خَلْفِهِمْ﴾** المعنى لم يلحقوا بهم في الفضل ، وإن كان لهم فضل . وأصله من البشرة ؛ لأن الإنسان إذا فرح ظهر أثر السرور في وجهه . وقال السّتّي . : يؤتى الشهيد بكتاب فيه ذكر من يقدّم عليه من إخوانه ، فيستبشر كما يستبشر أهل الغائب بقدومه في الدنيا . وقال قادة وابن جريج والربيع وغيرهم : استبشرهم بأنهم يقولون : إخواننا الذين تركنا خلفنا في الدنيا يقاتلون في سبيل الله مع نبيهم ، فيستشهدون فيقاتلون من الكراهة مثل ما نحن فيه ؛ فيسرّون ويفرّحون لهم بذلك . وقيل : إن الإشارة بالاستبشر للذين لم يلحقوا بهم إلى جميع المؤمنين وإن لم يقتلوا ، ولكنهم لما عاينوا ثواب الله وقع اليقين بأن دين الإسلام هو الحق الذي يثبت الله عليهم ؛ فهم فرّحون لأنفسهم بما آتاهم الله من فضله ، مستبشرون للمؤمنين بأن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون . ذهب إلى هذا المعنى الزجاج وابن فورك .

قوله تعالى : **يَسْتَبِشُونَ بِنِعْمَةِ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيِّعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٧١﴾**

أي بجهة من الله . ويقال : بمغفرة من الله . **﴿وَفَضْلٍ﴾** هذا لزيادة البيان . والفضل داخل في النعمة ، وفيه دليل على اتساعها ، وأنها ليست كنعم الدنيا . وقيل : جاء الفضل بعد النعمة على وجه التأكيد ؛ روى الترمذى عن المقدام بن معدى كرب قال : قال رسول الله ﷺ : (للشهيد عند الله ست خصال - كلها في الترمذى وابن ماجه «بِسْتَ» ، وهي في العدد سبع - يغفر له في أول دفعة ويرى مقعده من الجنة ويعجّر من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر ويوضع على رأسه تاج الرّوارياليقونة منها خير من الدنيا وما فيها ويزوج اثنين وسبعين زوجة من الحور العين ويُشفع في سبعين من أقاربه) قال : هذا حديث حسن صحيح غريب . وهذا تفسير للنعمة والفضل . والآثار في هذا المعنى كثيرة . وروى ٢٧٦ عن مجاهد أنه قال : السيف مفاتيح الجنة . وروى عن رسول الله ﷺ أنه قال : (أكرم الله تعالى الشهداء بخمس كرامات لم يُكرّم بها أحداً من الأنبياء ولا أحداً أن جميع الأنبياء قضى أرواحهم ملّك الموت وهو الذي سيقضى روحى وأما الشهداء فالله هو الذي يقبض أرواحهم بقدرته كيف يشاء ولا يُسلط على أرواحهم ملّك الموت ، والثاني أن جميع الأنبياء قد عُسلوا بعد الموت وأنا أغسل بعد الموت والشهداء لا يُعسلون ولا حاجة لهم إلى ماء الدنيا ، والثالث أن جميع الأنبياء قد كفنا وأنا أكفّن والشهداء لا يُكفنون بل يُدفنون في ثيابهم ، والرابع أن الأنبياء لما ماتوا سُموا أمواتاً وإذا مت

وَرُوِيَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : (أَكْرَمَ اللَّهُ تَعَالَى الشَّهِداءَ بِخَمْسٍ كَرَامَاتٍ لَمْ يُكْرِمْ بِهَا أَحَدًا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَلَا أَنَا أَحَدُهُمْ) أَنَّ جَمِيعَ الْأَنْبِيَاءَ قَبْضَ أَرْوَاحَهُمْ مَلَكُ الْمَوْتَ وَهُوَ الَّذِي سَيَقْبِضُ رُوحِي وَأَمَّا الشَّهِداءُ فَاللَّهُ هُوَ الَّذِي يَقْبِضُ أَرْوَاحَهُمْ بِقُدْرَتِهِ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَا يُسْلِطُ عَلَى أَرْوَاحِهِمْ مَلَكُ الْمَوْتَ ،

(الجامع لاحکام القرآن، تفسیر زیر آیت ال عمران، یکشیدرور و پینگمہ قرآن اللہ۔۔۔، جلد 4 صفحہ 176)

ابو عبد اللہ محمد بن احمد الانصاری القرطبی لکھتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ سے روایت کی گئی ہے کہ آپ نے فرمایا! اللہ تعالیٰ نے شہدا کو پانچ ایسے اعزازات کے ساتھ معزز کیا ہے کہ کسی نبی کو بلکہ مجھ کو بھی ان سے معزز نہیں کیا۔ پہلا اعزاز یہ ہے کہ تمام انبیاء کی ارواح ملک الموت نے قبض کی ہیں اور میری روح بھی وہی قبض کرے گا۔ لیکن شہداء کی ارواح اپنی قدرت سے خود جیسے چاہے قبض کرتا ہے اور ملک الموت کو ان کی روحوں پر مسلط نہیں کرتا۔

Abu Abdullah Muhammad Bin Ahmad Al-Ansari Alqurtabi writes:- It has been narrated that the Holy Prophet, peace and blessings of Allah be upon him, said: Allah the Exalted has honoured the martyrs with five honours that not a single prophet not even me, has been honoured with such honours. The first honour is, that the souls of all the prophets are in the custody of the Angel of death, and he it is who shall seize my soul too, but the soul of the martyrs are seized by Allah Himself with His Divine power as He wishes. He has not given the Angel of death control over their souls.

(Al-Jame' leAhkamil Quran vol 4 page 176)

Abu Abdullah Mohammad bin Ahmad alAnsari alQurtabi sagt: "Der Heilige Prophet^{saw} sagte: 'Allah hat die Märtyrer mit fünf solchen Auszeichnungen versehen, mit denen kein Prophet, nicht einmal ich, versehen worden ist. Die erste (Auszeichnung) ist, dass die Seelen aller Propheten von dem Todesengel in den Himmel geführt werden. Die Seelen der Märtyrer aber werden von Ihm allein geführt, weil Er den Todesengel nicht für Märtyrer bestimmt hat.'" (alJaame' leAhkamil Quran Bd. 4 S. 176)

بِقِسْيَرِ الْقَرْنِ الْعَظِيمِ

للإمام الحليل ، الحافظ عمار الدين ، أبو الفداء
اسماويل بن كثير القرشي الدمشقي
المتوفى ٧٧٤ هـ

لِلْجَزْءِ الْأَوَّلِ

الناشر

المكتبة التوفيقية
أمام المباب الأخضر (سيبلالسين)

سُورَةُ آلِ عُمَرَانَ

— ٣٧٨ —

لهمـا أـعـطـيـتـكـمـ مـنـ كـاـبـ وـحـكـمـ هـمـ جـاءـ كـمـ رـسـوـلـ مـصـدـقـ لـمـ اـعـكـمـ بـهـ وـلـتـنـصـرـنـهـ قـالـ أـقـرـتـمـ وـأـخـذـتـمـ عـلـىـ ذـلـكـ أـصـرـىـ هـ وـقـالـ أـبـنـ عـبـاسـ وـجـاهـدـ وـرـبـيعـ بـنـ أـنـسـ وـقـادـةـ وـالـسـدـىـ يـعـنـيـ عـهـدـىـ .ـ وـقـالـ مـحـمـدـ بـنـ إـسـحـاقـ هـ أـصـرـىـ هـ أـىـ نـقـلـ مـاـ حـلـتـ مـنـ عـهـدـىـ أـىـ مـيـاثـيقـ الشـدـيدـ الـمـؤـكـدـ هـ قـالـ أـفـرـنـاـ ،ـ قـالـ فـاشـهـدـوـاـ وـأـنـاـ مـعـكـمـ مـنـ الشـاهـدـيـنـ فـمـ تـوـلـ بـعـدـ ذـلـكـ هـ أـىـ عـنـ هـذـاـ الـعـهـدـ وـالـمـيـاثـيقـ هـ فـأـوـلـكـ هـمـ الـفـاسـقـونـ هـ .ـ قـالـ عـلـىـ بـنـ أـبـيـ طـالـبـ وـابـنـ عـمـهـ أـبـنـ عـبـاسـ رـضـيـ اللـهـ عـنـهـ مـاـ بـعـثـ اللـهـ نـبـيـاـ مـنـ الـأـنـبـيـاءـ إـلـاـ أـخـذـ عـلـيـهـ الـمـيـاثـيقـ لـشـنـ بـعـثـ اللـهـ مـحـمـداـ وـهـوـ حـيـ لـيـوـمـنـ بـهـ وـلـتـنـصـرـنـهـ ،ـ وـأـمـرـهـ أـنـ يـأـخـذـ الـمـيـاثـيقـ عـلـىـ أـمـتـهـ لـشـنـ بـعـثـ مـحـمـدـ وـهـمـ أـحـيـاءـ لـيـوـمـنـ بـهـ وـلـيـنـصـرـنـهـ .ـ وـقـالـ طـاوـسـ وـالـحـسـنـ الـبـصـرـىـ وـقـادـةـ :ـ أـخـذـ اللـهـ مـيـاثـيقـ الـنـبـيـنـ أـنـ يـصـدـقـ بـعـضـمـ بـعـضـمـ ،ـ وـهـذـاـ لـاـ يـضـادـ مـاـ قـالـ عـلـىـ وـابـنـ عـبـاسـ وـلـاـ يـنـفـيـ بـلـ يـسـتـلـمـ وـيـقـضـيـهـ ،ـ وـهـذـاـ رـوـىـ عـبـدـ الرـزـاقـ عـنـ مـعـرـمـ عـنـ أـبـيـ مـلـىـ قـولـ عـلـىـ وـابـنـ عـبـاسـ .ـ وـقـدـ قـالـ الـإـمـامـ أـحـمـدـ حـدـثـنـاـ عـبـدـ الرـزـاقـ أـبـنـاـ سـفـيـانـ عـنـ جـابـرـ عـنـ الشـعـبـيـ عـنـ عـبـدـ اللـهـ بـنـ ثـابـتـ قـالـ :ـ جـاءـ عـمـرـ إـلـىـ النـبـيـ صـلـىـ اللـهـ عـلـيـهـ وـالـهـ وـسـلـمـ فـقـالـ يـاـ رـسـوـلـ اللـهـ إـنـيـ أـمـرـتـ بـأـخـيـ بـهـوـدـيـ مـنـ قـرـيـظـةـ فـكـبـ لـ جـوـامـعـ مـنـ التـوـرـةـ أـلـاـ أـعـرـضـهـ عـلـيـكـ ؟ـ قـالـ :ـ فـتـغـيـرـ وـجـهـ رـسـوـلـ اللـهـ عـلـيـهـ هـ قـالـ عـبـدـ اللـهـ بـنـ ثـابـتـ قـلـ لـهـ أـلـاـ تـرـىـ مـاـ بـوـجـهـ رـسـوـلـ اللـهـ عـلـيـهـ هـ ؟ـ قـالـ عـمـرـ :ـ رـضـيـتـ بـالـلـهـ رـبـاـ وـبـالـإـسـلـامـ دـيـنـاـ وـبـمـحـمـدـ رـسـوـلـاـ قـالـ :ـ فـسـرـيـ عـنـ النـبـيـ عـلـيـهـ هـ وـقـالـ وـالـذـيـ نـفـسـيـ بـيـدـهـ لـوـ أـصـبـحـ فـيـكـمـ مـوـسـىـ عـلـيـهـ السـلـامـ ثـمـ اـتـعـمـمـهـ وـتـرـكـمـوـنـ لـضـلـلـمـ ،ـ إـنـكـمـ حـظـيـ مـنـ الـأـمـمـ وـأـنـاـ حـظـكـمـ مـنـ الـبـيـنـ هـ (ـ حـدـثـ أـخـرـ)ـ قـالـ الـحـافـظـ أـبـوـ يـعـلـىـ حـدـثـنـاـ إـسـحـاقـ حـدـثـنـاـ حـمـادـ عـنـ الشـعـبـيـ عـنـ جـابـرـ قـالـ :ـ قـالـ رـسـوـلـ اللـهـ عـلـيـهـ هـ لـاـ تـسـأـلـ أـهـلـ الـكـاتـبـ عـنـ شـيـءـ فـإـنـهـ لـنـ يـهـوـدـ كـمـ وـقـدـ ضـلـلـوـ ،ـ وـإـنـكـمـ إـمـاـنـ تـصـدـقـوـ بـيـاطـلـ إـمـاـنـ تـكـذـبـوـ بـحـقـ وـإـنـهـ وـالـلـهـ لـوـ كـانـ مـوـسـىـ حـيـأـنـ أـظـهـرـ كـمـ مـاـ حـلـ لـهـ إـلـاـ أـنـ يـتـبـعـنـ ،ـ وـقـيـ بـعـضـ الـأـحـادـيـثـ هـ لـوـ كـانـ مـوـسـىـ وـعـيـسـىـ حـيـنـ مـاـ وـسـعـهـمـ إـلـاـ تـبـاعـيـ ،ـ فـالـرـسـوـلـ مـحـمـدـ خـاتـمـ الـأـنـبـيـاءـ صـلـوـاتـ اللـهـ وـسـلـامـ عـلـيـهـ دـائـمـاـ إـلـىـ يـوـمـ الدـيـنـ ،ـ وـهـ إـلـيـمـ الـأـعـظـمـ الـذـيـ لـوـ وـجـدـ فـيـ أـيـ عـصـرـ وـجـدـ لـكـانـ هوـ الـوـاجـبـ الـطـاعـةـ الـمـقـدـمـ عـلـىـ الـأـنـبـيـاءـ كـلـهـمـ ،ـ وـهـذـاـ كـانـ إـمـاـمـهـ لـيـلـةـ الـإـسـرـاءـ مـاـ اـجـتـمـعـوـ بـيـتـ الـقـدـسـ :ـ وـكـذـلـكـ هوـ الشـفـيـعـ فـيـ الـحـشـرـ فـيـ إـيـانـ الـرـبـ جـلـ جـلـالـهـ لـفـصـلـ الـقـضـاءـ بـيـنـ عـبـادـهـ وـهـ الـقـامـ الـحـمـودـ الـذـيـ لـاـ يـلـيقـ إـلـاـهـ وـالـذـيـ يـحـيـدـ عـنـهـ أـوـلـوـ الـعـزـ مـنـ الـأـنـبـيـاءـ وـالـمـرـسـلـيـنـ حـتـىـ تـنـتـيـ التـوـبـةـ إـلـيـهـ فـيـكـونـ هـ الـمـخـصـوصـ بـهـ ،ـ صـلـوـاتـ اللـهـ وـسـلـامـ عـلـيـهـ .ـ

أـفـيـرـ دـيـنـ اللـهـ يـتـبـعـنـ وـلـمـ أـسـأـلـ مـنـ فـيـ السـمـوـاتـ وـالـأـرـضـ طـوـعاـ وـكـرـهـاـ إـلـيـهـ بـرـجـعـونـ هـ ٢٢١ قـلـ إـمـاـنـ بـالـلـهـ وـمـاـ أـنـزـلـ عـلـيـنـاـ وـمـاـ أـنـزـلـ عـلـىـ إـبـرـاهـيـمـ وـإـسـمـاعـيلـ لـكـلـ سـمـحـقـ وـيـعـقـوبـ وـالـأـسـبـاطـ وـمـاـ أـوـيـ مـوـسـىـ وـعـيـسـىـ وـيـعـيـسـىـ وـالـنـبـيـيـنـ مـنـ رـبـيـمـ لـأـنـقـرـقـ بـيـنـ أـحـدـ مـنـهـ وـكـنـ لـهـ مـسـلـمـونـ هـ ٤٦٥ وـمـنـ يـلـمـعـ غـيـرـ الـإـسـلـامـ دـيـنـاـ فـلـنـ يـقـبـلـ مـنـهـ وـهـوـ فـيـ الـأـخـرـةـ مـنـ الـخـسـرـيـنـ هـ ٤٦٦

يـقـولـ تـعـالـ مـنـكـرـأـ عـلـىـ مـنـ أـرـادـ دـيـنـاـ سـوـىـ دـيـنـ اللـهـ الـذـيـ أـنـزـلـ بـهـ كـبـهـ وـأـرـسـلـ بـهـ رـسـلـ وـهـ عـبـادـ اللـهـ وـحـدـهـ لـاـ شـرـبـ لـهـ الـذـىـ لـهـ أـسـلـمـ مـنـ فـيـ السـمـوـاتـ وـالـأـرـضـ أـىـ اـسـتـلـمـ لـهـ مـنـ فـيـهـمـ طـوـعاـ وـكـرـهـاـ كـمـ قـالـ تـعـالـ هـوـ اللـهـ يـسـجـدـ مـنـ فـيـ السـمـوـاتـ وـالـأـرـضـ طـوـعاـ وـكـرـهـاـ الـآيـةـ ،ـ وـقـالـ تـعـالـ هـأـوـ لـمـ يـرـواـ إـلـىـ مـاـ خـلـقـ اللـهـ مـنـ شـيـءـ يـتـفـيـرـ ظـلـالـهـ عـنـ الـبـيـنـ وـالـشـمـائـلـ سـجـدـاـ اللـهـ وـهـمـ دـاخـرـوـنـ هـ وـلـهـ يـسـجـدـ مـاـ فـيـ السـمـوـاتـ وـمـاـ فـيـ الـأـرـضـ مـنـ دـاهـيـ وـالـمـلـاـتـكـهـ وـهـمـ لـاـ يـسـتـكـبـرـوـنـ هـ يـخـافـونـ رـبـهـمـ مـنـ فـوـقـهـمـ وـيـفـعـلـونـ مـاـ يـوـمـرـونـ هـ فـالـمـؤـمـنـ مـسـتـسـلـ بـقـلـبـهـ اللـهـ ،ـ وـالـكـافـرـ مـسـتـسـلـ اللـهـ كـرـهـاـ،ـ فـإـنـهـ تـحـتـ السـخـيـرـ وـالـقـهـرـ وـالـسـلـطـانـ الـعـظـيمـ الـذـيـ لـاـ يـخـالـفـ لـاـ يـمـانـ هـ وـقـدـ وـرـدـ حـدـثـ فـيـ تـفـسـيرـ هـذـهـ الـآيـةـ عـلـىـ مـعـنـيـ آخـرـ فـيـ غـرـابـةـ فـقـالـ الـحـافـظـ أـبـوـ القـاسـمـ الطـبـرـانـيـ حـدـثـنـاـ أـحـمـدـ بـنـ النـضـرـ الـعـسـكـرـيـ حـدـثـنـاـ سـعـيـدـ بـنـ حـفـصـ الـنـفـلـيـ حـدـثـنـاـ مـحـمـدـ بـنـ حـصـنـ الـعـكـاشـيـ حـدـثـنـاـ الـأـزـاعـيـ عـنـ عـطـاءـ بـنـ أـبـيـ رـبـاحـ عـنـ النـبـيـ عـلـيـهـ هـ وـلـهـ أـسـلـمـ مـنـ فـيـ السـمـوـاتـ وـالـأـرـضـ طـوـعاـ

لو کان موسیٰ و عیسیٰ حین ما و سعهمما إلا اتباعی

(تفسیر القرآن العظیم، سورہ ال عمران زیر آیتِ إِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِنْ قَوْمٍ مُّنْفَقَاتِ النَّبِيِّنَ۔۔۔، جلد 1 صفحہ 378)

آنحضرت ﷺ نے فرمایا: اگر اس وقت موسیٰ اور عیسیٰ زندہ ہوتے تو انہیں بھی میری اتباع کے بغیر چارہ نہ ہوتا۔

The Holy Prophet^{saw}, peace and blessings of Allah be upon him has said:- If Moses and Jesus were alive, they would have no alternative but to follow me.

(Ibn Kathir: Tafseer ul Quran vol 1 page 378)

Der Heilige Prophet^{saw} sagte: "Wenn Moses und Jesus am Leben wären, hätten sie keine andere Wahl, als mir zu folgen."

(Ibn Kathir: Tafsir ulQuran Bd 1 Seite 378)

فِي ضَلَالِ الْقَرْنَنِ

بِقَلْمَنْ

سَيِّدُ قَطْبٍ

المُجَلَّدُ الرّابع

الأَجْزَاءُ : ١٢ - ١٨

طبعَةٌ جَدِيدَةٌ مَشْرُوعَةٌ

تَتَضَمَّنُ إِضَافَاتٍ وَتَنْقِيَاتٍ تَرَكَهَا الْمُؤْفِفُ
وَتُنَشَّرُ لِلْمَرَّةِ الْأُولَى

مَعَ المَرَاجِعَةِ الشَّامِلَةِ وَالصَّنْوِيبِ الدَّقِيقِ
لِمَا كَانَ فِي الطَّبِيعَةِ الأَصْلِيَّةِ - إِلَيْهِ صُورَتُ عَنْهَا الْطَّبِيعَاتُ غَيْرُ الْمَشْرُوعَةِ -
مِنْ أَخْطَاءِ فِي الْآيَاتِ الْقُرْآنِيَّةِ وَالْتَّفْسِيرِ

دار الشروق

سورة مریم

أبوك امرأسوء ، وما كانت أملك بنياً حتى تأتي بهذه الفعلة التي لا يأتياها إلا بآباء السوء والأمهات البغایا
وتنفذ مریم وصية الطفل العجیب التي لقنتها إياها :

« وأشارت إليه » .. فإذا نقول في العجب والغیظ الذي ساورهم وهم يرون عنرا تواجهم ب طفل
ثم تتبعج فتسخر من يستنكرون فعلتها فتصمت وتشير لهم إلى الطفل ليسالوه عن سرها !
قالوا : كيف نكلم من كان في المهد صبياً ؟ .

ولكنها هي ذي الخارقة العجيبة تقع مرة أخرى :

قال : إني عبد الله ، آتاني الكتاب ، وجعلني مباركاً أينما كنت ، وأوصاني بالصلوة والزكاة
ما دمت حياً ، وبراً بوالدي ولم يجعلني جباراً شقياً ، والسلام على يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حياً .
وهكذا يعلن عيسى - عليه السلام - عبوديته لله . فليس هو ابنه كما تدعى فرقـة . وليس هو إلهـا كما تدعى
فرقـة . وليس هو ثالث ثلاثة هـم إلهـ واحد وهم ثلاثة كما تدعى فرقـة .. ويعـلن أن الله جعلـهـ نبياً ، لا ولـدا
ولا شـريكـاً . وبـارـكـ فيـهـ ، وأوصـاهـ بالـصلـوةـ وـالـزـكـاةـ مـدـةـ حـيـانـهـ . والـبـرـ بـوـالـدـهـ وـالـتـوـاضـعـ مـعـ عـشـيرـتـهـ . فـلـهـ
إذن حـيـاةـ مـحـدـودـةـ ذاتـ أـمـدـ . وـهـوـ يـمـوتـ وـيـبـعـثـ . وـقـدـ قـدـرـ اللـهـ لـهـ السـلـامـ وـالـأـمـانـ وـالـطـمـانـيـةـ يـوـمـ وـلـدـ وـيـوـمـ
يـوـتـ وـيـوـمـ يـبـعـثـ حـيـاً ..

والنص صريح هنا في موت عيسى وبعثه . وهو لا يتحمل تأويلاً في هذه الحقيقة ولا جدالاً .

* * *

ولا يزيد السياق القرآني شيئاً على هذا المشهد . لا يقول : كيف استقبل القوم هذه الخارقة . ولا ماذا
كان بعدها من أمر مریم وابنها العجیب . ولا متى كانت نبوته التي أشار إليها وهيقول :
« آتاني الكتاب وجعلني نبياً » .. ذلك أن حادث ميلاد عيسى هو المقصود في هذا الموضع . فحين يصل به
السياق إلى ذلك المشهد الخارق يسدل الستار ليعقب بالغرض المقصود في أنساب موضع من السياق ، بهجهة
التقرير ، وإيقاع التقرير :

« ذلك عيسى ابن مریم . قول الحق الذي فيه يتركون . ما كان الله أن يتخد من ولد . سبحانه . إذا قضى
أمرـاً فإنـماـ يقولـ لهـ : كـنـ فيـكـونـ . وإنـ اللهـ ربـيـ وربـكمـ فـاعـبـدوـهـ . هـذـاـ صـراـطـ مـسـتـقـيمـ » ..
ذلك عيسى ابن مریم ، لا ما يقوله المؤلفون له أو المتهمون لأمهـ في مولـدهـ .. ذلك هو في حقـيقـتهـ وـذـلـكـ
واقع نـشـائـهـ . ذلك هو يقول قول الحق الذي فيه يـتـرـكـونـ وـيـشـكـونـ . يقولـ لهاـ لـسانـهـ ويـقـولـ لهاـ الحالـ فيـ قـصـتهـ :
ـ ماـ كـانـ للـهـ أـنـ يـتـخـذـ مـنـ وـلـدـ ـ تـعـالـىـ وـتـنـتـهـ فـلـيـسـ مـنـ شـائـعـةـ أـنـ يـتـخـذـ وـلـدـ ـ وـالـوـلـدـ إـنـماـ يـتـخـذـهـ الـفـانـونـ لـلـامـدـادـ ،
ـ وـيـتـخـذـهـ الـضـعـافـ لـلـنـصـرـةـ . وـالـهـ باـقـ لـاـ يـخـشـيـ فـنـاءـ ، قـادـرـ لـاـ يـحـتـاجـ مـعـيـناـ . وـالـكـاتـاتـنـ كـلـهاـ توـجـدـ بـكـلمـةـ كـنـ .
ـ وـإـذـ قـضـىـ أـمـرـاـ إـنـماـ يـقـولـ لهـ : كـنـ فيـكـونـ .. فـاـ يـرـيدـ تـقـيـيـفـهـ يـحـقـقـهـ بـتـوـجـهـ الـإـرـادـةـ لـاـ بـالـوـلـدـ وـالـمـعـنـ .. وـيـتـيـيـ
ـ ماـ يـقـولـهـ عـيسـىـ .. عـلـيـهـ السـلـامـ .. وـيـقـولـهـ حـالـهـ بـإـعـلـانـ رـبـوبـيـةـ اللـهـ لـهـ وـلـلـنـاسـ ، وـدـعـوـتـهـ إـلـىـ عـبـادـةـ اللـهـ الـوـاحـدـ
ـ بـلـ شـرـيكـ : «ـ إـنـ اللـهـ ربـيـ وـرـبـكـمـ فـاعـبـدوـهـ هـذـاـ صـراـطـ مـسـتـقـيمـ » .. فـلـاـ يـقـيـ بـعـدـ شـهـادـةـ عـيسـىـ وـشـهـادـةـ قـصـتهـ
ـ مـجـالـ لـلـأـوـهـامـ وـالـأـسـاطـيرـ .. وـهـذـاـ هـوـ المـقـصـودـ بـذـلـكـ التـعـقـيبـ فـيـ لـغـةـ التـقـرـيرـ وـإـيقـاعـ التـقـرـيرـ .

* * *

والنص صريح هنا في موت عيسى وبعثه . وهو لا يتحمل تأويلاً في هذه الحقيقة ولا جدالاً .

(في ظلال القرآن، زير آيت، سورة مریم، قال ابن عبد الله اتنی الكتاب جلد 4)

سید قطب سورۃ مریم کی حضرت عیینی علیہ السلام سے متعلقہ آیات کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں یہاں نص صریح حضرت عیینی کی موت اور موت کے بعد اٹھایا جانا ہے اور اس حقیقت کیلئے کسی تاویل اور تنازع کا اختال نہیں ہے۔

Commenting upon the verses of Sura Maryam regarding Jesus, peace be upon him, Syed Qutub says:- "The definite explanation advanced here is of Jesus's death and him being raised after death. There is no scope for any other interpretation for unnecessary diatribe.

(Fi Zilal il Quran, Vol: 4, Page:66)

Syed Qutub sagt in seinem Kommentar über die Verse der Sura Maryam in Bezug auf Jesus: "Die hier aufgeführten Verse über den Tod Jesu und seiner Auferstehung nach dem Tode sind eindeutig, so dass es in dieser Frage kein Raum für Interpretation und Streit besteht."

(Fi Silal il Quran Bd:4 Seite:66)

صداقت حضرت مسیح موعود

ہمارے آقا، ہمارے مطاع ہادی برحق حضرت اقدس محمد مصطفیٰ ﷺ نے اپنی امت کے حالات بتاتے ہوئے خبر دی تھی کہ ایک وقت آئے گا جب اس کی دینی حالت اس قدر بگڑ جائے گی کہ ایمان تک باقی نہ رہے گا۔ مسلمان محسن نام کے رہ جائیں گے، قرآن کے الفاظ تو ہوں گے مگر اس پر عمل نہ ہو گا۔ غرضیکہ امت بگڑ کر ایسی شدید گمراہی میں مبتلا ہو جائے گی کہ ظہر الفساد فی الارض والبحر کا نظارہ ہو گا اور وہ وقت ہر لحاظ سے امت کے لئے ہی بہت دردناک وقت ہو گا۔

باوجود اس کے کہ یہ خطرناک اور روحانی اور مادی ادباء و تنزل امت کے اپنے ہی اعمال و کردار کا نتیجہ ہونا تھا، ہمارے آقا کے دل میں امت کے لئے شدید ترپ تھی، بے چین کر دینے والا درد تھا اور مادر مہربان کی طرح گھری شفقت اور رحمت کا جذبہ تھا۔ چنانچہ یہی وجہ تھی کہ آپ نے اس دور حملات میں بھی امت کے لئے امید کی شیع روشن فرمائی اور اُس نور ہدایت کی طرف را ہنمائی کرتے ہوئے فرمایا۔ مکھواں گھٹاٹوپ انڈھیرے میں میرا، ہاں میرا ایک غلام صادق اور عاشق کامل ایک سفید مینارے کے ذریعہ آئے گا اور امت کے لئے ہدایت اور نور کے سامان کرے گا۔ آپ نے اس موعود کا ذکر کرتے ہوئے امت کو یہ تاکیدی نصیحت بھی فرمائی کہ دیکھنا اس کو ضرور قبول کرنا خواہ برف کے تدوں پر سے چل کر اس کے پاس پہنچنا پڑے اور اپنے اس بیمارے کے لئے اپنا سلام بھی امت کے سپرد کیا تھا۔

مگر افسوس کہ جب ہمارے بیمارے نبی ﷺ کا بیمار امہدی ظاہر ہوا تو لوگوں نے اس کو قبول نہ کیا تاہم خدا نے قبول کیا اور بڑے زور آور حملوں سے اس کی سچائی ظاہر فرمائی اور کیا آسمان ہر ایک نے اس کی صداقت کی گواہی دی کیا جن اور کیا انس، حتیٰ کہ دریاؤں، سمندروں، پہاڑوں اور جانوروں تک نے شہادت دی کہ ہاں یہی موعود ہے اور یہی وقت، مہدی معہود کا وقت ظہور ہے۔

آئندہ صفحات میں انہی نشانات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے مگر بزرگان امت کی کتب کے حوالہ سے جنہوں نے حضرت امام مہدی علیہ السلام کی آمد سے بہت پہلے یا متصل پہلے ظاہر ہونے والے ان نشانات کو مختلف انداز میں اپنی تصانیف میں محفوظ کر چھوڑا تھا۔ اور یہ تمام نشانات عین اپنے وقت پر بڑی ہی شان کے ساتھ پورے ہوئے۔ الحمد للہ۔ ثم الحمد للہ۔

Turth of the claim of the Messiah^{as}

There is saying of our Master, our true Guide, the Holy Prophet Hazrat Mohammad (Please be upon him), regarding his Ummah that a time would come when the religious situation would be so deteriorated that there would be no true faith. Muslims will be Muslims by name only, the words of the Quran will be existing but practice would be amiss. The Ummah would be so far misguided, that there would be disorder on earth and on sea and that it would be a critical time for the Ummah.

Despite the fact that this dreadful spiritual and material downfall of this Ummah was going to be consequence of its own deeds, the Holy Prophet (pbuh) had grave concern and agonising restlessness for the Ummah but also great love and affection similar to the love of an affectionate mother. In view of this, The Holy Prophet rekindled hope and light to guide towards that path of righteousness. He also said that at that time of ignorance, his completely obedient servant who truely loved him would come from a White Minaret and guide the Ummah. The Holy Prophet advised the Ummah particularly to believe the Promised Messiah at all cost, even if you have to undertake the journey on your knees over glaciers. The Holy Prophet (pbuh) also asked the Ummah to convey his personal salaam.

But it is a matter of great regret that when that beloved Mahdi of the Holy Prophet appeared, he was refuted by his followers, but was accepted by God and his truthfulness was made manifest by God with full splendour, and as such the earth and heaven, jinn and human being, rivers and seas, mountain and animals all bore witness that he was the Promised One, who appeared according to the need of the time. In the coming pages, the same signs will be mentioned, but with reference to the books of Holy saints of Ummah, who have recorded those signs in various methods, long before or quite near to the advent of Imam Mahdi. All these signs have been fulfilled at their appropriate time.

Wahrhaftigkeit des Verheißenen Messias^{as}

Unser Meister und Führer, der Heilige Prophet Muhammad^{saw} sagte über den Zustand seiner Umma (Gemeinschaft der Muslime) voraus, diese werde einmal so weit vom rechten Weg abkommen, dass sie keine Spur des Glaubens aufweisen würde. Für die Religion werden sie nur Lippenbekennnisse übrig haben; sie werden den Qur-ân besitzen, ihm aber nicht folgen. Die Irrungen und Wirrungen der Umma werden so schlimm sein, dass auf sie das folgende Wort des Qur-ân zutreffen wird: "Verderbnis ist gekommen über Land und Meer." Kurzum, in dieser Zeit wird die Umma in einem erbärmlichen Zustand sein.

Dieser spirituelle und materielle Niedergang sollte eindeutig eine Folge des eigenen Fehlverhaltens sein. Doch das Herz des Heiligen Propheten^{saw} schlug so sehr für seine Umma, dass er angesichts der bevorstehenden Schwierigkeiten für seine Gläubigen keinen Augenblick Ruhe fand und tiefen Schmerz erduldete; diese Liebe war nicht geringer als die Zuneigung einer fürsorglichen Mutter gegenüber ihrem Kind. Aus diesem Grunde sagte er ebenfalls voraus, dass es in jener krisenhaften Zeit auch einen Hoffnungsschimmer für den Islam geben würde. Auf diese Lichtquelle hinweisend, gab er den Gläubigen bekannt, dass ein wahrer Diener und vollkommener Anhänger des Propheten über ein weißes Minarett kommen und für Leitung der Umma sorgen würde. Über diesen Verheißenen ermahnte der Prophet seine Anhänger eindringlich, ihm Gehorsam und Gefolgschaft zu leisten, gleich, was es auch kosten möge. Ferner wies der Heilige Prophet seine Umma an, diesem Verheißenen seine Grüße zu übermitteln.

Doch leider kam es anders. Als der geliebte Mahdi des Heiligen Propheten^{saw} erschien, lehnten die Menschen es ab, an ihn zu glauben. Doch Gott nahm ihn an und bewies mit majestätischen Manifestationen die Wahrhaftigkeit jenes Mahdis. Himmel und Erde bestätigten seine göttliche Sendung. Nicht nur Menschen, sondern auch Flüsse, Meere, Berge und Tiere bezeugten einstimmig: Ja, das ist der Messias, und es ist an der Zeit, dass der Verheiße Messias erscheint.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبُتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذْهِبُوهُمْ بِخَضَقِ الَّذِي عَمِلُوا لَهُنَّ لَكُلُّهُمْ يَرْجِحُونَ^①
 (الرّوم: 42)

(اس زمانہ میں) خشکی اور تری میں لوگوں کے کاموں کی وجہ سے فساد نمایاں ہو گیا ہے جس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ خدا تعالیٰ لوگوں کو ان کے عملوں کے کچھ حصہ کی سزا (اس دنیا میں) دیگا۔ تاکہ وہ (ابنی نافرمانی سے) لوث آئیں۔

Sura 30:42 Corruption has appeared on land and sea because of what men's hands have wrought, that He may make them taste the fruit of some of their doings, so that they may turn back from evil.

Sura 30:42 Verderbnis ist gekommen über Land und Meer um dessentwillen, was die Hände der Menschen gewirkt, auf dass Er sie kosten lasse die (Früchte) so mancher ihrer Handlungen, damit sie umkehren.

مِسْكَانُ الْمُصْنَعِ

تألیف

محمد بن عبد الله الخطيب التبرزي

بِتَحْقِيقِ

محمد ناصر الدين الألباني

الجزء الأول

المكتب الإسلامي

الحدث (٢٧٩)

٣ - كتاب العلم

٢٧٦ - (٧٩) وعن علي ، قال : قال رسول الله ﷺ : « يو شكُ أَنْ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَى مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَّا سَهُ ، وَلَا يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسَهُ ، مَسَاجِدُهُمْ عَاصِرَةٌ وَهِيَ خَرَابٌ مِنَ الْمُهْدَى ، عُلَمَاؤُهُمْ شَرٌّ مِنْ تَحْتِ أَدْمَمِ السَّمَاءِ ، مِنْ عِنْدِهِمْ تَخْرُجُ الْفِتْنَةُ ، وَفِيهِمْ تَعْوِذُ ». رواه البيهقي في « شعب اليمان » ^(١) .

٢٧٧ - (٨٠) وعن زياد بن أبي عبد الله ، قال : ذكر النبي ﷺ شيئاً ، فقال : « ذاك عند أوان ذهاب العلم ». قلت : يا رسول الله ! وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا ، ويقرؤه أبناء أبناءهم إلى يوم القيمة ؟ فقال : « نكلنتك أمك زياد ! إنْ كَنْتُ لَا رَأَكَ مِنْ أَفْقَهَ رَجُلٍ بِالْمَدِينَةِ ! أَوْ لَيْسَ هَذِهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى يَقْرُؤُونَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ لَا يَعْلَمُونَ بِشَيْءٍ مِمّْا فِيهِما ! ». رواه أحمد ، وابن ماجه ^(٢) ، وروى الترمذى عنه نحوه .

٢٧٨ - (٨١) وكذا الدارمي عن أبي أمامة ^(٣) .

٢٧٩ - (٨٢) وعن ابن مسعود ، قال : قال لي رسول الله ﷺ : « تَعَلَّمُوا الْعَالَمَ وَعَلَّمُوهُ النَّاسَ ، تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلَّمُوهَا النَّاسُ ، تَعْلَمُوا الْقُرْآنَ وَعَلَّمُوهُ النَّاسَ ؛ فَإِنِّي أَسْرُئُ مَقْبُوضًا ، وَالْعِلْمُ سَيْنَقَبَضٌ ، وَتَظَهَرُ الْفِتْنَةُ حَتَّى يَخْتَلِفَ اَلنَّاسُ فِي

(١) رواه ابن عدي في « الكامل » (ف ٢٤٢) . وأبو عمرو الداني في « السنن الواردۃ في الفتن » (١/١٢) عن علي موقوفاً عليه ، وفيه بشر بن الوليد الفاضي وفيه ضعف ، وكان قد شاخ وخرف .

(٢) وجال إسنادها ثقات ، ولكنه منقطع ، لكن له شاهدان تقدم الكلام عليهما برق (٤٥)

(٣) في سننه (٢٧/١) ورجاله ثقات ، لكن الطجاج وهو ابن أورطاة مدليس وقد عنده . رواه ابن ماجه (رقم ٢٢٨) من طریق أخرى وافية مختصرة . ولم أجده عند الترمذى عن زياد بن عبد الله ، وإنما رواه عن أبي الدرداء كما تقدم .

قال : قال رسول الله ﷺ : « يوْ شِيكُ أَنْ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَى مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَّا إِسْمُهُ ، وَلَا يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُهُ ، مَسَاجِدُهُمْ عَاصِرَةٌ وَهِيَ خَرَابٌ مِنَ الْمُهْدَى ، عُلَمَاءُهُمْ شَرٌّ مَنْ تَحْتَ أَدِيمِ السَّمَاوَاتِ ، مِنْ عِنْدِهِمْ تَخْرُجُ الْفِتْنَةُ ، وَفِيهِمْ تَعْوِدُ » .

(مشكواة المصايبخ، فصل الثالث، كتاب العلم، جلد 1 صفحه 91)

آنحضرت ﷺ نے فرمایا:- لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا جب اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا اور قرآن کے صرف الفاظ باقی رہ جائیں گے۔ ان کی مسجدیں ظاہر میں تو آباد ہو گی لیکن ہدایت کے لحاظ سے بالکل ویران ہو گی۔ اس زمانہ کے لوگوں کے علماء آسمان کے یچھے بدترین مخلوق ہوں گے۔ انہی میں سے فتنے نکلیں گے اور انہی میں واپس جائیں گے۔

The Holy Prophet, peace and blessings of Allah be upon him said:- A time will come when nothing would be left of Islam except its name, and nothing would be left of the Quran except its script, their mosques would be full of worshipers but would be devoid of righteousness . Their Ulama - religious scholars would be the worst of creatures under the canopy of the heavens. Evil plots will hatch from them and to them will they return.

(Mishkat ul Masabih vol. 1, page 91)

Der Heilige Prophet^{saw} sagte: "Eine Zeit wird kommen, wenn vom Islam nichts anderes mehr übrigbleiben wird, als sein Name, und vom Heiligen Qurân nichts übrigbleiben wird, als seine Schrift. Die Moscheen werden voll von Betenden sein; die Rechtschaffenheit jedoch wird sich verflüchtigt haben. Ihre Ulema (Religionsgelehrte) werden die schlimmsten Kreaturen unter dem Firmament des Himmels sein. Üble Verschwörungen werden von ihnen ausgehen; und zu ihnen werden sie zurückkehren.

(Mishkat ul Masabih Bd. 1, seite 91)

الْبَاجِيَّةُ الصَّحَّاحُ

م

سُنْنَةِ التَّمِيزِ الْجَلِيلِ

لَا بِنْ عِيسَى مُحَمَّدٌ بْنُ عِيسَى بْنُ سَوْرَةَ

TV9 - T-9

مَنْ كَانَ فِي بَيْتِهِ
مَذَلَّا لِلْجَنَابِ فَكَانَتْ
فِي بَيْتِنِي يَسِّرَكُمْ

بِحَقِّيْنِيْ كَبِيرِيْ

الخاص العربي

الجزء الخامس

مَدِينَةُ الْعِلْمِ

بیروت - لبنان

٤١ - كتاب الإيمان باب (١٨) حدث (٢٦٤١ و ٢٦٤٢ و ٢٦٤٣)

وَفِي الْبَابِ عَنْ سَعِيدٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو وَعَوْفِ بْنِ مَالِكٍ.

قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثُ حَسَنٍ صَحِيحٌ .

٢٦٤١ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ عَيْلَانَ . حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدُ الْحَفْرِيُّ عَنْ سُفيَانَ الثُّورِيِّ

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادِ الْأَفْرِيقيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيَاتِينَ عَلَى أُمَّتِي مَا أَتَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذَّرُوا النَّعْلَ بِالنَّعْلِ ، حَتَّى إِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ أَتَى أُمَّةً عَلَيْهَا لَكَانَ فِي أُمَّتِي مَنْ يَصْنَعُ ذَلِكَ ، وَإِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى شَتَّى نَصْبَيْنَ وَسَبْعِينَ مِلْهَةً ، وَتَفَرَّقَ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثَ وَسَبْعِينَ مِلْهَةً ، كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلْهَةً وَاحِدَةً ، قَالُوا : وَمَنْ هِيَ يَا رَسُولُ اللَّهِ قَالَ : مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثُ مُقْسَرٍ غَرِيبٍ لَا نَعْرِفُهُ مِثْلَ هَذَا إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ .

٢٦٤٢ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرْفَةَ . حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشَ عَنْ يَحْيَى بْنِ

أَبِي عَمْرِو السَّيَّانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الدَّيْلِمِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ خَلَقَهُ فِي ظُلْمَةٍ ، فَأَلْقَى عَلَيْهِمْ مِنْ نُورٍ ، فَمِنْ أَصَابَهُ مِنْ ذَلِكَ النُّورِ أَهْتَدَى ، وَمِنْ أَخْطَأَهُ ضَلَّ ، فَلِذَلِكَ أَقُولُ : جَفَّ الْقَلْمَنْ عَلَى عِلْمِ اللَّهِ .

قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثُ حَسَنٍ .

٢٦٤٣ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ عَيْلَانَ . حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدُ . حَدَّثَنَا سُفيَانُ عَنْ أَبِي

٢٦٤٣ - (البخاري) الجهاد والسير: باب اسم الفرس والحمار، (مسلم) الإيمان: باب الذليل على أنَّ مَنْ ماتَ عَلَى التَّوْحِيدِ دَخَلَ الْجَنَّةَ قَطْعًا .

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أُتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذَوْ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ ، حَتَّىٰ إِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ أَتَىٰ أُمَّةً عَلَيْهِ لَكَانَ فِي أُمَّتِي مَنْ يَصْنَعُ ذَلِكَ، وَإِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقُتْ عَلَىٰ ثَتَّنِينَ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، وَتَفَرَّقُ أُمَّتِي عَلَىٰ ثَلَاثَ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةُ وَاحِدَةٍ، قَالُوا : وَمَنْ هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي .

(جامع ترمذی، کتاب الایمان، باب ۱۸، جلد ۵، صفحہ ۲۶)

آنحضرت ﷺ نے فرمایا:- البتہ ضرور آئے گا میری امت پر وہ زمانہ جیسا کہ بنی اسرائیل پر آیا تھا یہ ان کے قدم پقدم چلیں گے یہاں تک کہ اگر کسی اسرائیلی نے اعلانیہ اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کی ہو گی تو میری امت میں سے بھی ضرور کوئی ایسا ہو گا جو یہ کریگا۔ اور بنی اسرائیل کے بہتر فرقے ہو گئے تھے اور میری امت کے تہتر فرقے ہو جائیں گے۔ سوائے ایک کے باقی سب جہنمی ہوں گے۔ صحابہؓ نے عرض کی کہ وہ نجات یافتہ کون ہو گے تو رسول کریم ﷺ نے فرمایا! وہ جو اس طریق پر ہو گا جو میرا اور میرے صحابہؓ کا طریق ہے۔

The Holy Prophet, peace and blessings of Allah be upon him said:- Surely things will happen to my people as happened earlier to the Israelites. They will resemble each other like one shoe in a pair resembles the other - to the extent that if anyone among the Israelites had openly committed adultery with his mother, there would be someone who would do this in my Ummah. Verily, the Israelites were divided into 72 sects, but my people will be divided into 73 sects. All of them will be in the Fire except one. 'The Companions asked,' Who are they; O Messenger of Allah.' The Holy Prophet, peace and blessings of Allah be upon him, said, 'They are the people who adopt my practice and that of my companions.

(Al-Jame Tirmizi, Kitab ul Iman chapter 18; vol 5 page 26)

Der Heilige Prophet^{saw} sagte: "Gewisslich werden meiner Umma (Gefolgschaft) Dinge passieren, die früher schon den Israeliten geschehen sind. Sie werden so einander gleichen, wie in einem Paar Schuhe der eine dem anderen gleicht. Das wird so weit gehen, dass, wenn irgendeiner unter den Israeliten in aller Öffentlichkeit Unzucht mit seiner Mutter beging, es einige innerhalb meiner Ummah genauso tun werden. Die Israeliten waren in 72 Gruppierungen gespalten, doch wird meine Ummah in 73 Gruppierungen gespalten sein. Alle von ihnen werden im Feuer sein, außer einer einzigen". Darauf fragten ihn seine Gefährten: "O Gesandter Allahs, wer

sind diese?" Der Heilige Prophet^{saw} antwortete: "Sie werden die Leute sein, die meinem Brauch folgen werden und dem meiner Gefährten."

(Al-Dshame Tirmisi, Kitab ul Iman Kapitel 18; Bd 5 Seite 26)

فَإِذَا بَرَقَ الْبَصَرُ ۚ وَخَسَقَ الْقَمَرُ ۖ وَجُبِّعَ السَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۚ (القیمة : 8-10)
سوجب نظر پھر اجائے گی۔ اور چاند کو خوف لگے گا۔ اور سورج اور چاند دونوں کو جمع کر دیا جائے گا۔

Sura 75:8-10 When the eye is dazzled, And the moon is eclipsed, And the sun and the moon are brought together.

Sura 75:8-10 Wenn das Auge geblendet ist, Und der Mond sich verfinstert, Und die Sonne und der Mond vereinigt werden.

١- سنن الدارقطني

تأليف شيخ الإسلام حافظ محمد بن الفرزق على الدين ومحفوظ علام حافظ

الإمام الكبير على بن عمر الدارقطني

المولود سنة ٣٠٦ والمتوفى سنة ٢٨٥ هجرية

الجزء الأول

عني بصححه وتنسيقه ورقيمته تحقيق محب السنة النبوية وخدامها

السيد عبد رحاشم يانى المدنى

بالمدينة المنورة - الحجاز

١٩٦٦ - ١٣٨٦

دبلبل

٢- التعاليم المعنية على الدارقطني

تأليف المحدث العلامة

أبي الطيب محمد بن الحسن العظيم بازى

دار المحاشر للطاعة
٤٤٣ شارع الحجيج - القاهرة

— ٩٥ —

دينار الطاحى عن يونس عن الحسن ، عن أبي بكرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إن الله عز وجل إذا تجلى شيء من خلقه خشى له » ، تابعه نوح بن قيس عن يونس ابن عبيد .

١٠ - حدثنا أبو سعيد الأنصطخري ثنا محمد بن عبد الله بن نوفل ثنا عبيد بن يعيش ، ثنا يونس بن بكيه عن عمرو^(٧) بن شمر عن جابر ، عن محمد بن علي قال : إن لمهدينا آيتين لم تكونا منذ خلق السماوات والأرض ، تكشف القمر لاول ليلة من رمضان ، وتتكشف الشمس في النصف منه ، ولم تكونا منذ خلق الله السماوات والأرض .

١١ - حدثنا ابن أبي داود ثنا أبُو حمْدَةَ الْمَالِكِيُّ ثنا صالح ومحمد بن سلمة قالا نا ابن وهب ، عن عمرو ابن الحارث أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه ، عن عبد الله^(٨) بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «إن الشمس والقمر آيات من آيات الله لا ينسفان لموت أحد ولا لحياته ، ولكنما آيات من آيات الله ، فإذا رأيتموها فصلوا » .

الأخيرة أعني : ولكن الله إذا تجلى شيء ألح وإنما في سن النسائي من حديث قبيصة الملالي ومن حديث العenan بن بشير ولعله : إن الله عز وجل إذا بدا شيء من خلقه خشى له ، وقد أطال الحافظ ابن القيم الكلام في معنى هذه الزيادة في كتابه مفتاح دار السعادة بما لا مزيد عليه . قوله : عمرو^(٧) بن شمر عن جابر ، كلها ضعيفان لا يصح بهما . قوله : عن عبدالله^(٨) ابن عمر ، الحديث أخرجه الشيخان ، وأعلم أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكسوف والكسوف في كل ركعة برکوع ، وفي كل ركعة رکوعان ، وفي كل ركعة ثلاث رکوعات ، وأربع رکوعات ، وخمسة رکوعات . قال الحافظ في فتح الباري : وجمع بعضهم بين هذه الأحاديث بتعدد الواقعه ، وأن الكسوف وقع مراراً فيكون كل من هذه الأوجه جائزأ ، وإلى ذلك ذهب إسحاق بن راهويه ، لكن لم يثبت عنده الزيادة على أربع رکوعات ، وقال ابن خزيمة وابن المنذر والخطابي وغيرهم : يجوز العمل بجميع ما ثبت من ذلك ، وهو من الاختلاف المباح ، وقواه التروي في شرح مسلم . والله أعلم .

(م ج ٢ - سن الدارقطني)

قال : إن لمهدينا آيتين لم ت تكونا منذ خلق السماوات والأرض ، تكسف القمر لاول ليلة من رمضان ، وتكسف الشمس في النصف منه ، ولم تكونا منذ خلق الله السماوات والأرض .

(سنن دارقطني، جلد 1، باب صلوات الکسوف والخسوف، صفحہ 65)

فرمایا! ”ہمارے مہدی کے لئے دو نشان مقرر ہیں اور جب سے آسمان اور زمین پیدا ہوئے ہیں۔ یہ نشان کسی اور مامور کے حق میں ظاہر نہیں ہوئے ان میں سے ایک یہ ہے کہ مہدی موعود کے زمانہ میں رمضان میں چاند کو (اس کی مقررہ راتوں میں سے) اول رات کو گر ہن لگے گا اور سورج کو (اس کے مقررہ دنوں میں سے) درمیان (کے دن) میں گر ہن لگے گا اور یہ ایسے نشان ہیں کہ جب سے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا کبھی کسی مامور کیلئے ظاہر نہیں ہوئے۔“

The Messenger of Allah, peace and blessings of Allah be upon him, said:- "The truth of our Mahdi will be attested by two signs which have never appeared in support of any other claimant since the beginning of the world. These are that in the month of Ramadhan the moon will be eclipsed during the first of the nights during which it is subjected to an eclipse and the sun will be eclipsed on the middle one of the days which it is subject to an eclipse and these signs have never appeared in support of any other claimant since the creation of the Universe.

(Sunan Dar Qutni, vol. 1, page 65)

Der Heilige Prophet Mohammad^{saw} sagte: "Für unseren Mahdi wird es zwei Zeichen geben, die seit der Schöpfung der Himmel und Erde niemals erschienen sind, nämlich, dass sich der Mond im Ramadhan in der ersten Nacht (von den Nächten, in denen eine Mondfinsternis möglich ist) verfinstert, und die Sonne sich im gleichen Ramadhan am mittleren Tag (von den Tagen, an denen eine Sonnenfinsternis möglich ist) verfinstert; und diese Zeichen sind, seit Allah die Himmel und die Erde erschaffen hat, nie erschienen."

(Sunan Dar Qutni, Bd. 1, Seite 65)

المجلد الأول من

كتاب

مجموعة فتاوى شيخ الاسلام تقي الدين

ابن تيمية الحراني المتوفى سنة 728

طبع بمعونة صاحب المهمة العلية * والسيرة المرضية * (حضره
الفاضل الشيخ فرج الله زكي الكردي الازهري)

وذلك بطبعته بمطبعة كردستان العلية * بذرب المسط

بملك سعادة المفضل أمحمد بك الحسيني بجمالية

مصر القاهرة سنة ١٣٦٦ هجرية

١٣٦٧

تنبيه

كل من أراد هذا الكتاب * واعلام الموقعين * ومسنون الغزالى * وشرح نحر الاصول *
وكشف الاسرار * وشرح التائجىص * وشرح تهذيب الكلام * وشرح منظومى
الكواكبى * وحواشى شرح الشميسية ومن مسلم البوىتم المهاج والمحتر .
وغيرها يطلبها من ماتلزم طبعها (فرج الله زكي الكردى بصر)

قال تعالى (وكذلك اوحينا اليك روحًا من امرنا ما لنت بدرى ما الملة ولا الايمان ولكن جعلناه نوراً نهدي به من نشاء من عبادنا) وبحوز القراءة في الصلاة وخارجها بالقراءات النابية المأوقة لرسم المصحف كما ثبتت هذه القراءات ولديست شاذة حينئذ والله أعلم

(٢٣٢) مسألة في قول أهل التقاويم في إن الرابع عشر من هذا الشهر ينكسف القمر . وفي التاسع والعشرين تكسف الشمس فهل يصدقون في ذلك واذا خسفا هل يصلى لها أم يسبح واذا صلى كيف صفة الصلاة ويدرك لنا أقوال الملة في ذلك

* الجواب * الحمد لله * الخسوف والكسوف لهما أوقات مقدرة كالاطلوع الم合法 وقت مقدر وذلك مما أجري الله عادته بالليل والنهار والشتاء والصيف وسائر ما يتبع جريان الشمس والقمر وملك من آيات الله تعالى كما قال تعالى (وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون) وقال تعالى (هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق) وقال تعالى (والشمس والقمر بحسبان وقال تعالى فلت الاصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسانا ذلك تقدير العزيز العليم) (وقال تعالى يسألونك عن الاهلة قل هي موافقة للناس والنجف) وقال تعالى (ان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرافي كتاب الله يوم خلق السموات والارض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم) (وقال تعالى وآية لهم الليل نسخ منه النهار فاذهم مظلومون والشمس تجري لستقر لها ذلك تقدير الفرزدق العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالمرجون القديم لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في ذلك يسبحون) وكما ان العادة التي اجرها الله تعالى ان الملال لا يستهل الا ليلة ثلاثة من الشهر او ليلة احدى وثلاثين وان الشهر لا يكون الا ملايين او تسعه وعشرين فلن ظن ان الشهر يكون أكثر من ذلك او أقل فهو غالط وكذلك اجرى الله العادة ان الشمس لا تكسف الا وقت الاستسراير وان القمر لا ينكسف الا وقت الابدال ووقت ابداله هي الليالي البيضاء التي يستحب صيام أيامها ليلة الثالث عشر والرابع عشر و الخامسة عشر فالقمر لا ينكسف الا في هذه الليالي والم合法 يستسر آخر الشهر اماليلا واما ليتين كما يستمر ليلة تسع وعشرين وثلاثين . والشمس لا تكسف الا وقت استسرايره وللشمس

فَكَذَلِكَ أَجْرِي

الله العاده ان الشمس لا تخف الا وقت الاسترار وان القمر لا يخف الا وقت الابدار
وقت ابداره هي الليالي البيض التي يستحب صيام أيامها ليلة الثالث عشر والرابع عشر
والخامس عشر فالقمر لا يخف الا في هذه الليالي

(كتاب، مجموع فتاوى شيخ الاسلام تقى الدين، باب خف القمر، جلد 1)

پس اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنا قانون جاری کر رکھا ہے کہ سورج کو صرف تاریک راتوں میں ہی گرہن لگتا ہے اور چاند کو چاندنی راتوں میں ہی گرہن لگتا ہے اور یہ راتیں وہ ہیں جن میں چاند مکمل ہوتا ہے اور جن کے ایام میں روزے رکھنا مستحب ہے اور یہ تیرھویں، چودھویں اور پندرھویں رات ہے۔ پس چاند کو صرف انہی راتوں میں گرہن لگتا ہے۔

Thus Allah has decreed that the sun is eclipsed only in dark nights, and the moon is eclipsed only in moonlight nights. These are the nights when the moon is full, and during which days the keeping of optional fasts is preferable. These nights are the thirteenth, fourteenth and fifteenth. Hence, the moon is eclipsed only on these nights.

(Fatawa Sheikh ulIslam Taqi ud Din, chapter Khasuf ul Qamar, vol. 1)

So also hat Allah entschieden, dass die Sonne sich nur in den dunklen Nächten (in denen der Mond nicht sichtbar ist) verfinstert, und der Mond nur in den hellen Nächten. Das sind die Nächte, in denen der Mond voll ist, und in denen das freiwillige Fasten bevorzugt wird. Diese sind der 13., 14. und 15. des Ramadans. Der Mond verfinstert sich nur in diesen Nächten.

(Fatawa Sheikh ul Islam Taqi ud Din, Kapitel Khassuf ul Qamar, Bd. 1)

3

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُقْبَابِ رَسُولًا مِنْهُمْ يَشْرُكُوا عَبَائِيهِمْ إِلَيْهِ وَيُرَدُّ كُلَّ يَوْمٍ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ
كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي صَلِّي مُبِينٍ ۝ وَالْأَخَرَيْنَ مِنْهُمْ لَكَا يُلْخَقُوا بِهِمْ ۝ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝ (الجمعية: 4-3)

وہی خدا ہے، جس نے ایک آن پڑھ قوم کی طرف انہی میں سے ایک شخص کو رسول بنانے کا بھیجا جو ان کو خدا کے احکام سناتا ہے، اور ان کو پاک کرتا ہے، اور ان کو کتاب اور حکمت سکھاتا ہے۔ گوہ اس سے پہلے بڑی بھول میں تھے۔ اور ان کے سوا ایک دوسرا قوم میں بھی (وہ اسے بھیجے گا) جو ان سے ملی نہیں اور وہ غالباً (اور) حکمت والا ہے۔

Sura 62:3-4 He it is Who has raised among the Unlettered people a Messenger from among themselves who recites unto them His Signs, and purifies them, and teaches them the Book and wisdom, although they had been, before, in manifest misguidance; And among others from among them who have not yet joined them. He is the Mighty, the Wise.

Sura 62:3-4 Er ist es, Der unter den Analphabeten einen Gesandten erweckt hat aus ihrer Mitte, ihnen Seine Zeichen vorzutragen und sie zu reinigen und sie die Schrift und die Weisheit zu lehren, wiewohl sie zuvor in offenkundigem Irrtum gewesen waren, Und unter den anderen von ihnen, die sich ihnen noch nicht zugesellt haben. Er ist der Allmächtige, der Allweise.

صَحْقُ الْبَخَارِيِّ

تألِيف

الإِمامُ الْحَافِظُ أَبِي عَدْلَةِ اللَّهِ مَحَمْدُ بْنِ سَعْدِ الْبَخَارِيِّ
الْمُتَوفِّيَ سَنَةُ ٤٥٦ هـ

مراجعة وضبط وفهمة

الشيخ محمد علي القطب الشيخ هشام البخاري

الجزء الثالث

المكتبة العظيمة
كتاب الفتن

كتيبة بيروت

1560

صحیح البخاری

١٥٦٠

وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ: ﴿مَرْضُوشٌ﴾^(١): مُلْصَقٌ بَعْضُهُ بِعْضٌ، وَقَالَ غَيْرُهُ: بِالرَّصَاصِ.

١ - بَابٌ : قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿مِنْ بَعْدِ أَمْمِهِ أَحَدٌ﴾^(٢).

٤٨٩٦ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانُ: أَخْبَرَنَا شَعِيبٌ، عَنِ الرُّهْبَرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرٍ أَبْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَيَعْتُ رَسُولُ اللَّهِ يَقُولُ: «إِنَّ لِي أَسْمَاءً: أَنَا مُحَمَّدٌ، وَأَنَا أَحْمَدٌ، وَأَنَا النَّاجِي الَّذِي يَمْهُو اللَّهُ بِي الْكُفَّرُ، وَأَنَا الْحَاثِرُ الَّذِي يُحَشِّرُ النَّاسَ عَلَى قَدَمِي، وَأَنَا الْعَاقِبُ».

٦٢ - بَابٌ : تَفْسِيرُ سُورَةِ الْجُمُعَةِ.

١ - بَابٌ : قَوْلُهُ: ﴿وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْهُم﴾^(٣).

وَقَرَأَ عُمَرُ: فَامْضُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ.

٤٨٩٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بَلَالٍ، عَنْ نُورِ، عَنْ أَبِي الْغَيْثِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ يَقُولُ فَأَنْزَلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْجُمُعَةِ: ﴿وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْهُم﴾. قَالَ: فُلِتْ: مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَلَمْ يُرَاجِعْهُ حَتَّى سَأَلَ ثَلَاثًا، وَفِينَا سَلْمَانُ الْفَارَسِيُّ، وَضَعَرُ رَسُولُ اللَّهِ يَدْهُ عَلَى سَلْمَانَ، ثُمَّ قَالَ: «لَوْ كَانَ الإِيمَانُ عِنْدَ الْتُّرْكِيَّا، لَنَاهُ رِجَالٌ، أَوْ رَجُلٌ، مِنْ هُؤُلَاءِ».

٤٨٩٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَابِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ: أَخْبَرَنِي نُورُ، عَنْ أَبِي الْغَيْثِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ يَقُولُ: «لَنَاهُ رِجَالٌ مِنْ هُؤُلَاءِ».

٢ - بَابٌ : ﴿وَإِذَا رَأَوْاْ تَحْكَرَةً أَوْ هَفْوًا﴾^(٤).

٤٨٩٩ - حَدَّثَنِي حَفْصُ بْنُ عُمَرَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثَنَا حُصَيْنُ، عَنْ

(١) سورة الجمعة: الآية ٣

(٢) سورة الجمعة: الآية ١١

(٣) سورة الصاف: الآية ٤

(٤) سورة الصاف: الآية ٦

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَأَنْزَلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْجُمُعَةِ: ﴿وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ﴾. قَالَ: قُلْتُ: مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَلَمْ يُرَاجِعْهُ حَتَّى سَأَلَ ثَلَاثًا، وَفِيهَا سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ، وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَهُ عَلَى سَلْمَانَ، ثُمَّ قَالَ: «لَوْ كَانَ إِلِيمَانٌ عِنْدَ الشَّرِيكَيْنِ، لَنَالَهُ رَجَلٌ، أَوْ رَجُلٌ، مِنْ هُولَاءِ».

(صحیح بخاری، باب تفسیر القرآن زیر آیت و آخرین منہم کما یلحوظ یہم۔۔۔ جلد 3، صفحہ 1560)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ ہم آنحضرت ﷺ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ آنحضرت ﷺ پر سورۃ جمعہ نازل ہوئی جس میں یہ آیت بھی تھی وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ۔ حضور ﷺ سے دریافت کیا گیا کہ یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں جن کا اس آیت میں ذکر ہے۔ آنحضور ﷺ نے اس سوال کا کوئی جواب نہ دیا۔ حتیٰ کہ حضور ﷺ سے تین دفعہ پوچھا گیا۔ اسی مجلس میں سلمان فارسیؓ بھی بیٹھے تھے۔ آنحضرت ﷺ نے اپنا ہاتھ حضرت سلمان فارسیؓ پر رکھ کر فرمایا! کہ اگر ایمان شریا کے پاس بھی ہو گا تو ان (اہل فارس) میں سے ایک شخص یا ایک سے زیادہ اشخاص اس کو پالیں گے۔

Hazrat Abu Hurairah, Allah be pleased with him, narrates:- "When Sura Juma'a a chapter 62 of the Holy Quran was revealed to the Holy Prophet, peace and blessings of Allah be upon him, we happened to be there in his company. When he recited the verse 'others from among them and have not yet joined them.' Someone asked, 'Who are they' O Messenger of Allah, The Holy Prophet, peace and blessings of Allah be upon him, did not pay attention. The man repeated the question two or three times. At that time Salman the Persian was also sitting among us. The Holy Prophet, peace and blessings of Allah be upon him, placed his hand on him and said, 'Even if faith ascended to the pleiades completely disappearing from the earth, there would be someone from his people; In another version 'one man' is mentioned instead of 'some people' -who would restore faith back to earth.'

(Bukhari, Tafseer ul Quran, vol 3 page 1560)

Hazrat Abu Hurairah^{ra} sagte: "Wir waren anwesend, als die Sura Dschuma (das 62. Kapitel des Heiligen Qurân) dem Heiligen Propheten^{saw} offenbart wurde. Die Sura enthält auch den Vers: wa acharina minhum lamma yalhaqu bihim (Jene, die später kommen, die sich ihnen noch nicht zugesellt haben). Einer fragte: "O Gesandter Allahs, wer sind diese Leute?" Der Heilige Prophet (Friede und Segen Allahs seien auf ihm) ignorierte diese Frage. Der Mann wiederholte seine Frage drei Mal. Zu dieser Zeit war auch Salman von Persien unter uns. Der Heilige Prophet^{saw} legte seine Hand auf ihn und sagte: "Selbst wenn der Glaube aus der Welt vollkommen

verschwände, würde es einen (oder einige) von seinen Leuten (d.h. persischer Abstammung) geben, die den Glauben auf der Erde wiederherstellen werden."

(Buchari, Tafseer ul Quran, vol 3 page 1560)

سَرِّيْنَتْ الْجَزْرِيْكَارِيْنَ

الإمام الحافظ المصنف المتقن أبي داود سليمان
ابن الأشعث السجستاني الأزدي

-٢٧٥ - ٢٠٢

الجزء الرابع

وَالرُّلُّهُرِينَ

القَاهِرَةُ

الأرض؟ قال «أربعون يوماً : يوم كسنة ، ويوم كشهر ، ويوم كجمعة ، وسائل أيامكم» فقلنا : يارسول الله ، هذا اليوم الذي كسته أتكفينا فيه صلاة يوم وليلة؟ قال «لا ، أقدرُوا له قدره» ، ثم يتزل عيسى ابن مريم عند المناارة البيضاء شرقاً دمشقَ فيدركه عند باب الْـ*فِي قَتْلِهِ*»

٤٣٢٢ — حدثنا عيسى بن محمد ، ثنا ضمرة ، عن السيباني : عن عمرو بن عبد الله ، عن أبي أمامة ، عن النبي ﷺ . نحوه . وذكر الصلوات مثل معناه

٤٣٢٣ — حدثنا حفص بن عمر ، ثنا همام ، ثنا قتادة ، عن سالم بن أبي الجعد ، عن معدان [بن أبي طلحة] ، عن حديث أبي الدرداء . يرويه عن النبي ﷺ قال «منْ حفظَ عشَرَ آياتٍ من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال» قال أبو داود : وكذا قال هشام الدستوائي عن قتادة . إلا أنه قال «من حفظ من خواتيم سورة الكهف» وقال شعبة [عن قتادة] «من آخر الكهف»

٤٣٢٤ — حدثنا هدبة بن خالد ، ثنا همام بن يحيى ، عن قتادة : عن عبد الرحمن بن آدم ، عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال «ليس بينه وبينه نبئ — يعني عيسى — وإنه نازل ، فإذا رأيتموه فاعرفوه : رجل مربوع . إلى الحمرة والبياض ، بين مصرتين ، كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل . فيقاتل الناس على الإسلام ، فيدقُّ الصليب ، ويقتل الحرثير ، ويضع الجزية ، ويهلك الله في زمانه الملل كلها إِلَّا الإسلام . ويهلك المسيح الدجال فيمكث في الأرض أربعين سنة ثم يتوفى فيصلى عليه المسلمون»

باب في خبر الجساسة

٤٣٢٥ — حدثنا التفيلي ، ثنا عثمان بن عبد الرحمن . ثنا ابن أبي

عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال «ليس بيني وبينهنبيٌّ - يعني عيسى - وإنما نازل» . فإذا رأيتموه فاعرفوه : رجل مربوعٌ . إلى الحمرة والبياض ؛ بين مصريّن ، كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلال ، فيقاتل الناس على الإسلام ، فيدق الصليب ، ويقتل الخنزير ، ويضع الجزية .

(سنن أبي داود، كتاب الملاحم، باب خروج الدجال، جلد 4 صفحه 117-118)

حضرت ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ فرماتے تھے کہ آنے والے مسیح اور میرے درمیان کوئی اور نبی نہیں ہے اور مسیح ضرور تم میں نازل ہو گا۔ پس جب وہ آئے تو تم اسے دیکھتے ہی پہچان لینا۔ اُس آنے والے مسیح کا قدر میانہ ہو گا اور رنگ سرخی کی جھلک لئے ہوئے سفید ہو گا۔ وہ اسلام کی تائید میں دوسرا نہ ہوں کے ساتھ مقابلہ کرے گا اور صلیبی عقائد کو پاش پاش کریگا اور خنزیری گندوں کو مٹا دے گا اور (چونکہ اس کے زمانہ میں دین کے لئے توارکی جگ نہیں ہو گی) اسلئے وہ جزیہ کو بھی منسوج کر دیگا۔

Abu Hurairah relates that: He said the Prophet of Allah, (pbuh) said "there is no prophet between me and the Messiah to come who will most surely appear amongst you and therefore when you see him accept him ... he will be a man of average height, with fair color and touch of redness in hair. He will confront other religions in support of Islam, break the Cross, kill the swine and remit Jizya."

(Sunan abi Dawood, vol 4, page 117-118)

Abu Huraira^{ra} berichtet, dass der Heilige Prophet^{saw} sagte: "Zwischen mir und ihm (Jesus) gibt es keinen Propheten. Und wahrlich, er wird unter euch erscheinen. Deshalb, sobald ihr ihn seht, erkennt ihn an [...] Er wird mittelgroß sein, sein Teint wird rötlich-weiß sein. Er wird den Islam (gegen Angriffe) verteidigen, er wird das Kreuz brechen, das Schwein töten und die Djisya (Eine Kopfsteuer für Nicht-Muslime, deren Einnahmen für die Sicherstellung und Durchsetzung ihrer Zivilrechte eingesetzt wurde. Sie wurde nach einer Niederlage eines nicht-muslimischen Landes in einem Jihad (Verteidigungskrieg) erhoben) abschaffen [...]."

(Sunan abi Dawood, Bd 4, Seite 117-118)

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ

ہوا ہے گوتند دیز لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے

وہ مرد درویش جس کو حق نے دینے میں انداز خروان

خطبات ندوی

معہ صفری حالت، اخلاق و عادات، فضائل و فحشائی اور
تفصیلی شرح کے ساتھ، ہر مسجد، ہر مسفل بیں پڑھنے کیلئے

مرتبہ

عبد القیوم ندوی

ناشر، ان

تاجِ کملنی امداد لاهوری ادارہ دعا کر
میلسہ کراچی

۲۳۶

آج کی طرح ان دونوں بھی اندازہ سے نماز ادا کر لینا بھی آپ تنہ ارشاد فرمائے پائے تھے کہ نماز کا وقت آگیا، آپنے نماز ادا فرمائی اور مسلمانوں نے پڑھ پھر مسلمانوں میں مختاری فرمایا۔ ارشاد ہوا۔

اسکے بعد مسیح بن ہریم علیہ السلام میری امت میں انصاف کرنے والے حاکم کی خدمت میں پیدا ہوں گے جو صلیب کو توزیع کر دیں گے، سور کو ذرع کر دیں گے اور جزیرہ در زکواۃ لینا بند کر دیں گے۔ تکسی سے بکری لیں گے نہ اونٹ اور راہی معاوتو اور بیض سیزوں سے دور ہو جائیں گے۔ نہر میں جانوروں کا نہ ہر ختم ہو جائیگا حتیٰ کہ ایک رک کا سانکپے ہنہ میں ہاتھ دلے گا اور وہ اسے نڈے گا اور ایک لڑکی خیر کو دھکایا گی اور وہ اس کو نقصان پہنچایے گا۔ بکریوں میں بھرپڑا اس طرح ہے گا جیسے نجیبان کتا۔ زین مسلمانوں سے ایسے بھر جاؤ گی جیسے پانی کا بھر جاؤ بیالا۔ سکا کلمہ ایک ہو جائے گا۔ سو اندکے کسی کی پرتش نہیں ہوگی۔ رہائی ختم ہو جانے کی اور حکومت قریش سے چھین لی جائیگی۔ اور زین خالص چاندی کی طرح عہد آدم کے پھان اور سبزے اگائے گی۔ انگور کا ایک خیش اور انار کا ایک سپل پورے خاندان کو کافی ہو گا۔ میں بہت مبتلے ہو جائیں گے اور گھوڑے کی قیمت چند درہم ہو جائیگی ماس کا ایک فتحنہ یہ ہے کہ آسمان سے پانی برسائے گا اور زین سے سبزہ اگائے گا۔ اسکا ایک فتحنہ یہ ہے کہ جو قبیلہ اس کو محظا سے بھا اس کے سامنے موشی مر جو جائیں گے اور جو قبیلہ اس کی تقدیق کر لے گا تو وہ اپنے حکم سے ان پر پانی برسائے گا اور سبزہ اگائے گا۔

اکے بعد ہی بھی ہم علیہ السلام میری امت میں انصاف کرنے والے مامکن کی خدمت
میں پیدا ہوں گے جو صلیب کو تور دیں گے اسور کو زخم کر دیں گے اور جزیرہ ور
زکواۃ لینا بند کر دیں گے۔

(خطبات نبوی صفحہ 241 مطبوعہ تاج کین لائبریری لاہور، کراچی، ڈھاکہ)

Hazrat Abu Omama Bahili may Allah be pleased with him has narrated, that once the Holy Prophet(peace and blessings of Allah be upon him) delivered a lengthy sermon the greater part of which was connected with the Dajjal. In this sermon he also said:- "After this Jesus son of Mary would be born in my Ummah as an Arbiter . He will break the cross, kill the swine and stop taking tribute and Zakat."

(Khutbat-e-Nabawi Page 241, Printed by Taj company Ltd. Lahore)

Hazrat Abu Omama Bahili^{ra} überliefert: "Der Heilige Prophet^{saw} hielt einmal eine lange Freitagsansprache, deren Großteil den Dajjal thematisierte. In dieser Ansprache sagte er: "Danach wird Jesus, Sohn der Maria, in meiner Umma (Gefolgschaft) in der Funktion eines gerechten Richters erscheinen. Er wird das Kreuz brechen und das Schwein töten und die Jisya (Kriegssteuer) und die Armensteuer abschaffen."

(Khutbat-e-Nabawi Seite 241, Gedruckt von Taj Company Ltd. Lahore)

صَحْيَ الْبَخَارِيٰ

تألِيف

الإِمامُ الْحَافِظُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبَخَارِيٰ
”الترفِيَّةُ ٥٢٥٦“

مراجعةً وضبطاً وفهرسة

الشِّيخُ مُحَمَّدُ عَلِيٰ الْقَطْبُ الشِّيخُ هَشَامُ الْبَخَارِيٰ

الجُزُءُ الثَّانِي

المكتبة العظيمة
سكندا، بيروت

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزْقِيُّ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيْبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْلَةً أُسْرَى إِلَيْهِ: «لَقِيتُ مُوسَى قَالَ: فَتَعَطَّهُ، فَإِذَا رَجُلٌ - حَسِيبَتُهُ قَالَ - مُضْطَرِبٌ رَجُلُ الرَّأْسِ، كَانَهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوْءَةَ، قَالَ: وَلَقِيتُ عِيسَى - فَتَعَطَّهُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ - رَبْعَةً أَحْمَرَ، كَانَهَا خَرَجَ مِنْ دِيمَاسٍ - يَعْنِي الْحَمَامَ - وَرَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ وَأَنَا أَشْبَهُهُ وَلَدِيهِ بِهِ، قَالَ: وَأَتَيْتُ بِإِنَاءَيْنِ، أَحْدَهُمَا لَبَنٌ وَالْآخَرُ فِيهِ حَمْرٌ، فَقِيلَ لِي: خُذْ أَيْهُمَا شِئْتَ، فَأَخْدَتُ اللَّذِنَ فَشَرِبْتُهُ، فَقِيلَ لِي: هُدْيَتِ الْفِطْرَةَ، أَوْ: أَصْبَتَ النُّطْرَةَ، أَمَا إِنَّكَ لَوْ أَخْدَتَ الْحَمْرَ عَوَّتْ أَمْتَكَ».

٣٤٣٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ: أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْمُغَيرةَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبْنَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «رَأَيْتُ عِيسَى وَمُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ، فَأَنَا عِيسَى فَأَخْمَرُ جَعْدَ عَرِيشُ الصَّدْنِيُّ، وَأَنَا مُوسَى فَأَدْمُ جَسِيمَ سَبْطٍ، كَانَهُ مِنْ رِجَالِ الْرُّطْبِ».

٣٤٣٩ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ: حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ: حَدَّثَنَا مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: ذَكَرَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمًا بَيْنَ ظَهَرِيِّ النَّاسِ السَّيْحَ الدَّجَالَ، فَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِأَعْوَرٍ، أَلَا إِنَّ الْمَسِيحَ الدَّجَالَ أَعْوَرُ الْعَيْنِ الْيَمِنِيِّ، كَانَ عَيْنَهُ عِنْبَةً طَافِيَّةً».

٣٤٤٠ - «وَأَرَانِي اللَّيْلَةَ عِنْدَ الْكُعبَةِ فِي النَّارِ، فَإِذَا رَجُلٌ آدُمُ، كَأْحَسَنَ مَا يُرِي مِنْ آدُمِ الرِّجَالِ تَضَرِبُ لِمَتَهُ بَيْنَ مَنْكِبَيْهِ، رَجُلٌ الشَّعْرِ، يَقْطُرُ رَأْسُهُ مَاءً، وَاضِعًا يَدِيهِ عَلَى مَنْكَبِي رَجُلَيْنِ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: هَذَا الْمَسِيحُ بْنُ مَرِيَمَ، ثُمَّ رَأَيْتُ رَجُلًا وَرَاءَهُ جَدَدًا قَطَطًا، أَعْوَرُ الْعَيْنِ الْيَمِنِيِّ، كَأْشَبَهُ مَنْ رَأَيْتُ بِأَبْنَى قَطْنَ، وَاضِعًا يَدِيهِ عَلَى مَنْكَبِي رَجُلٍ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: الْمَسِيحُ الدَّجَالُ». تَابَعَهُ عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ.

٣٤٤١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَا وَاللَّهِ، مَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِعِيسَى أَحْمَرَ، وَلِكُنْ قَالَ: «يَبْنَمَا أَنَا نَاتِمٌ أَطْوُفُ بِالْكُعبَةِ، فَإِذَا رَجُلٌ آدُمُ، سَبْطُ الشَّعْرِ، يُهَادِي بَيْنَ رَجُلَيْنِ، يَنْطُفُ رَأْسُهُ مَاءً - أَوْ يُهَرَّأُ رَأْسُهُ مَاءً - فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: أَبْنُ مَرِيَمَ، فَذَهَبْتُ أَنْتِفُ، فَإِذَا رَجُلٌ أَحْمَرُ جَسِيمٌ، جَعْدُ الرَّأْسِ، أَعْوَرُ عَيْنِهِ الْيَمِنِيِّ، كَانَ عَيْنَهُ عِنْبَةً طَافِيَّةً، قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: هَذَا الدَّجَالُ، وَأَقْرَبَ النَّاسِ إِلَيْهِ شَيْهًا أَبْنُ قَطْنِ».

مسیح ناصری علیہ السلام اور مسیح موعود علیہ السلام کے خلیل

1

عَنْ أَبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «رَأَيْتُ عِيسَى وَمُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ، فَأَمَّا عِيسَى فَأَخْمَرَ جَعْدَ غَرِيبُ الصَّدْرِ،

2

٤٠ - «وَأَرَانِي اللَّيْلَةَ عِنْدَ الْكَعْبَةِ فِي الْمَنَامِ، فَإِذَا رَجَلُ آدُمُ، كَأْخَسِنَ مَا يُرَى مِنْ آدُمِ الرِّجَالِ تَضَرَّبُ لِمَتَهُ بَيْنَ مَنْكَبَيْهِ، رَجَلُ الشَّعْرِ، يَقْطُرُ رَأْسُهُ مَاءً، وَاضْعَافًا يَدَيْهِ عَلَى مَنْكَبَيْ رَجَلَيْنِ وَهُوَ يَطْوُفُ بِالْبَيْتِ، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالُوا: هَذَا الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمَ، ثُمَّ رَأَيْتُ رَجُلًا وَرَأْهُ جَعْدًا قَطْطَلًا، أَغْوَرَ الْعَيْنَ الْيُمْنِيَّ، كَأَشْبَهَ مَنْ رَأَيْتُ بْنَ مَرْيَمَ، قَطْنًا، وَاضْعَافًا يَدَيْهِ عَلَى مَنْكَبَيْ رَجَلٍ يَطْوُفُ بِالْبَيْتِ، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: الْمَسِيحُ الدَّاجِلُ».

(صحیح بخاری، جلد 2، کتاب احادیث الانبیاء، صفحہ 1071)

1:- حضرت عبد اللہ ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا "میں نے (معراج کی رات میں) عیسیٰ، موسیٰ اور ابراہیم کو دیکھا تو عیسیٰ سرخ رنگ گھنگریا لے بال چوڑا سینہ رکھتے تھے۔"

2:- اور میں رات کو خواب میں اپنے تیس دیکھتا ہوں جیسے میں کعبہ کے پاس ہوں۔ اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص بہت اچھا گندمی رنگ والا جس کے بال کندھوں تک صاف سیدھے تھے، اس کے سر سے پانی پیک رہا تھا۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ دو شخصوں کے کندھوں پر رکھے ہوئے کعبہ کا طواف کر رہا ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے لوگوں نے کہا یہ مسیح ابن مریم ہے۔ پھر میں نے اُس کے پیچھے ایک اور شخص کو دیکھا جو پوڑے سینے والا تھا۔ جو دیکھیں آنکھ سے کانا تھا۔ ابن قطن سے بہت مشابہ تھا۔ اپنے ہاتھوں کو ایک شخص کے کندھوں پر رکھے ہوئے خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون شخص ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ مسیح الدجال ہے۔

1:- Hazrat Ibn Umar (Allah be pleased with both of them) has narrated, the Holy Prophet, peace and blessings of Allah be upon him said: I saw Jesus, Moses and Abraham (on the night of my ascension to the heaven), Jesus was of red complexion, and curly hair and a broad chest.

2:- And I saw tonight in a dream near the Ka'aba, a man of brown colour the best, one can see among brown colour, and his hair were so long that it fell between his shoulders and water was trickling from his head and he was placing his hands on the shoulders of two men while circumambulating the Ka'aba. I asked who is this. They replied this is Jesus son of Mary.

(Sahih Bukhari vol 2, Kitab Ahadith ul Anbiya page 1071)

1:- Ibn-e Umar^{ra} berichtet, dass der Heilige Prophet^{saw} sagte: "Ich sah Jesus, Moses und Abraham. Jesus war von roter Hautfarbe, hatte lockige Haare und eine breite Brust."

2:- Und ich sah heute Nacht in einem Traum in der Nähe der Kaaba einen Mann brauner Hautfarbe, der besten braunen Farbe, die man sehen kann. Seine Haare waren lang und reichten bis an die Schultern. Wasser tropfte von seinem Kopf. Er hatte seine Hände auf die Schultern zweier Männer gelegt und umlief die Kaaba. Ich fragte, wer er sei. Man sagte mir: "Dies ist der Messias, der Sohn Marias".

(Sahih Bukhari Bd 2, Kitab Ahadith ul Anbiya Seite 1071)

«رَبَّنَا وَأَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتَلَوَّ عَلَيْهِمْ إِيمَانَكَ وَلَعْنَاهُمُ الْكِتَابَ
وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيْهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ»
(٢ / سورة البقرة / الآية ١٢٩)

سِنْنَتُ الحافظ أبي عبد الله محمد بن زيد الفزويني ابنهاجمة ٢٠٧ - ٢٧٥ هـ

حق نصوصه ، ورقم كتبه ، وأبوابه ، وأحاديثه ،
وعلاقه عليه

محمد بن عبد الله الفزويني

الجزء الثاني

عيسيى البابى الحلبي وشريكه

٣٦ - كِتاب الفتن

(٢٥-٢٤) باب

(٤٠٤٢-٤٠٣٩) حديث

فَالْهُنَّا «لَا يَزِدُّ دُوَّادُ الْأَمْرِ إِلَّا شِدَّةً». وَلَا الدُّنْيَا إِلَّا إِذْبَارًا. وَلَا النَّاسُ إِلَّا شُحًّا. وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا عَلَى شَرَارِ النَّاسِ. وَلَا الْمُهَدِّدُ إِلَّا عِيسَى بْنُ مَرْيَمْ».

في الرواية : قال الحكم في المستدرك ، بعد أن روى هذا المتن بهذا الإسناد: هذا حديث يعد في أفراد الشافعى ، وليس كذلك . فقد حدث به غيره . وقد بسط السيوطي القول فيه . وخلاصة ما قيل عن الحافظ عماد الدين بن كثير أنه قال : هذا حديث مشهور بمحبته خالد الجندي الصفانى المؤذن ، شيخ الشافعى . وروى عنه غير واحد أيضا . وليس هو بجهول . بل روى عن ابن معين أنه ثقة .

باب أشراط الساعة (٢٥)

٤٠٤٠ - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِّيِّ، وَأَبُو هِشَامِ الرَّفَاعِيِّ، مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَا: مَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ عَيَّاشَ . مَا أَبُو حَصَّينٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؟ قَالَ : فَالَّهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «بَعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ، كَمَا تَبَيَّنَ» وَجَمَعَ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ .

٤٠٤١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . مَا وَكَيْعَ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ فُرَاتِ الْقَزْازِ، عَنْ أَبِي الطْفَلِ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ أَسِيدٍ ؛ قَالَ : اطْلَعَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ ﷺ مِنْ غُرْفَةَ ، وَنَحْنُ نَتَّدَا كَرُّ السَّاعَةَ . فَقَالَ «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَكُونَ عَشْرُ آيَاتٍ : الدَّجَالُ، وَالدُّخَانُ، وَطَلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا» .

٤٠٤٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ . مَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ . مَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْقَلَاءِ . حَدَّثَنِي لَمْرُ بْنُ عَبْيَدِ اللَّهِ . حَدَّثَنِي أَبُو إِدْرِيسَ الْجَوَلَانِيُّ . حَدَّثَنِي عَوْفُ بْنُ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيُّ ؛ قَالَ : أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، وَهُوَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، وَهُوَ فِي خِيَّاءِ مِنْ أَدَمَ .

٤٠٣٩ - (لا يزداد الأمر إلا شدة) أي التمسك بالدين والسنن . لقلة الأعوان وكثرة المخالفين .

٤٠٤٠ - (بمثل أنا والساعة) قيل : بالنصب على أنه مفعول . وقيل بالرفع في المطفف .

٤٠٤٢ - (من أدم) الأدم هو الجلد .

وَلَا مَهْدِيٌ إِلَّا عِيسَىٰ بْنُ مَرْيَمَ ॥

(سنن ابن ماجہ، کتاب الفتن، باب شدۃ الزمان، جلد 2، صفحہ 1341)

آنحضرت ﷺ فرماتے ہیں:- سوائے عیسیٰ ابن مریم کے اور کوئی مہدی نہیں ہے۔

The Holy Prophet, peace and blessings of Allah be upon him, said:- The Mahdi is none other than Jesus son of Mary.

(Sunan Ibn Maja, Kitab ul Fitān, vol 2 page 1341)

Der Heilige Prophet^{saw} sagte: "Der Mahdi ist niemand anderes als Isa, Sohn der Maria."

(Sunan Ibn Madscha, Kitab ul Fitān, Bd 2 Seite 1341)

٣٦ - كتاب الفتن

(٣٤) باب

(٤٠٨٣-٤٠٨٥) حديث

قال «يَكُونُ فِي أُمَّتِي الْمَهْدِيُّ إِنْ قُصْرَ، فَسَبِيعٌ وَإِلَّا فَقِيسْعٌ فَقَنْعُمٌ فِيهِ أُمَّةٌ لَعْمَةٌ أُمَّهُ يَنْعَمُوا مِثْلَهَا قَطُّ تُؤْتَى أَكْلُهَا وَلَا تَدْخُرُ مِنْهُمْ شَيْئًا وَالْمَالُ يَوْمَئِذٍ كُدُوسٌ فَيَقُولُ الرَّجُلُ فَيَقُولُ يَامَهْدِيٌّ أَعْطِنِي وَيَقُولُ خُذْ ». ٤٠٨٤

٤٠٨٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ وَأَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ ، قَالَا : تَنَاهَى عَنْ سُفْيَانَ التَّوْرِيِّ ، عَنْ خَالِدِ الْأَحْذَاءِ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءِ الرَّحِيِّ ، عَنْ مَوْبَانَ ؛ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « يَقْتَسِلُ عِنْدَ كَنْزِكُمْ تَلَاثَةٌ كُلُّهُمْ ابْنُ خَلِيفَةٍ مُّمَّ لَا يَصِيرُ إِلَى وَاحِدِهِمْ مُّمَّ تَطَلَّعُ الرَّأْيَاتُ السُّودُ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ فَيَقْتُلُونَكُمْ قَتَلَامَ مُّوقِتَلَهُ قَوْمٌ ». فَإِنَّهُ خَلِيفَةُ اللَّهِ ، الْمَهْدِيُّ ». في الرواية : هذا إسناد صحيح . رجاله ثقات . ورواه الحاكم في المستدرك ، وقال : صحيح على شرط الشuyخين .

٤٠٨٥ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ تَنَاهَى أَبُو دَاؤُدُ الْحَفَرِيُّ ثُمَّ يَاسِينُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ الْحَنْفِيَّةِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلَيِّ ؛ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَهْدِيُّ مِنَ أَهْلِ الْبَيْتِ يُصْلِحُهُ اللَّهُ فِي لَيْلَةٍ ». في الرواية : قال البخاري في التاريخ ، عقب حديث إبراهيم بن محمد بن الحنفية هذا : في إسناده نظر . وذكره ابن حبان في الثقات . ووثق المجلبي ، قال البخاري : فيه نظر . ولا أعلم له حديثاً غير هذا . وقال ابن معين وأبو زرعة : لا بأس به . وأبو داود الحفرى ، اسمه عمر بن سعد ، احتج به مسلم في صحيحه . وباقهم ثقات .

٤٠٨٣ - (قصر) أى بقاوه منكم . (كدوس) أى مجموع كثير .

٤٠٨٤ - (كنزكم) قال ابن كثير : الظاهر أن المراد بالكنز المذكور ، كنز السکمة .

٤٠٨٥ - (يصلحه الله في ليلة) قال ابن كثير : أى يتوب عليه ويوافقه ويظهره رشدته بعد أن لم يكن كذلك .

فَقَالَ «إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَبَايِعُوهُ وَلَوْ حَبْوًا عَلَى الشَّلْجِ إِنَّهُ خَلِيفَةُ اللهِ، الْمَهْدِيُّ»

(سنن ابن ماجه، كتاب الفتن بباب خروج المهدى، جلد نمبر 2، صفحه 1367)

حضرت ثوبانؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا:- جب تم مہدی کو پاؤ تو اس کی بیعت کرو خواہ تمھیں برف کے پہاڑوں پر سے گھٹنوں کے بل جانا پڑے کیونکہ وہ مہدی اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے۔

Hazrat Thubaan, Allah be pleased with him, relates that the Holy Prophet, peace and blessings of Allah be upon him, said:- When You find the Mahdi perform Bai'at (pledge of allegiance) at his hands. You must go to him, even if you have to reach him across icebound mountains on your knees. He is the Mahdi and the Caliph of Allah.

(Sunan Ibn Maja, Kitab ul Fitān vol 2 page 1367)

Hadhrat Thuban^{ra} berichtet, dass der Heilige Prophet^{saw} sagte: "Wenn ihr den Mahdi findet, legt das Baiat (Treueid) an seiner Hand ab. Ihr müsst zu ihm gehen, selbst wenn der Weg zu ihm über Eisberge führte und nur auf Knieen zurückgelegt werden kann. Er ist der Mahdi und der Khalifa (Statthalter) Allahs."

(Sunan Ibn Madscha, Kitab ul Fitān Bd 2, Seite 1367)

الدَّلِيلُ الْمُبِينُ
فِي النَّفِسِ الْأَنْوَارِ

وَهُوَ مُختَصَّ تَفْسِيرَ تَرْجِمَانَ الْقُرْآنِ

للدَّلِيلِ
جَلَّ جَلَلَ اللَّهِ الَّذِينَ بَعْدَ الرَّعْنَ بْنِ لَهِيَّا بْنِ السَّيُوطِيِّ
المتوفى سنة ٩١١ هـ

الجزء الثاني

محتوى الجزء الثاني : من أول سورة آل عمران، إلى آخر سورة المائدة.

دار الكتب العلمية
بيروت - لبنان

سورة النساء / الآية: ١٥٩ ٤٣٣

يعيش الناس في ذلك الزمان؟ قال: التهليل، والتكبير، والتسبيح، والتحميد، ويجري ذلك عليهم مجرى الطعام».

وأخرج أحمد ومسلم عن جابر عن النبي ﷺ قال «لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيمة، قال: فينزل عيسى ابن مريم فيقول أميرهم: تعال صلّ بنا. فيقول لا إن بعضكم على بعض أمير تكمة الله هذه الأمة».

وأخرج الطبراني عن أوس بن أوس عن النبي ﷺ قال: ينزل عيسى ابن مريم عند المنارة البيضاء في دمشق.

وأخرج الحكيم الترمذى في نوادر الأصول عن عبد الرحمن بن سمرة قال «عثني خالد بن الوليد بشيراً إلى رسول الله ﷺ يوم مؤتة، فلما دخلت عليه قلت: يا رسول الله فقال: على رسلك يا عبد الرحمن، أخذ اللواء زيد بن حارثة فقاتل حتى قتل رحم الله زيداً، ثم أخذ اللواء جعفر فقاتل فقتل رحم الله جعفراً، ثم أخذ اللواء عبد الله بن رواحة فقاتل فقتل رحم الله عبد الله، ثم أخذ اللواء خالد ففتح الله لخالد، فخالد سيف من سيف الله، فبكى أصحاب رسول الله ﷺ وهم حوله، فقال: ما يبكيكم؟ قالوا: وما لنا لا نبكي وقد قتل خيارنا وأشرافنا وأهل الفضل منا! فقال: لا تبكوا فانما مثل امي مثل حديقة قام عليها صاحبها، فاجتاز زواكيها، وهيا مساكها، وحق سعفها، فأطعمت عاماً فوجاً، ثم عاماً فوجاً، ثم عاماً فوجاً، فعل آخراها طعماً يكون أجودها قنواناً، وأطولها شمراخاً، والذي عثني بالحق ليجدن ابن مريم في أمتي خلفاً من حواريه».

وأخرج ابن أبي شيبة والحكيم الترمذى والحاكم وصححه عن عبد الرحمن بن جبير بن ثفير الحضرمي عن أبيه قال: لما اشتد جزع أصحاب رسول الله ﷺ على من قتل يوم مؤتة قال رسول الله ﷺ «ليدركن الدجال من هذه الأمة قوماً مثلكم أو خيراً منكم ثلث مرات، ولن يخزي الله أمة أنا أولها وعيسى ابن مريم آخرها، قال الذهبي: مرسل وهو خبر منكر».

وأخرج الحاكم عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ «سيدرك رجال من أمتي عيسى ابن مريم، ويشهدون قتال الدجال».

وأخرج الحاكم وصححه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ «ليهبطن ابن مريم حكماً عادلاً، واماً مقسطاً، وليسكن فجأ حاججاً أو معتمراً، ولماين قبرى حتى يسلم على، ولاردن عليه، يقول أبو هريرة: أي بني أخي إن رأيتموه فقولوا: أبو هريرة يقرئك السلام».

وأخرج الحاكم عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ «من أدرك منكم عيسى ابن مريم فليقِرئه مني السلام».

وأخرج أحمد في الزهد عن أبي هريرة قال: يلبث عيسى ابن مريم في الأرض أربعين سنة، لويقول للبطحاء سيلي عسلاً لسالت.

وخرج ابن أبي شيبة وأحمد والترمذى وصححه عن مجمع بن جارية «سمعت رسول الله ﷺ يقول:

عن أنس قال:

قال رسول الله ﷺ «من أدرك منكم عيسى ابن مريم فليقلّه مني السلام».

(در منثور فی تفسیر المأثور، سورۃ النساء، زیر آیت وَإِنْ مَنْ أَخْلَى الکتاب...، جلد 2 صفحہ 433)

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا! جو بھی تم میں سے عیسیٰ بن مریم کو پائے تو اس کو میر اسلام پہنچا
۔

Hazrat Anas, Allah be pleased with him, states that the Holy Prophet peace and blessings of Allah be upon him said: "Whoever from among you meets Jesus, son of Mary, should convey my greetings to him."

(Durr e Mansoor, vol 2 page 433)

Anas^{ra} berichtet, dass der Heilige Prophet^{saw} sagte: "Wer immer von euch Jesus, dem Sohn Marias, begegnet, soll ihm meine Grüße ausrichten."

(Durr e Manthoor, Bd 2 Seite 433)

الْأَمْرَ الْجَلِيلُ حَنْبَلٌ

وَبِهَا مِشِيهٌ
منْخَبٌ كَذَّ الْعَمَالٌ فِي سِنِ الْأَفْوَالِ وَالْأَفْعَالِ

المَجَلِدُ الرَّابِعُ

دارِ صَادِرٍ
بِيرُوْتِ

سفة حوم ا (طب) عن عدى بن حاتم * **ابن تين** على الناصر زمان تسيير القاعدين من مكماه الحبر لا يأخذ أسد بخطام راحلتها ولما ينبع على الناس زمان يعنى الرجل على كفه ذهبوا يتصدق به لايقبل منه (طب) عن عدى بن حاتم * ياعدى لا تزدرين أصحابي ولما يفتحن كنز كسرى ولما يخرجن القاعدين من الحبر لا يجيوا بهذالبيت ولما يشنعن على هذا المال فى أول النهار ثم يطراف فى آخره فلا يقبله أحد (طب) عن عدى ابن حاتم * **بعث الله** مزوج سهل وجعل عليه الاسمى كسرى ما كان يخرج به من سور (٢٧٣)

(٣٥) - (مسند أحد) (رابع) **الخطب والصلوة** مكتبة كلية التربية والعلوم الإنسانية جامعة الملك سعود

135

فقال حذيفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون النبوة فيكم ماشاء الله ان تكون ثم يرفعها اذا شاء ان يرفعها ام تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ماشاء الله ان تكون ثم يرفعها اذا شاء الله ام يرفعها ام تكون ملائكة اضافية تكون ماشاء الله ان يكون ثم يرفعها اذا شاء ام يرفعها ام تكون ملائكة بريه فتسكون ماشاء الله ان تكون ثم يرفعها اذا شاء ام يرفعها ام تكون خلافة على منهاج النبوة فم سكت

(مسند احمد بن حنبل، زیر عنوان حدیث نعمان بن بشیر، جلد 4 صفحه 273)

حضرت حذیفہؓ بیان کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ کچھ عرصہ جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا نبوت کا زمانہ رہے گا پھر خلافت نبوت کے طریق پر قائم ہوگی اور اس وقت تک رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ کا نشائے ہو گا پھر وہ ختم ہو جائے گی اور با دشہت کا دروازہ کھل جائیگا اور یہ کچھ عرصہ تک جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا کھلارہ ہے گا۔ پھر اس کے بعد جابر حکومتیں شروع ہو جائیں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کو ختم کر دیگا اور اس کے بعد دوبارہ نبوت کے طریق پر خلافت قائم ہوگی۔ پھر آپ نے خاموشی اختصار فرمائی۔

The Holy Prophet s.a.s. said:- "Prophetic period will remain with you as long as Allah wills, then Allah the Supreme will lift it; then will emerge Caliphate based on the prophetic standard of values and remain as long as Allah wills that it remain; then Allah will lift it; then will start absolute monarchy and remain so long as Allah wills that it remain; then Allah will lift it; then will start cruel governance and remain so long as Allah wills that it remain; then Allah will lift it; then will emerge the Caliphate based on the Prophetic standard of values. Then he became silent.

(Musnad Ahmad bin Hanbal, Hadith Noman bin Bashir, vol 4 page 273)

Hazrat Husaifa^{ra} berichtet, dass der Heilige Prophet^{saw} sagte: "Die Ära des Prophetentums wird solange währen, wie es Gottes Wille ist; dann folgt die Ära des Khilafats. In jener Ära werden die Werte des Prophetentums weitergepflegt. Sie wird solange bestehen, wie es Gottes Wille sein wird. Dann wird auch diese zu Ende gehen und die Zeit der Monarchie beginnen, und auch sie wird solange Bestand haben, wie es der Wille Gottes sein wird. Dann wird die Zeit der Tyrannie einsetzen, und Gott wird auch sie beenden. Schließlich wird wieder die Ära des Khilafats anbrechen, in der Art und Weise des Prophetentums." Als dann schwieg er [der Prophet (s)]."

(Musnad Ahmad bin Hanbal, Hadith Noman bin Bashir, Bd 4 Seite 273)

سُنْنَةِ الْأَبِي دَاوُود

الإمام الحافظ المصنف المفقن أبي داود سليمان
ابن الأشعث السجستاني الأزدي

٤٢٧٥ - ٢٠٢

تحقيق
محمد محبي الدين عبد الحميد

الجزء الرابع

المكتبة العصرية
مكتيدا - بيروت

الحارث بن حراث^(١) على مقدمته رجل يقال له منصور يوطيء، أو يمسكُنْ، لآل محمد كمَا سَكَنَ قُرَيْشٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَبَ عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ نَصْرُهُ» أو قال «إجابتَه» [«آخر كتاب المهدى»]

كتاب الملاحم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

باب ما يذكر في قرن المائة

٤٢٩١ — حدثنا سليمان بن داود المهرى ، أخبرنا ابن وهب ، أخبرنى سعيد بن أبي أيوب ، عن شراحيل بن يزيد المافرى ، عن أبي حاتمة ، عن أبي هريرة ، فيما أعلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ هَذِهِ الْأُمَّةَ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مَائَةٍ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا» قال أبو داود : [رواه عبد الرحمن ابن شريح الاسكندراني لم يجز به شراحيل

باب ما يذكر من ملاحم الروم

٤٢٩٢ — حدثنا النفيلى ، شاعىسى بن يونس ، ثنا الأوزاعى ، عن حسان بن عطية ، قال : مال مكحول وابن أبي زكريا إلى خالد بن معدان ، وملت معهم ، خدثنا عن جبير بن نفير [عن المدينة] ، قال : قال جبير : انطلق بنا إلى ذى الخبر^(٢) رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، فأتياه ، فسألته جبير عن المدينة ، فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «ستصالحونَ الْرُّومَ صلحاً آمناً فتفزونَ أنتمْ وَهُمْ عَدُوًّا مِنْ وَرَائِكُمْ فَتَنْصُرُونَ وَتَغْنِمُونَ وَتَسْلِمُونَ شَمَّ تَرْجِمُونَ حَتَّى تَنْزَلُوا بِمَرْجِ ذِي تَلْوِ فَيُرْفَعُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ النَّصْرَانِيَّةِ الصَّلِيبَ (١) فِي نَسْخَةٍ «يقال له الحارث حراث» ، (٢) فِي نَسْخَةٍ «أَوْ قَالَ ذِي خَمْرٍ الشك من أبي داود»

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، فِيمَا أَعْلَمُ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ « إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ
لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مائَةٍ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا

(سنن أبي داود، جلد 4، كتاب الملاحم باب ما يزكى في قرن المائة، صفحه 109)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے لئے ہر صدی کے سر پر
ایسے لوگ کھڑے کرتا رہے گا جو اس امت کے دین کی تجدید کرتے رہیں گے۔

Hazrat Abu Huraiyah, Allah be pleased with him, narrates that the Holy Prophet (pbuh) said:- Allah will raise for this ummah someone at the head of each century, who will revive its religion for it.

(Sunan Abi Daud, BdIV, Kitab al Malahim vol 4 page 109)

Hazrat Abu Huraira^{ra} berichtet, dass der Heilige Prophet^{saw} sagte: "Allah wird in dieser Umma am Anfang jeden Jahrhunderts (jemanden) aufstellen, der für sie ihren Glauben erneuern wird."

(Sunan Abi Daud, BdIV, Kitab al Malahim Bd 4 Seite 109)

إِذَا الشَّمْسُ كُوَرَتْ ۝ وَإِذَا النُّجُومُ الْكَدَرَتْ ۝ وَإِذَا النِّبَالُ سِرَيْتْ ۝ وَإِذَا الْعَسَارُ عَمِلَتْ ۝ وَإِذَا الْوُحُوشُ
خُشِرَتْ ۝ وَإِذَا الْبَحَارُ سُجَرَتْ ۝ وَإِذَا النُّفُوسُ رُوَجَتْ ۝ وَإِذَا الْمَوْدَةُ سُلِكَتْ ۝ بِأَيِّ ذَلِكُ قُبِلَتْ ۝ وَإِذَا الْكُنْفُ
نُشِرَتْ ۝ وَإِذَا السَّمَاءُ كُثِيرَتْ ۝ وَإِذَا الْجَهَنَّمُ سُعَرَتْ ۝ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُرْلَقَتْ ۝ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا آخَرَتْ ۝

(التکویر: 15-2)

جب سورج پیٹ دیا جائے گا۔ اور جب ستارے ماند پڑ جائیں گے۔ اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے۔ اور جب دس ماہ کی گاہمن
اوپنیاں بغیر کسی ٹگرانی کے چھوڑ دی جائیں گی۔ اور جب دھنی اکٹھے کئے جائیں گے۔ اور جب سمندر چھائے جائیں گے۔ اور
جب نُفوس مladیئے جائیں گے۔ اور جب زندہ درگور کی جانے والی (اپنے بارہ میں) پوچھی جائے گی۔ (کہ) آخر کس لگناہ کی پاداش
میں قتل کی گئی ہے؟ اور جب صحیفے نشر کئے جائیں گے۔ اور جب آسمان کی کھال اور ہیڑ دی جائے گی۔ اور جب جہنم بھڑکائی جائے
گی۔ اور جب جنت قریب کر دی جائے گی۔ ہر جان معلوم کر لے گی جو وہ لائی ہوگی۔

81: 2. When the sun is folded up,

81: 3. And when the stars are obscured,

81: 4. And when the mountains are made to move,

81: 5. And when the she-camels, ten-month pregnant are abandoned,

81: 6. And when the wild beasts are gathered together,

81: 7. And when the rivers are drained away,

81: 8. And when various people are brought together,

81: 9. And when the female-infant buried alive is questioned about -

81: 10. 'For what crime was she killed ?'

81: 11. And when books are spread abroad,

81: 12. And when the heaven is laid bare,

81: 13. And when Hell-Fire is set ablaze,

81: 14. And when Paradise is brought nigh,

81: 15. Then every soul will know what it has produced.

- 81:2. Wenn die Sonne verhüllt ist,
- 81:3. Und wenn die Sterne betrübt sind,
- 81:4. Und wenn die Berge fortgeblasen werden,
- 81:5. Und wenn die hochschwangeren Kamelstuten verlassen werden,
- 81:6. Und wenn wildes Getier versammelt wird,
- 81:7. Und wenn die Meere (ineinander) hinfließen,
- 81:8. Und wenn die Menschen einander nahe gebracht werden.
- 81:9. Und wenn nach dem lebendig begrabenen Mädchen gefragt wird:
- 81:10. "Für welches Verbrechen ward es getötet?"
- 81:11. Und wenn Schriften weithin verbreitet werden,
- 81:12. Und wenn der Himmel aufgedeckt wird,
- 81:13. Und wenn das Feuer angefacht wird,
- 81:14. Und wenn der Garten nahe gebracht wird,
- 81:15. Dann wird jede Seele wissen, was sie gebracht.

لَقَدْ مَنَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتَوَلَّوْهُ عَلَيْهِمْ إِيمَانُهُمْ وَيُزَكِّيُّهُمْ
وَيُمَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَوْنِ ضَلَالٍ مُّبِينٍ . [آل عمران / الآية ١٦٤]

صَاحِبُ الْمُسْلَمِ

لِإِلَامَاءِ أَبِي الْخَسِينِ مُسْلِمِ بْنِ الْجَتَاجِ

الْقُشَّاسِيِّيِّ النَّيْسَابُورِيِّ

٢٩١ - ٢٠٦ هـ

(وهو ثاني كتابين، ما أصلح السكتب المصنفة)

«لأن أهل الحديث يكتبون، مائتي سنة،
الحديث، فدارم على هذا السن»

«صنفت هذا السند الصحيح من
ثلاثمائة ألف حديث مسورة»
«مسلم بن الحجاج»

الْأَجْزَاءُ الْأَوَّلُ

وقف على طبعه ، وتحقيق نصوصه ، وتصحيحه وترقيمه ،
وعد كتبه وأورايه وأحاديثه . وعلق عليه ملخص
شرح الإمام النووي ، مع زيادات من آئتها الآف

(غادم الكتاب والسن)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



١ - كتاب الإيمان

(٧١) باب

(٢٤٢ - ٢٤٥) حديث

الْخَلْوَاتِي وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ . حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ . كُلُّهُمْ عَنِ الرَّهْبَرِيِّ
بِهِذِهِ الْإِسْنَادِ . وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ عَيْنَةَ « إِمَامًا مُقْسِطًا وَحَكَمًَا عَدْلًا » . وَفِي رِوَايَةِ يُونُسَ « حَكَمًَا
عَدْلًا » وَلَمْ يَذْكُرْ « إِمَامًا مُقْسِطًا » . وَفِي حَدِيثِ صَالِحٍ « حَكَمًَا مُقْسِطًا » كَمَا قَالَ الْمِيقَاتُ . وَفِي حَدِيثِهِ،
مِنَ الزِّيَادَةِ « وَحْتَى تَكُونَ السَّجْدَةُ الْوَاحِدَةُ خَيْرًا مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا » .
مُمِّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ^(١) : افْرُوا إِنْ شِئْتُمْ : وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا يُؤْمِنُ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ
[النساء / آية ١٠٩] الْآيَةَ .

٢٤٣ - (...) حَدَّشَا قُتْبِيَّةَ بْنُ سَعِيدٍ . حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ عَطَاءَ بْنِ مِيَّنَاءِ ،
عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ « وَاللَّهِ لَيَسْرُونَ أَبْنَ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدْلًا . فَلَيَسْرُونَ
الصَّلَيْبَ . وَلَيَقْتُلَنَّ الْمُنْزَرِيَّ . وَلَيَضْعَنَّ الْجَزِيَّةَ . وَلَتُتَرَكَنَّ الْقَلَاصُ^(٢) فَلَا يُسْتَأْنَدُ عَلَيْهَا . وَلَتَذَهَّبَنَّ
الشَّحْنَاءُ وَالْتَّبَاغْضُ وَالْتَّحَاسِدُ . وَلَيَدْعُونَ (وَلَيَدْعُونَ) إِلَى الْمَالِ فَلَا يَقْبِلُهُ أَحَدٌ » .

٢٤٤ - (...) حَدَّشَى حَرَمَلَةَ بْنُ يَحْيَى . أَخْبَرَنَا أَبْنُ وَهْبٍ . أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ أَبْنِ شَهَابٍ ؛ قَالَ :
أَخْبَرَنِي نَافِعٌ ، مَوْلَى أَبِي قَاتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ ؛ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ « كَيْفَ أَنْتُمْ
إِذَا تَرَلَ أَبْنَ مَرْيَمَ فِيهِمْ ، وَإِمَامَكُمْ مِنْكُمْ؟ » .

٢٤٥ - (...) وَحَدَّشَى مُحَمَّدَ بْنَ حَاتِمٍ . حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنِ إِبْرَاهِيمَ . حَدَّثَنَا أَبْنُ أَنْجِي أَبْنِ شَهَابٍ
عَنْ عَمِّهِ . قَالَ : أَخْبَرَنِي نَافِعٌ مَوْلَى أَبِي قَاتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
« كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا تَرَلَ أَبْنَ مَرْيَمَ فِيهِمْ وَأَمَّا كُمْ؟ » .

(١) (مُمِّ يقول أبو هريرة) فيه دلالة ظاهرة على أن مذهب أبي هريرة في الآية أن الضمير في مorte يمود على
عيسي عليه السلام . ومنهاها : وما من أهل الكتاب أحد يكون في زمن عيسى عليه السلام إلا آمن به ، وعلم أنه عبد الله
وإن أتيه . وهذا مذهب جماعة من المفسرين :

(٢) (ولتركتن القلاص) القلاص جمع تلوس . وهي من الإبل كافتة من النساء والحدث من الرجال . ومنها :
أن يزهد فيها ولا يرغب في اقتنائها لكتلة الأموال . وإنما ذكرت القلاص لكونها أشرف الإبل ، التي هي أنفس
الأموال عند العرب .

(٢٤٦) حدثنا

باب (٧٢-٧١) حدث

١ - كتاب الإعان

٢٤٦ - (...) وَحَدَّثَنَا زُهْرَيْرُ بْنُ حَرْبٍ . حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ . حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ « كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا نَزَلَ فِيكُمْ ابْنُ مَرِيمَ فَأَمَّكُمْ مِنْكُمْ ؟ » فَقَلَّتْ لِابْنِ أَبِي ذِئْبٍ : إِنَّ الْأَوْزَاعِيَ حَدَّثَنَا عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ « وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ » قَالَ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ : تَدْرِي مَا أَمَّكُمْ مِنْكُمْ ؟ قُلْتُ : تُخْبِرُنِي . قَالَ : فَأَمَّكُمْ بِكِتَابِ رَبِّكُمْ تَبَارِكَ وَتَعَالَى وَسُنْنَةِ نَبِيِّكُمْ عَلَيْهِ السَّلَامُ .

٢٤٧ - (١٥٦) حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ شُبَّاعَ ، وَهَرَوْنَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالُوا : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ (وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ) عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ . قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّهْرَيْرُ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : سَمِعْتُ الْبَيْهِيَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ « لَا تَرَاوِي طَائِفَةً مِنْ أُمَّيَّهِ يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ » . قَالَ ، فَيَنْزَلُ عَلِيَّسِيَ بْنُ مَرِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَيَقُولُ أَمِيرُهُمْ : تَعَالَ صَلَّ لَنَا . فَيَقُولُ : لَا . إِنَّ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ أَمْرَاءٌ . سَكْرِمَةُ اللَّهِ هَذِهِ الْأُمَّةُ » .

**

(٧٢) باب بيان الرعن من الذي لا يقبل فيه الراجح

٢٤٨ - (١٥٧) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُوبَ ، وَقَتِيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، وَعَلِيُّ بْنُ حُبْرٍ . قَالُوا : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (يَمْنُونَ ابْنُ جَعْفَرٍ) ، عَنِ الْمَلَأِ (وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ « لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطْلُعُ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا » (١) . فَإِذَا طَلَعَتْ مِنْ مَغْرِبِهَا آمِنَ النَّاسُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ . فِي يَوْمِئِذٍ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيَّاهَا لَمْ تَكُنْ آمِنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيَّاهَا خَيْرًا » [٦/الأمام/ الآية ١٥٨] .

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وأبا منيز، وأبو كربن. قالوا: حدثنا ابن فضيل. وحدثني زهير بن حرب. حدثنا جرير. كلهم عن عمارة بنت القمقاع، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة، عن (١) (حتى تطلع الشمس من مغربها) قال القاضي عياض رحمه الله. هذا الحديث على ظاهره عند أهل الحديث والفقه والكلمين من أهل السنة.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ « وَاللَّهِ لَيَسْرِنَّ إِنْ بْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدْلًا . فَلَيَكْسِرَنَّ الصَّلَيْبَ . وَلَيَقْتَلَنَّ الْخِنْزِيرَ . وَلَيَضْعَنَّ الْجِزْيَةَ . وَلَتُتَرْكَ كُنَّ الْفِلَاصَ »^(۲) فَلَا يُسْعَى عَلَيْهَا . وَلَتَذَهَّبَ الشَّحْنَاءُ وَالْتَّبَاغُضُ وَالْتَّحَاسُدُ . وَلَيَدْعُونَ (وَلَيَدُعُونَ) إِلَى الْمَالِ فَلَا يَقْبِلُهُ أَحَدٌ » .

(صحیح مسلم کتاب الایمان باب نزول عیسیٰ ابن مریم جلد 1 صفحہ 136)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن مریم ضرور بالضرور حکم عدل بن کے تشریف لاکیں گے اور لازماً وہ صلیب کو توڑیں گے اور خنزیر کو قتل کریں گے اور جزیہ موقوف کریں گے۔ اور اوپنیاں ضرور متروک ہو جائیں گی اور ان کو تیز رفتاری کے لئے استعمال نہیں کیا جائے گا۔

Hazrat Abu Hureirah Allah be pleased with him narrated that the Holy Prophet (pbuh) said, " The Son of Mary will descend among you as an arbiter, he will discard the belief of Cross, and slay the swine, and ransom will be demolished, and the she camels will be out of vogue, and will be not used as a fast means of transportation.

(Muslim, vol. 1 , page 136)

Hazrat Abu Huraira^{ra} überliefert, dass der Heilige Prophet Muhammad^{saw} sagte: "Der Sohn der Maria (Ibn Mariam) wird gewiss mit Entscheidungsbefugnis (hakam) und Gerechtigkeit (adl) kommen, gewiss wird er das Kreuz brechen, das Schwein töten und die Jisia abschaffen. Die Kamelstuten werden verlassen, und sie werden nicht mehr als Mittel zur schnellen Transportierung gebraucht."

(Muslim, Bd 1 , Seite 136)

أَنَّ أَبَاكُمْ هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ « كَيْفَ أَنْتُمْ ۖ
إِذَا تَزَلَّ أَبْنَى مَرْيَمَ فِيكُمْ ، وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ ۖ ۝

(ایضاً)

ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: تمہارا کیا حال ہو گا جب ابن مریم تم میں نازل ہو گا اور وہ تم میں سے تمہارا
امام ہو گا۔

Abu Hureirah r.a. narrates that the holy prophet s.a.s. said:- what would be your condition when son of Mary will descend among you and he will be your imam from among you ?

(Sahih Muslim, Kitab alIman vol 1 page 136)

Abu Hureira^{ra} berichtet, dass der Heilige Prophet^{saw} fragte: Wie wird euer Zustand sein, wenn der Sohn der Maria zu euch herabgesandt wird und er euer Imam aus eurer Mitte sein wird.

(Sahih Muslim, Kitab alIman Bd 1 Seite 136)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا
نَزَلَ فِيكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ فَأَمَّا كُمْ مِنْكُمْ؟» فَقَلَّتْ لِابْنِ أَبِي ذِئْبٍ : إِنَّ الْأَوْزَاعِيَ حَدَّثَنَا عَنِ الزُّهْرِيِّ ،
عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ» قَالَ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ : تَدْرِي مَا أَمَّا كُمْ مِنْكُمْ؟ قَلَّتْ :
تُخْبِرُنِي . قَالَ : فَأَمَّا كُمْ بِكِتَابِ رَبِّكُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَسَمِّيَ نَبِيُّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

(ایضاً، صفحہ 137)

ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: تمہارا کیا حال ہو گا جب ابن مریم تم میں نازل ہو گا اور تمہاری امامت کے فرائض انجام دے گا۔ ”میں نے ابی ذیت کے بیٹے سے کہا کہ او زاعی نے بیان کیا زہری سے اور انہوں نے (بیان کیا) تافع سے کہ ابو ہریرہؓ کی روایت ہے ”اور وہ تم میں سے تمہارا امام ہو گا۔“ ابو ذئب کے بیٹے نے کہا تم جانتے ہو کہ وہ تم میں تمہاری امامت کے فرائض کس طرح انجام دے گا۔ میں نے کہا۔ آپ ہی مجھے بتائیے۔ انہوں نے فرمایا ”وہ تم میں تمہارے رب کی کتاب تمہارے رسولؐ کی سنت کے ذریعہ امامت کے فرائض انجام دے گا۔“

Abu Hurairah, Allah be pleased with him, narrated that the Holy Prophet (pbuh) said, "What will be your situation, when the son of Mary will descend among you and who will perform the duties of your Imam." I referred to the son of Abu Zahiab, who referred to Auzai and he referred to Zahri and he referred to Abu Hurairah, saying that he would be among you, and will be your Imam. The son of Abu Zahab enquired, "Do you know, how he will perform the duties of Imam among you?" I replied, "Please do let me know." He said he would perform the duties with Holy Quran and in the guidance of practise the of Holy Prophet.

(Sahih Muslim, Kitab alIiman, vol. 1 page 137)

Hazrat Abu Huraira^{ra} überliefert, dass der Heilige Prophet^{saw} fragte: "Wie wird es euch ergehen, wenn der Sohn Marias unter euch erscheinen und das Amt eines Imam innehaben wird? Ich sagte es zum Sohn des Abi Ze'b, dieser sagte es zu Zahri und dieser wiederum erzählte es Nafe', dass Abu Huraira^{ra} überlieferte: "Er wird euer Imam und einer von euch sein." Der Sohn des Abu Ze'b sagte: "Wisst ihr, wie er unter euch sein Amt als Imam ausführen wird?" Ich sagte: "Sagen Sie es doch!" Er sagte: "Er wird sein Amt als Imam ausführen mit dem Buch eures Herrn und mit der Praxis (Sunna) eures Propheten." (Sahih Muslim, Kitab alIiman, Bd 1 Seite 137)


5

وَلَوْ تَقُولَ عَلَيْنَا بِعَهْدِ الْأَكْوَافِ لَأَخْذُنَا مِنْهُ بِالْيُمْنِ لَمُثْلِّهِ لَقَطْعَنَا مِنْهُ الْوَتْمَنِ
فَمَا مِنْكُمْ مَنْ أَحَدٌ عَنْهُ حِزِينٌ ⑥ (الحاقة: 45-48)

اور اگر یہ شخص ہماری طرف جھوٹا الہام منسوب کر دیتا، خواہ ایک ہی ہوتا۔ تو ہم یقیناً اس کو دیکھ سے پکڑ لیتے۔ اور اسکی رگ جان کاٹ دیتے۔ اور اس صورت میں تم میں سے کوئی نہ ہوتا جو اسے درمیان میں حائل ہو کر (خدا کی پکڑ سے) بچا سکتا۔

- Sura 69:45 And if he had forged and attributed any sayings to Us,
- Sura 69:46 We would surely have seized him by the right hand,
- Sura 69:47 And then surely We would have severed his life-artery,
- Sura 69:48 And not one of you could have held Us off from him.

- Sura 69:45 Und hätte er irgendwelche Aussprüche in Unserem Namen ersonnen,
- Sura 69:46 Wir hätten ihn gewiss bei der Rechten gefasst,
- Sura 69:47 Und ihm dann die Herzader durchschnitten.
- Sura 69:48 Und keiner von euch hätte (Uns) von ihm abhalten können.



المل المقارعة بالشيوخ ولم ينقل عن أحد من هم معه توقيف الرأي إلا الآتيان بشئون ما يلي
نذكر ذلك قصصاً على أنه من عند الله تعالى وعليه صدقه حوى النبأ
علماء عدلياً لا يقدح في مشئى من الأحداث لات العقلية على ما هو شائط
العلوم العادلة وثانية ما أن نقل عنه من الأمر بالخارقة للعدالة مابين
المشاركة منها أعني ظهور المعتبر تم حل التواتر وإن كانت تناصصها أحلا
الكتبات على وجود حاتم وهي من كورة في كتاب السير وقد يستدل أولاً
البصائر على بعده ببرهانين أحدهما مات وتر من الحول قبل البوءة وحال
الآخرة وبعد تمامها وأخذ قدر العظيمة وأحكام المحبة واقتصرت
تجسيدها ببيان وروى أن رحمة الله تعالى في جميع الأحوال وفاته على حال
لدى الاهوال حيث لم يتجدد على ذلك معاشرة عدل وفق حرصهم على الخصوص
في بعضها وكذا القدر فيه سبلاً فاز بالفضل بغيرهم بانتفاء اجتناب هذه
المسؤولية غير أنها في جميع الأحوال هذه الكمالات في حق من يعلم
أنني فرق على شيء مما لم يشتأه عشرة ثم يطرد فيه على سائر الأدلة زيفه
على اعتدله وبحيثي أثاره بعد موته إلى يوم القيمة وثانية ما ان دل على ذلك
لأمر العظيم بين أظهر قوم لاكتاب لهم ولا حكم معهم وبين نسبي
كتاب والحكم وعلم عن الحكم له والشأن بعده ثم كارثة العدالة وكون
غير أحسن الناس في الشفائل العادلة والعلمية وتوزيع العدالة بين الأديان

قَاتَلَتْهُنَّلِيْجَهُرَبِامْتَنَاعَاجْتَمَاعَهُنَّهَا
 الْأَمْوَالِقُوَّاتِغَلَالَانِيَا عَوَازَتْهُمْعَالَهُتَعْلِيِهِهِنَّهَا الْكَلَافِفِيْحَقِّمِنْيَعْلَمَ
 تَنِيفَةِرِيْعَلِيْشِمِيْهِلَهُشَنَّا عَشَرَتِرِسَنَّةَ

(شرح العقاد میر ان العقاد)

علامہ سعد الدین تفتازانی شرح العقاد میں تحریر فرماتے ہیں:- کہ عقل اس بات کو ناممکن قرار دیتی ہے کہ یہ باتیں ایک غیر نبی میں جمع ہو جائیں اس شخص کے حق میں جس کے متعلق خدا تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ خدا پر افتراء کرتا ہے پھر اس کو تینس سال کی مہلت دے۔

Allama Sa'd-ud-Din Taftazani writes in Sharahul Aqaaid:- The Reason renders it impossible that these things should accumulate in any other than a Prophet, in a person about whom Allah the Exalted knows that he is fabricating a lie upon God and yet grant him a respite for 23 years.

(Sharah ul Aqaid)

Allama Sa'd-ud-Din Taftazani schreibt in Scharhul Aqaaid: "Es ist unvernünftig, zu glauben, dass jemand, der kein Prophet ist, diese Eigenschaften aufweist, er im Namen Gottes lügt, indem er behauptet, von Gott zu sein, und Gott ihm dennoch 23 Jahre Aufschub gewährt."

(Sharah ul Aqaid)

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيعِ الْأَوَّلِينَ ۚ وَمَا يَأْتِيهِمُ مِّنْ رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا يَهُدِّي سَبَّابِعَ ۖ^(۱)
كَذِيلَكَ تَشْكُّهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ۝ (الحجر : 11-13)

اور ہم نے اگلے (زمان کے) لوگوں کی جماعتوں میں (بھی) تجھ سے پہلے رسول بھیجے تھے۔ اور جو رسول بھی ان کے پاس آتا تھا وہ اس کی بُھی اڑاتے تھے۔ اسی طرح ہم اس (عادت استہزا) کو مجرموں کے دلوں میں راح کرتے ہیں۔

Sura 15:11 And We sent Messengers before thee among parties of ancient peoples.
 Sura 15:12 And there never came to them any Messenger but they mocked at him.
 Sura 15:13 Thus do We cause this habit of mocking to enter into the hearts of the sinful people.

Sura 15:11 Wir entsandten schon vor dir (Gesandte) zu früheren Stämmen.
 Sura 15:12 Und nie kam ein Gesandter zu ihnen, über den sie nicht höhnten.
 Sura 15:13 So lassen Wir diese (Sucht, zu höhnen) in die Herzen der Sünder einziehen;

الفتوحات الملكية

التي فتح الله بها على الشيخ الإمام العامل الراسخ الكامل
خاتم الأولياء الوارثين برزخ البرازخ محيي الحق
والدين أبي عبد الله محمد بن علي المعروف بابن عربي
الخاتمي الطائي قدس الله روحه ونور ضريحه آمين

المجلد الثالث

دار صادر
بيروت

يُفلح بهم وهي حالة فقهاء الزمان الراغبين في المناصب من قضاة وشهاده وحسبه وتدر يس وأما المتنفسون منهم بالدين فيجمعون أكاذيبهم وينظرون إلى الناس من طرف خفي نظر المنشاش ويحرر كون شفافهم بذلك كـ[لِيَعْلَمُ النَّاظِرُ الْبِهْمَ اِنْهُمْ ذَكْرُونَ وَيَتَجَمَّعُونَ فِي كَلَاهُمْ وَيَتَشَدَّقُونَ وَيَغْلُبُ عَلَيْهِمْ رَعْوَاتُ النَّفْسِ وَقَلُوبُهُمْ قَلُوبُ النَّاثِبِ لَا يُنْظَرُ إِلَيْهِمْ هَذَا حَالَ الْمُتَدِينِ مِنْهُمْ لَا هُنَّ قُرَنَاءُ الشَّيْطَانِ لَا جَاهِدَةُ اللَّهِ بِهِمْ لَسْوَا لِلنَّاسِ جَلْوَادُ الصَّنْمِ مِنَ الْبَنِينَ الْخَوَانِ الْعَلَانِيَّةِ أَعْدَاءُ السَّرِيرِ قَالَهُ رَاجِعٌ بِهِمْ وَيَأْخُذُ بِنَوَاصِيمِهِ مَا فِيهِ سَعَادَتِهِمْ وَإِذْ تَرَجَّ هَذَا الْإِمَامُ الْمَهْدِيُّ فَلِيَسْ لَهُ عَدُوٌّ مِّنَ الْأَفْقَهَاءِ خَاصَّةً قَانِنُهُمْ لَابْنِي طَرِيقٍ هُمْ عَلَى حُكْمِ الْأَقْلَمِ وَيُرْفَعُ الْمُنْتَلَفُ مِنَ الْعَالَمِ فِي الْحَكَامِ بِوُجُودِهِمْ هَذَا الْإِمَامُ وَلَوْلَا أَنَّ السَّيِّدَ الْمَهْدِيَّ لَفِي الْفَقَهَاءِ بَقَلَهُ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَظْهِرُهُ بِالسَّيِّفِ وَالْكَرْمِ فَيُطْمِعُونَ وَيُخَافُونَ حَكْمَهُمْ مِنْ غَيْرِ إِيمَانِهِمْ بِإِيمَانِهِمْ خَلْفَ كَيْفَيَّلِ الْخَنَفِيَّوْنِ وَالشَّافِيَّوْنِ فِي الْخَلْقِ وَأَفْوَاهِهِمْ يَقْتَلُونَ فِي بَلَادِ الْجَمِيعِ أَحْبَابَ الْمُتَهَبِّينَ وَيَمْوتُ يَنْهَا مَا خَلَقَ كَثِيرٌ وَيَفْطُرُونَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لِيَتَقْوِيَ عَلَى الْقَتْلِ فَشَلَ هُؤُلَاءِ لِوَاقْهِرِ الْإِمَامِ الْمَهْدِيِّ بِالسَّيِّفِ مَاسِمُ الْعَوْدَ وَلَا طَاعَوْهُ بِظَواهِرِهِمْ كَانُوهُمْ لَا يُطِيعُونَهُ بِقَلْبِهِمْ بِلَعْنَتِهِمْ فِيَهُمْ بِغَيْرِ مِنْ ذَهَبِهِمْ إِنَّهُ عَلَى ضَلَالَةِ ذَلِكَ الْحُكْمِ لَا هُنْ يَعْتَدُونَ إِنَّ زَمَانَ أَهْلِ الْإِجْتِهَادِ قَدْ انْقَطَعَ وَمَا بَقِيَ مِنْهُمْ بَعْدَ أَنْ تَمَّ مِنْهُمْ أَحَدُ الدَّرَجَاتِ الْإِجْتِهَادِ وَأَمَانُنَّ يَدِي التَّعْرِيفِ الْأَهْلِيِّ بِالْحَكَامِ الْشَّرِعِيَّةِ فَهُوَ عِنْهُمْ مَغْسُودٌ لِخَيْالِ الْيَافِيِّ فَإِنَّهُمْ كَانُوا مُسَلَّطَيْنَ إِنْقَادُوا فِي الظَّاهِرِ إِلَيْهِ رَغْبَةً فِي مَالٍ وَخَوْفَانِ سُلْطَانِهِمْ وَهُمْ بِوَاطِنِهِمْ كَافِرُونَ بِهِ وَأَمَّا الْبَلْغَةُ وَالْإِسْتِقَاءُ فِي قَضَاءِ حَوْائِجِ النَّاسِ فَإِنَّهُمْ مُتَعِينُونَ عَلَى الْإِمَامِ خَصْوَصًا دُونَ جَمِيعِ النَّاسِ فَإِنَّ اللَّهَ مَاقِدِّمُهُ عَلَى خَلْقِهِ وَنَصِبُهُ أَمَامَ الْمُلْكِ فِي مَالِ الْحَمِيمِ هَذَا وَالَّذِي يَتَجَهُهُ هَذَا السَّيِّفُ عَظِيمٌ وَلِهِ قَصْةُ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ لِمَامِشِي فِي حُقْقِ أَهْلِهِ لِيَطْبَلُ هُمْ نَارًا يَصْ طَلُونَ بِهِادِ يَقْضُونَ بِهِ الْأَمْرُ الَّذِي لَا يَنْقُضُ الْإِهْمَافُ الْعَادَةُ وَمَا كَانَ عِنْهُمْ عَلَيْهِ السَّلَامُ خَيْرٌ عَلَيْهِمْ فَاسْفَرُتْ لَهُ عَاقِبَةً ذَلِكَ الْطَّلْبِ عَنْ كَلَامِ رَبِّهِ كَمَّا هُنَّ تَعَالَى فِي عَيْنِ حَاجَتِهِ وَهِيَ التَّارِفُ الْصُّورَةُ وَلِمَخْطَرِهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ ذَلِكَ الْأَمْرُ يَخَاطِرُ وَأَيْ شَيْءٌ أَعْظَمُ مِنْ هَذَا وَمَا حَاصَلَ لَهُ إِلَّا وَقَتَ السَّيِّفَ فِي حَقِّ عِيَالِهِ لِيَعْلَمَ بِعَاقِبَةِ حَوْائِجِ الْعَالَمِ مِنَ الْفَضْلِ فَيُزِيدُ حِصْرَاصًا فِي سَيِّفِهِ فِي حَقِّهِمْ فَكَانَ ذَلِكَ تَنبِيَهًا مِنَ الْحَقِّ تَعَالَى عَلَى قَدْرِ ذَلِكَ عَنْدَ اللَّهِ تَعَالَى وَعَلَى قَرْبِهِ لَأَنَّهُمْ عَيْدِهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَقَدْ وَكَلَ هَذَا عَلَى الْقِيَامِ بِهِ كَمَا قَاتَلَ عَالَى الرِّجَالِ قَوَامُونَ عَلَى النِّسَاءِ فَاتَّجَهَ لِلْفَارَارِ مِنَ الْأَعْدَاءِ الْطَّالِبِينَ قَتَلَهُ الْحُكْمُ وَالرِّسَالَةُ كَمَا خَبَرَ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَفَرَّتْ مِنْكُمْ لِمَا خَفَتُكُمْ فَوْهَبَ لِيَرْبِي حَكَمًا وَجَلَى مِنَ الْمَرْسَلِيَّنَ وَأَعْطَاهُ السَّيِّفَ عَلَى الْعِيَالِ وَقَضَاهُجَاتِهِ كَمَا لَمَّا تَأْتَ فِي فَرَارِهِ بِنَسْبَةِ حَيْوانِيَّةِ فَرَّتْ نَفْسُهُ مِنَ الْأَعْدَاءِ طَالِبَةً لِلْمُنْجَاهَ وَابْقَاءً لِلْمُلْكِ وَالْمُدَبِّرِ عَلَى النَّفْسِ النَّاطِقَةِ فَسَيِّفَهُ بِنَفْسِهِ فِي حَقِّ الْغَيْرِ لِفَيْدَ حَقِّ أَنْتَهُمْ فَذَارَ أَيْتَمِ السَّلَاطُونَ يَشْغَلُ بِغَيْرِ عِيَتِهِ وَمَا يَتَاجِهُونَ إِلَيْهِ فَأَعْمَلُوا نَفَاهُ قَدْ عَزَّلَهُ الْمُرْتَبَةَ بِهِنَّ الْفَعْلُ وَلَا فَرَقُ يَنْمُونَ الْعَامَةَ وَلَا أَرَادُهُمْ بَنْ عَبْدُ الْعَزِيزِ يَوْمَ لِلْخَلْقِ قَاتَلَهُنَّ يَقِيلُ رَاحَةً لِنَفْسِهِ مَلَعُونَ شَغَلَهُ لَأَبِي أَمْرِ الْمُؤْمِنِيَّنَ أَنْتَ سَتَرْجِعُهُ وَأَحْبَابُ الْحَاجَاتِ عَلَى الْبَابِ مِنْ أَرْدَالِهِ لَأَبِي أَمْرِ النَّاسِ فِي كُلِّ عَمَرٍ وَقَالَ الْمَهْدِيُّ الَّذِي أَخْرَجَ مِنْ ظَهْرِهِ مِنْ شَهْنَهِي وَيَدْعُونَ إِلَى الْحَقِّ وَيَعْنِي عَلَيْهِ فَرَّتِ الْرَّاحَةُ وَخَرَجَ إِلَيْهِ ابْنُهُ فَقَالَ لَهُ أَيُّهَا أَمْرِيَّةُ الْمُؤْمِنِيَّنَ أَنْتَ سَتَرْجِعُهُ وَأَحْبَابُ الْحَاجَاتِ عَلَى الْبَابِ مِنْ أَرْدَالِهِ سَامِنْ نُوحَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ فِي جِيشِ فَيْشَهِ أَمْرِيَّةِ الْجَيْشِ بِرَادِهِمَاءَ وَكَانُوا قَدْ فَرَقُوا الْمُسَاَمِ فَتَرَبَّ مِنْهُ فَعَاشَ إِلَى الْآنَ وَكَانَ لَا يَعْرِفُ مَا خَصَّ اللَّهَ بِهِ مِنَ الْحَيَاةِ شَارَبَ ذَلِكَ الْمَاءَ وَلَقِيَتْ بِالشَّيْلِيَّةِ وَأَفَدَنِيَّةِ الْمُسَاَمِ لِلشَّيْوَخِ وَانْ لَا نَازِعُهُمْ وَكَنْتُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ قَدْ نَازَعْتُ شِيشَالِيَّةَ مِنْ مَسِيلَةِ وَخَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهِ فَلَقِيتُ الْمُخْسِرَ بِقَوْسِ الْخَنِيَّةِ فَقَالَ لِي سَلَمَ إِلَيَّ الشَّيْخُ مَقَاتِلَهُ فَرَجَعَتْ إِلَيْهِ حَيْنِي فَلَمَادَ خَلَتْ عَلَيْهِ مِنْزَلَهُ فَكَاهَنَيْ قَبْلَ أَنْ كَلَمَ وَقَالَ لِي يَا مَحْمَدًا حَاجَتِكَ فِي كُلِّ مَسِيلَةٍ نَازَعْتُ فِيهَا أَنَّ بِو صَيْكَ الْمُخْسِرَ بِالْمُسَاَمِ لِلشَّيْوَخِ فَقَاتَ لَهُ يَاسِ يَدِنَذَلِكَ هُوَ الْمُخْسِرُ

و اذا خرج هذا الامام المهدى فليس له عدوٌ مبين الا الفقهاء خاصة

(فتواهات مكية، جلد 3، صفحه 336)

محى الدین ابن عربی فرماتے ہیں:- کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور پر سوائے علماء کے ان کا کوئی کھلا کھلا دشمن نہیں ہو گا۔ یعنی علماء ہی خصوصیت سے مخالفت کریں گے۔

Hazrat Mohyuddin Ibn Arabi in his book Al-Fatuh-haat-i-Makkiyya Vol.3, Page 336 says: At the appearance of Imam Mahdi none would be his open enemy other than the divines - the religious scholars, in particular.

(Futuhat e Makkiyya, vol. 3, page 336)

Hazrat Muhyuddin Ibn Arabi schreibt in seinem Buch "Al Futuhat-ul Makiyya Bd. III, S.336: "Bei der Ankunft des Imam Mahdi werden vor allem Religionsgelehrte zu seinen offenen Feinden."

(Futuhat e Makkiyya, Bd. 3, Seite 336)

لَقَدْ مِنَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَنْذِلُوا عَلَيْهِمْ بِآيَاتِهِ وَإِذْ كَيْبِرُونَ
وَيَعْلَمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ فَلَمْ يَنْظُرْ لِمُبَيِّنٍ . [٢/١٦٤ آياتُ آلِ عَمَانِ / الْأَذْكُورُ]

صَحَاحُ مُسْلِمٍ

لِإِلَامِ أَبِي الْحَسِينِ مُسْلِمِ بْنِ الْجَاجِ
الْقُشَّيْرِيِّ النِّيَّسَابُورِيِّ

٢٠٦ - ٢٩٠ هـ

(وهو ثاني كتابين، مما أجمع الكتب المصنفة)

«لو أن أهل الحديث يكتبون، ما تلقى سنة،
الحديث ، فدارهم على هذا المسند»

«صنفت هذا المسند الصحيح من
ثلاثمائة ألف حديث بمسوقة»
«مسلم بن المجاج»

ابن حجر الرابع

وقف على طبعه ، وتحقيق نصوصه ، وتصحيحه وترقيمه ،
ومدة كتابة وأبوابه وأحاديثه . وعلى عليه ملخص
شرح الإمام التوروي ، مع زوادات عن أئمة الفقه

(خادم الكتاب والستة)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



* * *

٤٠ - (...) حَدَّثَنَا عَبْيَضُ اللَّهِ بْنُ مُعاذٍ الْعَنْبَرِيُّ . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ فُرَاتِ الْقَزَازِ ، عَنْ أَبِي الطْفَلِ ، عَنْ أَبِي سَرِيحَةَ ، حَدِيفَةَ بْنِ أَسِيدٍ . قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ فِي غُرْفَةٍ وَخَمْنَ أَسْفَلَ مِنْهُ . فَأَطْلَعَ إِلَيْنَا قَوْلَ « مَا تَدْكُونَ ؟ » قَلْنَا : السَّاعَةَ . قَالَ « إِنَّ السَّاعَةَ لَا تَكُونُ حَتَّى تَكُونَ عَشْرَ آيَاتٍ : خَسْفٌ بِإِمْرَقٍ ، وَخَسْفٌ بِالْمَغْرِبِ ، وَخَسْفٌ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ ، وَالْدَّخَانُ ، وَالْدَّجَانُ ، وَدَابَّةُ الْأَرْضِ ، وَيَأْجُوْجَ وَمَأْجُوْجَ ، وَطَلْوَعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا ، وَنَارٌ تَخْرُجُ مِنْ قَفْرَةِ عَدَنٍ (١) تَرْجِلُ النَّاسِ (٤) » .

فَالْمُعْتَدِلُ شُعْبَةُ : وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْفَرِيزِ بْنُ رُفَيْعَ عَنْ أَبِي الطْفَلِ ، عَنْ أَبِي سَرِيحَةَ ، مِثْلَ ذَلِكَ . لَا يَدْكُونُ النَّبِيُّ ﷺ . وَقَالَ أَحَدُهُمَا ، فِي الْمُائِدَةِ : نُرُولُ عِيسَى ابْنَ مُرْيَمَ ﷺ . وَقَالَ الْآخَرُ : وَرِيعُ مُنْقِلِ النَّاسِ فِي الْبَحْرِ .

* * *

(١) (فذكر الدخان) هنا الحديث يؤيد قول من قال: إن الدخان دخان يأخذ بأنفاس الكفار ويأخذ المؤمن منه كهيئة الزكام. وأنه لم يأت بعد. وإنما يكون قريباً من قيام الساعة. وقد سبق في ٥٠، ٣٩، ٤٠ قول من قال هذا وإنكار ابن مسعود عليه. وإيه قال: إنما هو مبارزة بما قال قريشاً من الفحش حتى كانوا يرون بينهم وبين السماء كهيئة الدخان. وقد وافق ابن مسعود جماعة. وقال بالقول الآخر حديفة وابن عمر والحسن. ورواوه حديفة عن النبي ﷺ. وأنه يمكث في الأرض أربعين يوماً. ويختتم أنهما دخانان، للجمع بين هذه الآثار.

(٢) (والدبابة) هي المذكورة في قوله تعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجا لهم دبابة من الأرض تكلمهم: قال الفرسون: هي دبابة عظيمة تخرج من صدع الصفا. وعن ابن عمرو بن العاص؛ أنها الجستاسة المذكورة في حديث الرجال.

(٣) (وآخر ذلك نار تخرج من اليمين نظر الناس إلى محشرهم. وفي رواية: تخرج من قبرة عدن) مكذا هو في الأصول ومعناه من أقصى قبر أرض عدن .. وعدن مدينة معروفة مشهورة باليمين.

(٤) (ترحل الناس) مكذا ضبطناه. وهكذا ضبطه الجهور. وكذا نقله القاضي عن روایتهم. ومعناه تأخذهم بالرحيل وتزعجهم.

حَدِيفَةَ بْنِ أَسِيدٍ . قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غُرْفَةٍ وَنَحْنُ أَسْقَلَ مِنْهُ .
فَأَطْلَعَ إِلَيْنَا فَقَالَ « مَا تَدْكُونَ ؟ » قُلْنَا : السَّاعَةَ . قَالَ « إِنَّ السَّاعَةَ لَا تَكُونُ حَتَّىٰ تَكُونَ عَشْرَ
آيَاتٍ : خَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ ، وَخَسْفٌ بِالْمَغْرِبِ ، وَخَسْفٌ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ ، وَالْدَّخَانُ ، وَالْدَّجَالُ ،
وَدَابَّةُ الْأَرْضِ ، وَيَأْجُوجٌ وَمَاجُوجٌ ، وَطُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا ، وَنَادٍ تَخْرُجُ مِنْ قُمَرَةِ عَدَنِ^(۱)
تَرْحَلُ النَّاسَ^(۲) » .

(مسلم کتاب الفتن و اشراف الساعات، باب آیات قبل الساعات، جلد ۴، صفحہ 2226)

حضرت حدیفہ بن اسید الغفاری بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ ہمارے پاس تشریف لائے ہم باہم گفتگو میں مصروف تھے۔ آپ نے فرمایا کیا باتیں کر رہے ہو ہم نے عرض کیا کہ قیامت کا ذکر کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہو گی۔ یہاں تک کہ اس سے پہلے تم دس نشان دیکھ لو آپ نے تین خسوف مشرق و مغرب اور جزیرۃ العرب میں، دخان، دجال، داب، یا جوں ماجوں، مغرب سے سورج کے طلوع، نزول عیسیٰ بن مریم اور ایک آگ بیان فرمائی جو یہن سے ظاہر ہو گی اور لوگوں کو ان کے اکٹھا ہونے کی جگہ کی طرف ہائے گی۔

Hazrat Huzaifa Bin Usaid al Ghaffari Allah pleased with him, narrated that The Holy Prophet (pbuh) came to us while we were conversing with each other. He asked, " What are you talking about? " We replied, " The the Day of Resurrection. " He answered the Day of Resurrection will not take place unless you have witnessed ten signs: three eclipses in east and west; smoke; anti-Christ (dajjal); and bacteria or virus, Gog and Magog, and the sun rising from the west,descending of Jesus son of Mary; and fire which will be lit from Yemen and will drive people to their place of gathering.

(Muslim, Kitab ul Fitan, vol. 4, page 2226)

Hosaifa bin Osaid alGhaffari^{ra} berichtet, dass der Heilige Prophet^{saw} zu uns kam. Wir unterhielten uns. Er fragte uns: "Worüber unterhaltet ihr euch?" Wir sagten: "Über den Jüngsten Tag." Er sagte hierauf: "Der Jüngste Tag wird nicht eher erscheinen, bis ihr zehn Zeichen wahrgenommen habt: die Mondfinsternis im Osten, die Mondfinsternis im Westen und auf der Halbinsel Arabiens, der Rauch, der Antichrist, Bakterien oder Viren, Gog und Magog, der Sonnenaufgang im Westen, Herabsendung von Marias Sohn und ein Feuer, das aus Jemen seinen Ausgang nehmen wird und die Menschen zu dem Platz ihrer Versammlung bringen wird".

(Muslim, Kitab ul Fitan, Bd. 4, Seite 2226)

٥٢ - كتاب الفتن وأشاراط الساعة (٢٠) باب (١٠٤ - ١٠٠) حدیث

(...) حدثني أبو الربيع وأبو كايل . قالا : حدثنا حماد (وهو ابن زيد) عن أيوب . ع وحدنا محمد بن عبد الله . حدثنا حاتم (يعني ابن إسماعيل) عن موسى بن عقبة . كل لها عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي عليهما السلام . عشل .

* * *

١٠١ - (٢٩٣٣) حذينا محمد بن المثنى و محمد بن بشار . قالا : حدثنا محمد بن جعفر . حدثنا شعبة عن قتادة ، قال : سمعت أنس بن مالك قال : قال رسول الله عليهما السلام « ما من نبي إلا وقد أذر أمته بأغور أشكاذ . إلا إنه أغور وإن ربكم ليس بأغور . ومكتوب بين عينيه كفر » .

* * *

١٠٢ - (...) حذينا ابن المثنى و ابن بشار (والله يحفظ ابن المثنى) . قالا : حدثنا معاذ بن هشام . حدثني أبي عن قتادة . حدثنا أنس بن مالك ؛ أن النبي عليهما السلام قال « الدجال مكتوب بين عينيه لكره . أى كافر » .

* * *

١٠٣ - (...) وحدثني زهير بن حرب . حدثنا عبد الوارث عن شبيب بن الجباب ، عن أنس بن مالك ، قال : قال رسول الله عليهما السلام « الدجال ممسوح العين »^(١) . مكتوب بين عينيه كافر^(٢) . « مهمهم جاهها كفر : « يقرؤه كُلُّ مُسلِّمٍ » .

* * *

١٠٤ - (٢٩٣٤) حذينا محمد بن عبد الله بن تكير و محمد بن الملاع وإسحق بن إبراهيم (قال إسحق : أخبرنا . وقال الآخران : حدثنا) أبو معاوية عن الأعمش ، عن شقيق ، عن حذيفة ، قال :

(١) (مسوح العين) هذه المسوحة هي الطافية (بالهز) التي لا ضوء فيها . وهي أيضاً موصوفة في الرواية الأخرى بأنها ليست حجرا ولا ناتنة .

(٢) (مكتوب بين عينيه كافر) الصحيح الذي عليه المحققون أن هذه الكتابة على ظاهرها . وإنها كتابة حقيقة جعلها الله آية وعلامة من جهة العلامات القاطمة بكفره وكذبه وإبطاله . ويظهرها الله تعالى بكل مسلم كاتب وغير كاتب . ويخفيها عن أراد شقاوه وفتنه . ولا امتناع في ذلك .

٥٢ — كتاب الفتن وأشاراط الساعة (٢٠) بب (١٠٤—١٠٦) حديث

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ « الدَّجَالُ أَعْوَزُ الْمِنْ إِلَيْهِ ». جَفَّالُ الشَّرِّ^(١). مَعَهُ جَنَّةٌ وَنَارٌ . فَنَارُهُ جَنَّةٌ وَجَنَّتُهُ نَارٌ ». * * *

١٠٥ — (...) حَدَّثَنَا أَبُو يَكْرِبٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَرْوَنَ عَنْ أَبِي مَالِكِ الْأَشْجَبِيِّ ، عَنْ رَبِيعِيِّ بْنِ حِرَاشِ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ « لَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا مَعَ الدَّجَالِ مِنْهُ ». مَعَهُ هَرَانٌ يَخْرُجُ يَانِي . أَحَدُهُمَا ، رَأْيَ الْمِنْ ، مَاءٌ أَيْضُنُ . وَالْآخَرُ ، رَأْيَ الْمِنْ ، نَارٌ تَبَاجِحُ . فَإِنَّمَا أَدْرَكَنَّ أَحَدَ^(٢) فَلِيلَاتِ النَّهَارِ الَّتِي يَرَاهُ^(٣) نَارًا وَلَيَمْضِنْ . ثُمَّ يُطَاطِئُ رَأْسَهُ فَيُشَرِّبُ مِنْهُ . فَإِنَّهُ مَاءٌ بَارِدٌ . وَإِنَّ الدَّجَالَ مَمْشُوكٌ الْمِنْ . عَلَيْهَا ظَفَرَةٌ^(٤) غَلِيلَةٌ ، مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ يَقُولُهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ ، كَاتِبٌ وَغَيْرُ كَاتِبٍ ». * * *

١٠٦ — (...) حَدَّثَنَا مُبَيِّنُ الدِّينِ بْنُ مُعَاذٍ . حَدَّثَنَا أَبِي حَمْدَانَ شَمْبَةَ . عَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّشَّيْ (وَالنَّفَظُ لَهُ) . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرَ . حَدَّثَنَا شَمْبَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمِيرٍ ، عَنْ رَبِيعِيِّ بْنِ حِرَاشِ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، عَنِ الدَّنِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ; أَنَّهُ قَالَ ، فِي الدَّجَالِ « إِنَّ مَعَهُ مَاءً وَنَارًا . فَنَارُهُ مَاءٌ بَارِدٌ ، وَمَاءُهُ نَارٌ . فَلَا تَهْلِكُوا » . * * *

(٢٩٣٥) قَالَ أَبُو مَسْنُودٍ : وَإِنَا سَمِنْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ . * * *

(١) (جفال الشر) أي كثيف.

(٢) (فإما أدركنَّ أحد) مكذا هو في أكثر النسخ : أدركنَّ . وفي بعضها : أدركه . وهذا الثاني ظاهر . وأنا الأولى فترب من حيث البرية لأن هذه النون لا تدخل على الفعل الماضي .

(ثالث) قال ابن هشام في المني : ولا يوكل بهما (أي توكيد الحقيقة والقبلة) الماضي مطلقاً . وشدة قوله :

ذَانِئَ سَعْدُكْ لَوْ رَحْتَ عَنِّيْا لَوْ لَائِمْتَ يَكْ لِلْمَبَابَةِ جَانِحاَ اَهْ .

(٣) (يرام) يفتح الياء وضمنها .

(٤) (ظفرة) هي جلة تتشى البعض . وقال الأسماعيلى : لجة تنت فى عند الآفاق .

(١٠٧ - ١١٠) حدث

٥٢ - كتاب الفتن وأشراط الساعة (٢٠) باب

١٠٧ - (٢٩٣٤) حدثنا علي بن حنبل. حدثنا شعيب بن صفوان عن عبد الملك بن عميرة، عن ربي بن جراش، عن عقبة بن عمرو، أبي مسعود الأنصاري، قال: انطلق معه إلى حديفة بن اليمان. فقال له عقبة: حدثني ما سمعت من رسول الله ﷺ في الدجال. قال «إن الدجال يخرج وإن منه ماء وناراً. فاما الذي يراه الناس منه، فناراً يحرق. وأما الذي يراه الناس ناراً، فماء يارد عذب». فمن أدرك ذلك منكم فليقع في الذي يراه ناراً. فإنما ماء عذب طيب».

فقال عقبة: وأنا قد سمعته. أصدقها لحديفة.

١٠٨ - (...) حدثنا علي بن حنبل السعدي ويسحق بن إبراهيم - واللقط لابن حنبل - (قال) لحسين: أخبرنا. وقال ابن حنبل: حدثنا جرير عن المغيرة، عن لمييم بن أبي هند، عن ربي بن جراش، قال: اجتمع حديفة وأبو مسعود. فقال حديفة: «لأنما بما مع الدجال أعلم منه. إن منه» نهرًا من ماء ونهرًا من نار. فاما الذي ترون أنه نار، ماء. وأما الذي ترون أنه ماء، نار؛ فمن أدرك ذلك منكم فراراً الماء فليشرب من الذي يراه أنه نار. فإنما سيجد منه ماء». قال أبو مسعود: هكذا سمعت النبي ﷺ يقول.

١٠٩ - (٢٩٣٦) حدثني محمد بن رافع. حدثنا حسين بن محمد. حدثنا شبيان عن يحيى، عن أبي سلمة، قال: سمعت أبا هريرة قال: قال رسول الله ﷺ «الا أخبركم عن الدجال حدثنا ماحدثه النبي في قومه؟ إنه أعور. وإن الله يحيى ممه من الجنة والنار. فاتي يقول إنها الجنة، هي النار. وإنني أنذركم به كما انذر به نوح قومه».

١١٠ - (٢١٣٧) حدثنا أبو خيثة، زهير بن حرب. حدثنا الوليد بن مسلم. حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر. حدثني يحيى بن جابر الطائي، فأضي حفص. حدثني عبد الرحمن بن جعفر عن أبيه، جعفر بن نقير الحضرمي؛ أنه سمع التوام بن سمعان الكلابي. ع وحدثني محمد بن مهران الرأزي (واللقط له). حدثنا الوليد بن مسلم. حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن يحيى بن جابر الطائي،

(١١٠) حدیث

٥٢ - کتاب الفتن وأشراط الساعة (٢٠) باب

إِنَّهُ شَابٌ قَطَطٌ^(١) . عَيْنُهُ طَافِئَةٌ . كَانَ أَشْبَهُهُ بِعَمْدَالْمَزَرَى بْنِ قَطَنَ . فَمَنْ أَذْرَكَهُ مِنْكُمْ فَلَنْ يَقُولَ أَعْلَمُ
فَوَاتَحَ سُورَةُ الْكَهْفِ . إِنَّهُ خَارِجٌ خَلَةً بَيْنَ الشَّامَ وَالْمَرْاقِ^(٢) . فَمَاتَ يَمِنَا وَعَاثَ شَمَالًا^(٣) .
يَا عِبَادَ اللَّهِ اتَّقِبُّوا « قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! وَمَا لَبَّيْهُ فِي الْأَرْضِ ؟ قَالَ « أَرْبَمُونَ يَوْمًا . يَوْمٌ كَسْنَةٌ .
وَيَوْمٌ كَشْهِيرٌ . وَيَوْمٌ كَجُمِيعٍ . وَسَاعَرٌ أَيَامِهِ كَأَيَامِكُمْ » قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! فَذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَسْنَةٌ ،
أَتَكُفِينَا فِيهِ صَلَادَهُ يَوْمٌ ؟ قَالَ « لَا . اقْدَرُوا لَهُ قَدْرَهُ^(٤) » قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! وَمَا إِسْرَاعُهُ فِي الْأَرْضِ ؟
قَالَ « كَأَغْنِيَتِي اسْتَدْبَرَتِهِ الرَّيْحُ . كَيْأَتِي عَلَى الْقَوْمِ فَيَدْعُوهُمْ ، فَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَحْيِبُونَ لَهُ . كَيْأَمِرُ
السَّمَاءَ فَتُمْطَرُ . وَالْأَرْضَ فَتُتَبَّتُ . فَتَرُوحُ عَلَيْهِمْ سَارِحُهُمْ ، أَطْوَلُ مَا كَانَ ذَرَ^(٥) ، وَأَسْبَبَهُ ضُرُوعًا ،
وَأَمْدَهُ خَوَاصِرَ . مُمِّ يَأْتِي الْقَوْمَ . فَيَدْعُوهُمْ كَيْرُدُونَ عَلَيْهِ فَوْلَهُ . فَيُنَصَّرِفُ عَنْهُمْ . فَيَصْبِحُونَ مُمْحَلِّينَ^(٦) »

(١) (قطط) أي شديد جمودة الشمر ، مباعد للجمودة المحبوبة :

(٢) (إنخراط خلة بين الشام والمراق) هكذا هو في نسخ بلا دنا بخلة . وقال القاضي : المشهور فيه خلة . قبل
مناه مت ذلك وبقائه . وفي كتاب العين : الخلة موضع حزن وصخور . قال : وذكرة المروي وفسره بأنه ما بين
البلدين . هنا آخر مذكرة القاضي . وهذا الذي ذكره عن المروي هو الوجود في نسخ بلا دنا وفي الجم بين الصحيحين
بيانا ، وهو الذي رجحه صاحب نهاية الغريب ، وفسره بالطريق بينهما .

(٣) (فمات يمنينا وعاث شمالا) الحديث الفاسد ، أو أشد الفساد والإسراع فيه . وحكى القاضي أنه رواه بعضهم : فمات
اسم قائل ، وهو يمعنى الأول .

(٤) (اقدروا له قدره) قال القاضي وغيره : هذا حكم مخصوص بذلك اليوم ، شرعه لنا صاحب الشرع . قالوا :
ولولا هذا الحديث ، ووكلانا إلى احتمالنا ، لافتصرنا فيه على الصوات الحس عند الأوقات المرروفة في غيره من الأيام .
ومعنى اقدرها له قدره ، أنه إذا مضى بعد طلوع الفجر قدر ما يكون بينه وبين الظهر كل يوم ، فصلوا الظهر . ثم إذا مضى
بعده قدر ما يكون بينها وبين المغار . فصلوا المغار . وإذا مضى بعد هذا قدر ما يكون بينها وبين المغرب ، فصلوا المغرب .
وكذا المشاء والسبعين ثم الظهر ثم المغار . وهكذا حتى ينتهي ذلك اليوم ، وقد وقع فيه صلوتان سنة ، فرانص
كلها ، مؤداه في وقتها .

أما الثاني الذي كشهر الثالث الذي كجمعة فقياس اليوم الأول أن يقدر لها كالبيوم الأول ، على ما ذكرناه .

(٥) (فتروح عليهم سارحهم أحول ما كانت ذرال) أما تروح فمتناه ترجع آخر النهار . والسارحة هي الماشية التي
تسرح ، أي تذهب أول النهار إلى المراعي . والنذر الأعلى والأسمدة جمع ذروة ، بالضم والكسر . وأسبابه أي أطواله لكتلة
البن ، وكذا أندية خواص ، لكتنة امتلاها من الشبع .

(٦) (فيصبحون محلين) قال القاضي : أي أصابهم الحال ، من قلة الطر ، وبيس الأرض من الكلأ . وفي
القاموس : الحال ، على وزن خل ، الجدب والقطخط . والإعمال كون الأرض ذات جدب وقطخط . يقال أعمل البلد إذا جدب .

٥٢ - كتاب الفتن وأشرطة الساعة (٢٠) باب (١١٠) حديث

لِئِنْ يَأْتِيهِمْ شَيْءٌ مِّنْ أَمْوَالِهِمْ . وَيَرُوُا بِالخَرْبَةِ فَيَقُولُ لَهَا : أَخْرِجِي كُنُوزَكِ . فَتَبَيَّنَهُ كُنُوزُهَا كِيمَاسِبَ النَّحْلِ^(١) . مُمْدُودُ رَجُلًا مُمْتَلِئًا شَبَابًا . فَيَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ فَيَقْطَعُهُ جَزَاتِيْنِ رَمِيَّةً الْغَرَضِ^(٢) . مُمْدُودُهُ فَيُقْبَلُ وَيَتَهَلَّ وَجْهُهُ . يَضْحَكُ . فَيَنْتَهِي هُوَ كَذَلِكَ إِذْ يَمْتَأْتِي اللَّهُ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ . فَيَنْزَلُ عِنْدَ الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءَ شَرْقَ دِمْشَقَ . يَنْهَا هَرْوَدَتَيْنِ^(٣) . وَاصْنَعَا كَفِيْهِ عَلَى أَجْنَحَةِ مَلَكَتِينِ . إِذَا طَأْتَ رَأْسَهُ قَطَرَ . وَإِذَا رَفَعَهُ تَحْدَرَ مِنْهُ جُمَانٌ كَالْلُؤُلُؤِ^(٤) . فَلَا يَجِدُ^(٥) لِكَافِرٍ يَحْدُرُ بَيْنَ نَفَسِهِ إِلَّا مَاتَ . وَنَفْسُهُ يَنْتَهِي حَيْثُ يَنْتَهِ طَرْفُهُ . فَيَطْلُبُهُ حَتَّى يُدْرِكَهُ بَيْبَابُ الْهُدَى^(٦) . فَيُقْتَلُهُ . مُمْدُودًا عَلَى عِصَمِ ابْنِ مَرْيَمَ قَوْمٌ قَدْ عَصَمَهُمُ اللَّهُ مِنْهُ . فَيَمْسِحُ عَنْ وُجُوهِهِمْ^(٧) وَيَحْدَدُهُمْ بِدَرَجَاتِهِمْ فِي الْجَنَّةِ . فَيَنْتَهِي هُوَ كَذَلِكَ إِذَا أَوْحَى اللَّهُ إِلَى عِيسَىٰ : إِنِّي قَدْ أَخْرَجْتُ عِبَادَتِي ، لَا يَدَانِ لِأَحَدٍ بَعْتَاهُمْ^(٨) . فَهَرَبَ عِبَادَتِي إِلَى الطُّورِ^(٩) .

(١) (كيماسي النحل) هي ذكر النحل . هكذا فسره ابن قتيبة وآخرون . قال القاضي : المراد جماعة النحل ، لا ذكورها خاصة . لكنه كثي عن الجماعة باليمسوب ، وهو أمرها .

(٢) (فيقطه جزئين رمية الفرض) الجزلة ، بالفتح على الشهور . وحكي ابن داود كسرها ، أى قطعتين . وممكِّنة الفرض أنه يحمل بين الجزئين مقدار رمية . هذا هو الظاهر الشهور . وحكي القاعي هذا ثم قال : وعندى أن فيه تقييمًا وتأخيرًا . وقدرته : فيصيّب إصابة رمية الفرض بقطبه جزئين . وال الصحيح الأول .

(٣) فينزل عدد النارة البيضاء شرقًّا دمشق بين مهر وذينٍ هذه النارة موجودة اليوم شرقًّا دمشق والهروatan رزوبي بالدال المهملة والدال المجمعة . والمهملة أكتر . والوجهان مشهوران للمتقدمين والتأخرن من أهل اللغة والغريب وغيرهم . وأكتر ما يقع في النسخ بالهملة ، كما هو الشهور . ومنها لابس مهر وذين أي ثوبين مصبوغين بورس مم بزغافان . وقبل : هما ندقantan ، والشقة نصف الملاة .

(٤) (مُحَدِّرْ مِنْ جَانِ كَالْلَوْا) الجان حبات من الفضة تصنع على هيئة الثلوث السكريار . والمراد يتحدر منه الماء على هيئة الثلوث في عصافيره . فسمى الماء جانا لشبيه به في الصفاء والحسن .

(٥) (فلا يحمل) معنى لا يحمل ، لا يعken ولا يقع . وقال القاضي : معناه ، عندى ، حق وواجب .

(٦) (باب لـ) مصروف . بلدة فريدة من بيت القدس .

(٧) فيمسح عن وجههم قال القاضي: يتحمل أن هذا المسح حقيقة على ظاهره . فيمسح على وجههم تبركاً ويرضاً . يتحمل أنه إشاره إلى كشف ما هم فيه من الشدة والمحن .

(٨) لا يدان لأحد بقتالهم (يدان ثانية) بد - قال الماء : معناء لا قدرة ولا طاقة . يقال : مالي بهذا الأمر بد ، مالي به سان ، لأن الماء قد أهلكوا بكثير الناس . ولكن دعوه من هنا أسماءه ، فهو

(٩) (غُرَز عَبَادِي إِلَى الطَّوْر) أَيْ ضَمْهُمْ وَاجْلَهُمْ حَرْزاً. يَقَالُ: أَحْرَزَتِ الشَّيْءَ أَحْرَزَهُ إِحْرَازًا، إِذَا حَفَظَهُ وَضَعَمَهُ لَكَ، وَصَنَعَهُ عَلَى الْأَخْدَنَ.

(١١٠) حدیث

٥٣ - کتاب الفتن وأشراط الساعة . (٢٠) باب

وَيَعْمَلُ اللَّهُ يَأْجُوجَ وَمَاجُوجَ . وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ^(١) . فَيَمْرُأُوا نَائِمُهُمْ عَلَى بَحْرِيَّةٍ طَبْرِيَّةٍ . فَيَسْرُبُونَ مَا فِيهَا . وَيَمْرُأُ آخِرُهُمْ فِيهَا وَلَوْنَ . لَقَدْ كَانَ بِهِذِهِ، مَرَّةً، مَارَةً . وَيُخَصِّرُ نَبِيُّ اللَّهِ عِيسَى وَاصْحَابُهُ . حَتَّى يَكُونُ رَأْسُ الْمَوْرِ لِأَهْدِهِمْ خَيْرًا مِنْ مِائَةِ دِينَارٍ لِأَهْدِكُمُ الْيَوْمَ . فَيَرْغَبُ عَنْ نَبِيِّ اللَّهِ عِيسَى وَاصْحَابُهُ . فَيُرْسِلُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ النَّفَّ^(٢) فِي رِفَاهِهِمْ . فَيُصْبِحُونَ فَرْمَى^(٤) كَمَوْنَتِ نَفْسٍ وَاحِدَةً . هُمْ يَهْبِطُونَ نَبِيُّ اللَّهِ عِيسَى وَاصْحَابُهُ إِلَى الْأَرْضِ . فَلَا يَجِدُونَ فِي الْأَرْضِ مَوْضِعًا شَبِيرًا إِلَّا مَلَدَّهُمْ^(٥) وَتَنْهِمُ . فَيَرْغَبُ نَبِيُّ اللَّهِ عِيسَى وَاصْحَابُهُ إِلَى اللَّهِ . فَيُرْسِلُ اللَّهُ طَيْرًا كَأَعْنَاقِ الْبَحْتِ^(٦) . فَتَحَمِّلُهُمْ فَتَطْرُحُهُمْ حَيْثُ شَاءَ اللَّهُ . هُمْ يُرْسِلُ اللَّهُ مَطَرًا لَا يَكُنْ^(٧) مِنْهُ يَبْتُ مَدَرًا^(٨) وَلَا وَبَرًا . فَيُرْسِلُ الْأَرْضَ حَتَّى يَنْتَهِ كَمَا كَانَ لَهُ^(٩) . هُمْ يُقالُ لِلْأَرْضِ: أَنْبَتَ تَمَرَّاتِكِ، وَرَدَّى بَرَّ كَتَكِ . فَيَوْمَ يَذْتَأْلُ كُلُّ الْمِصَابَةَ^(١٠) مِنْ الرُّمَّانَةِ

٥٢ - كِتَابُ الْمُتَّقِينَ وَأَشْرَاطُ السَّاعَةِ (٢١) بَابٌ (١١٣ - ١١٢) حَدِيثٌ

(٢١) بَابٌ فِي مَنَفِ الرِّجَالِ، وَغَمْرِ الْمَدِينَةِ عَلَيْهِ، وَقَنْدِ الْمُؤْمِنِ وَإِيمَانِهِ

١١٢ - (٢٩٣٨) حَدَّثَنِي عَمْرُو التَّائِدُ وَالْمُحَسَّنُ الْمَلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ مُعَيْدٍ وَالْفَاظُومُ مُتَقَارِبَةُ .
وَالسَّيَّافُ لِعَبْدِهِ (قَالَ : حَدَّتَنِي . وَقَالَ الْآخَرُ أَنِّي : حَدَّثْنَا) يَقُولُ . وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ .
حَدَّثْنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ ، عَنْ أَبْنِ شَهَابٍ . أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ عَبْتَةَ ؛ أَنَّ أَبَا سَعِيدَ الْخُدْرَى
قَالَ : حَدَّثْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا حَدَّثَنَا طَوِيلًا عَنِ الدَّجَالِ . فَكَانَ فِيمَا حَدَّثْنَا قَالَ « يَا أَيُّهَا وَهُوَ عَرَمٌ
عَلَيْهِ أَنْ يَدْخُلَ نِقَابَ الْمَدِينَةِ »^(١) . فَيَنْتَهِي إِلَى بَعْضِ السَّبَّاحِ الَّتِي تَلَى الْمَدِينَةَ . فَيَخْرُجُ إِلَيْهِ يَوْمَئِذٍ
رَجُلٌ هُوَ خَيْرُ النَّاسِ ، أَوْ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ . فَيَقُولُ لَهُ : أَشْهَدُ أَنَّكَ الدَّجَالُ الَّذِي حَدَّثْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
حَدِيثَهُ . يَقُولُ الدَّجَالُ : أَرَأَيْتُمْ إِنْ قَتَلْتُ هَذَا مِمَّا أَحْيَتْنِيهِ، أَتَشْكُونَ فِي الْأَزْرِ؟ فَيَقُولُونَ : لَا . قَالَ
فَيَقْتُلُهُمْ يَحْيِيهِ . فَيَقُولُ حِينَ يَحْيِيهِ : وَاللَّهِ ! مَا كُنْتُ فِيكُثُرْ فَطَ أَشَدَّ بَصِيرَةً مِنِّي الْآنَ . قَالَ كَثِيرِهِ
الدَّجَالُ أَنْ يَقْتُلَهُ فَلَا يُسْلِطُ عَلَيْهِ » .

قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ^(٢) : يُقَالُ إِنَّ هَذَا الرَّجُلُ هُوَ الْحَاضِرُ عَلَيْهِ السَّلَامُ .

...) وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِيُّ . أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانَ . أَخْبَرَنَا شَعِيبُ عَنِ الزَّهْرَىِ
فِي هَذَا الْإِسْنَادِ، عَنْهُ .

١١٣ - (...) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَهْرَاءَ، مِنْ أَهْلِ مَرْوَةِ . حَدَّثْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرَانَ عَنْ
أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبِي الْوَدَّاكَ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرَىِ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
« يَخْرُجُ الدَّجَالُ فَيَتَوَجَّهُ قَبْلَهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ . فَتَلَقَّاهُ الْمَسَالِحُ »^(٣)، مَسَالِحُ الدَّجَالِ . فَيَقُولُونَ لَهُ :

(١) (نِقَابُ الْمَدِينَةِ) أَيْ طَرْفَهَا وَبَاقِيَهَا . وَهُوَ بَعْضُ ثَقَلَيْهِ . وَهُوَ الطَّرِيقُ بَيْنِ جَبَنَ وَ

(٢) (قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ) أَبُو إِسْحَاقَ هَذَا هُوَ إِبْرَاهِيمَ بْنُ سَفِيَّانَ، رَاوِي الْكِتَابِ عَنْ مُسْلِمٍ . وَكَذَّا قَالَ مُعَرِّفُ فِي جَامِعِهِ .
فِي إِنْهَا الْحَدِيثِ ، كَذَّكَرَهُ أَبُو سَفِيَّانَ .

وَهُذَا تَعْرِيْخٌ مِنْ بَعْدِ حَيَاةِ الْحَاضِرِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ .

(٣) (الْمَسَالِحُ) الْمَسَالِحُ قَوْمٌ مِنْهُمْ سَالِحٌ ، يَرْبُّونَ فِي الْمَارِكَرِ كَالْمُفْرَادِ . سَمِوا بِذَلِكَ حَلْمَهُ الْمَسَالِحِ .

٥٣ - كتاب الفتن وأشراط الساعة (٢٣ - ٤٤) باب (١١٤ - ١١٦) حدث

إِنْ مَعَهُ الطَّمَامَ وَالْأَنْهَارَ . قَالَ « هُوَ أَهُونَ عَلَى اللَّهِ مِنْ ذَلِكَ »^(١) .

* * *

١١٥ - (..) حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ . حَدَّثَنَا هُشَيمٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ الْمُغَيْرَةِ بْنِ شَعْبَةَ، قَالَ : مَا سَأَلَ أَحَدَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الدَّجَالِ أَكْثَرَ إِمَّا سَأَلَهُ . قَالَ « وَمَا سُوَالَ اللَّهَ ؟ » قَالَ قُلْتُ : إِنَّهُمْ يَقُولُونَ مَعَهُ جِبَالٌ مِنْ خُبْرٍ وَلَحْمٍ، وَهَرَدٌ مِنْ مَاءٍ . قَالَ « هُوَ أَهُونَ عَلَى اللَّهِ مِنْ ذَلِكَ » .

* * *

(..) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ تُمَيْزَرَ . قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ . حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ . حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي هُمَرَ . حَدَّثَنَا سُفيَانُ . حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَرْمَوْنَ . حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ . حَدَّثَنَا أَبُو أَسَمَّةَ . كُلُّهُمْ عَنْ إِسْمَاعِيلَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، تَحْوِي حَدِيثَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ . وَزَادَ فِي حَدِيثِ يَزِيدٍ : فَقَالَ لِي « أَيْ مُبَنِّي » .

* * *

(٢٣) باب في مdroوح الدجال وملائكة في الأرض ، ونزل عيسى وقدر إيه ، وذهاب أهل الخبر والبرمان ، وبقاء شرار الناس وعيالهم الأرواح ، والفتح في الصور ، وبعث من في القبور

١١٦ - (٢٩٤٠) حَدَّثَنَا عَبْيَدُ اللَّهِ بْنُ مُعاَذَ الْمُبَرَّئِ . حَدَّثَنَا شَعْبَةَ عَنِ الثَّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ يَقْوِبَ بْنَ عَاصِمَ بْنَ عُرْوَةَ بْنَ مَسْعُودَ التَّقِيِّ يَقُولُ : سَمِعْتُ عَبْيَدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو ، وَجَاهَهُ رَجُلٌ فَقَالَ : مَا هَذَا الْحَدِيثُ الَّذِي تَحْدَثَ بِهِ ؟ فَقَوْلُ : إِنَّ السَّاعَةَ تَقُومُ إِلَى كَذَا وَكَذَا . قَالَ : سُبْحَانَ اللَّهِ أَوْلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ . أَوْ كَلِمَةَ تَحْوِيْهَا . لَقَدْ هَمَتْ أَنْ لَا أَحْدَثَ أَحَدًا شَيْئًا أَبْدًا . إِنَّمَا قُلْتُ : إِنَّكُمْ سَتَرُونَ بَعْدَ قَلِيلٍ أَمْ أَعْظَمُهُمْ . يُحْرَقُ أَبْيَتُ، وَيَكُونُ، وَيَكُونُ . ثُمَّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ « يَخْرُجُ الدَّجَالُ فِي أَمَّيٍّ فَيُمْكِنُهُ أَزْبَعِينَ (لَا أَذْرِي : أَرْبَعِينَ يَوْمًا ، أَوْ أَرْبَعِينَ شَهْرًا ، أَوْ أَرْبَعِينَ عَاماً) .

(١) (هو أهون على الله من ذلك) قال القاضي : معناه هو أهون على الله من أن يجعل ما خلقه الله تعالى على يده مُضلاً لمؤمنين ومشككاً لقولهم . بل إنما جعله له لزيادة الذين آمنوا إيماناً . وثبتت الحجة على الساكرين والمنافقين ومحوم . وليس معناه أنه ليس منه شيء من ذلك .

أَمْتَهُ الْأَعْوَرُ الْكَذَّابُ أَلَا إِنَّهُ أَعْوَرُ وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرٍ وَمَكْثُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَفْرٌ

(*صحیح مسلم، کتاب الفتن و اشراط الساعۃ، باب ذکر الدجال، جلد ۴ صفحہ ۲۲۴۸*)

وَإِنَّهُ يَخْسِيُ مَعَهُ مِثْلَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ . فَأَلَّا تَرَى يَقُولُ إِنَّهَا الْجَنَّةُ ، هِيَ النَّارُ .

(الصفحة 2250)

«إِنَّ الدَّجَّالَ يَخْرُجُ .

وَإِنْ مَمَّا مَأْتَنَا وَنَارًا. فَأَمَّا الَّذِي يَرَاهُ النَّاسُ مُمَاءً، فَنَارٌ تُحْرِقُ. وَأَمَّا الَّذِي يَرَاهُ النَّاسُ نَارًا، فَمَاءٌ بَارِدٌ عَذْبٌ. فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَلَيَقُمْ فِي الَّذِي يَرَاهُ نَارًا. فَإِنَّهُ مَاءٌ عَذْبٌ طَّيْبٌ»

(الصفحة 2250)

وَإِنَّ الْمَجَالَ مَسْوُخٌ لِلْعَيْنِ. عَيْنَاهَا ظَفَرَةٌ^(٤) عَلِيلَةٌ، مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَاوِيْرٌ يَقْرُوهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ،

(الصَّفْحَةُ 2249)

فَمَنْ أَذْرَكَهُ مِنْكُمْ فَلَيَقْرَأْ عَلَيْهِ فَوَاحِدَةٌ سُورَةُ الْكَهْفِ .

(الصَّفْحَةُ 2252)

فَيَأْمُرُ السَّمَاءَ فَتُمْطَرُ . وَالْأَرْضَ فَتُنْبَتُ .

(الصفحة 2252)

وَيَعْرُثُ بِالْخُرْبَةِ فَيَقُولُ لَهَا : أَخْرِجِي كُنُوزَكِ . فَتَبْعَثُهُ كُنُوزُهَا كَيْمَاسِبِ النَّحْلِ^(١)

(ایضاً صفحہ 2253)

فَيَقُولُ اللَّهُجَانُ : أَرَأَيْتُ إِنْ قَتَلْتُ هَذَا نَمًّا أَحْيَيْتُهُ ، أَنْشَكُونَ فِي الْأَرْضِ ؟ فَيَقُولُونَ : لَا . قَالَ فِي قَتْلِهِ نَمًّا يُحْيِيهِ :

(ایضاً صفحہ 2256)

مَعَهُ جِبَالٌ مِنْ خُبْزٍ وَلَحْمٍ ، وَهَرَّ مِنْ مَاءٍ .

(ایضاً صفحہ 2258)

ایک علامت مسیح موعود کی یہ بیان کی گئی تھی کہ اُس زمانہ میں دجال کا خروج ہو گا۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے صحابہؓ کو مناطب کر کے فرمایا کہ:-

یعنی کوئی نبی نہیں گزار جس نے اپنی امت کو یک چشم کذاب سے نہ ڈرایا ہو۔ خبردار ہوشیار ہو کر شن لو کہ وہ یک چشم ہے مگر تمہارا رب یک چشم نہیں۔ اس کی آنکھوں کے درمیان ک، ف، ر لکھا ہو گا اور ایک روایت میں ہے کہ وہ اپنے ساتھ جنت اور نار کی امثال لائے گا۔ مگر جس چیز کو وہ جنت کہے گا وہ دراصل نار ہو گی اور ایک روایت میں ہے کہ دجال خرون کریگا اور اس کے ساتھ پانی اور آگ ہونگے مگر وہ چیز جو لوگوں کو پانی نظر آئیگی وہ دراصل جلانے والی آگ ہو گی اور وہ جسے لوگ آگ سمجھیں گے وہ خنثی اور میٹھا پانی ہو گا اور دجال کی ایک آنکھ بیٹھی ہوئی ہو گی اور اس پر ایک بڑا ناخن سا ہو گا اور اس کی آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہو گا جسے ہر مومن پڑھ سکے گا۔ خواہ وہ لکھا پڑھا ہو یا نہ ہو اور ایک روایت میں ہے کہ دجال دائیں آنکھ سے کانا ہو گا۔ پس جب تم میں سے کوئی اسے پائے تو اس پر سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے کیونکہ سورہ کہف کی ابتدائی آیات اس کے فتنے سے تم کو چانے والی ہو گی اور ایک روایت میں ہے کہ دجال آسمان (یعنی بادل) کو حکم دیگا کہ پانی بر سارو وہ بر سارے گا اور زمین کو حکم دے گا تو آنکھے گی اور کھنڈ رات پر گذرے گا اور حکم کریگا کہ اپنے خزانے باہر نکال تو اسکے خزانے باہر نکل کر اس کے پیچھے ہو لیں گے اور ایک روایت ہے کہ دجال لوگوں سے کہے گا کہ دیکھو اگر میں اس شخص کو قتل کر دوں اور پھر زندہ کر دوں تو کیا تم میرے امر میں شک کرو گے؟ لوگ کہیں گے۔ نہیں۔ پھر وہ اسے مارے گا اور پھر دوبارہ زندہ کر دے گا اور ایک روایت میں ہے کہ اس کے ساتھ ایک پیڑا روٹیوں کا ہو گا اور ایک نہر پانی کی ہو گی اور ایک روایت میں ہے کہ دجال ایک پچھدار گدھے پر ظاہر ہو گا اور وہ گدھا ایسا ہو گا کہ اس کے دو کانوں کے درمیان ستر ہاتھ کا فاصلہ ہو گا۔“

One sign about the advent of the Promised Messiah, peace be upon him, had been mentioned that Dajjal would emerge at that time. Thus according to a Tradition, the Holy Prophet, peace and blessings of Allah be upon him, addressing his companions, said:- "There has not been a Prophet who did not forewarn his community about an one-eyed liar. Beware and hearken attentively that he has only one eye but your Lord is not a one-eyed one. The letter "K.F.R" will be seen inscribed between his eyes, and according to a Tradition, he will bring alongwith him the like of Heaven and Hell. But the thing which he will call Heaven will actually be Hell. And there is another Tradition to the effect that Dajjal will emerge and that he will be accompanied with water and fire; but that thing which will appear to the people as water, will be actually the fire which burns, and the thing which people will regard as fire, will be cool and sweet water. And one eye of Dajjal will be depressed and there will be a kind of a big mark over it and there will be inscribed "KAFIR" between his eyes which every believer will be able to read whether he is literate or illiterate. And according to another Tradition, Dajjal will be blind in his right eye. Thus, when any one of you happen to find him, you should recite the first verses of surah Al-Kahf because these first verses of Surah AlKahf will make you safe from his mischief. There is another Tradition, which says, that Dajjal will command the sky i.e. the clouds to pour rain and the sky will pour rain. And he will command land to grow food and she will grow food, and he will pass through over the ruins and command them to bring forth its treasures, and its treasures will come forth and start following him. And there is a Tradition that Dajjal will say to the people that if I were to slay a person and then curse him to come alive, then will you entertain any doubt about this matter of mine. The people will reply 'No'. Then he will kill him and then revive him again. And another Tradition says that he will have a mountain of bread and a canal of water. And there is a Tradition that Dajjal will appear sitting on a shining ass and that ass will be such that there will be a distance of 70 feet between his two ears.

(Sahih Muslim Kitab Fitan wal Ishrat alSaat, vol 4 page 2249-2258)

Ein Zeichen für die Ankunft des Messias ist das Erscheinen des Anti-Christen (Dajjal) zu jener Zeit. In einer Überlieferung wird deshalb berichtet, dass der Heilige Prophet^{saw} sagte: "Es gibt keinen Propheten, der nicht seine Anhänger vor dem einäugigen (im Arabischen wird der dajjal auch als a'awaro bezeichnet, d.h. dass er zwei Augen hat, eines jedoch erblindet ist) Lügner gewarnt hat. Seid vorsichtig, er ist einäugig, aber euer Herr ist nicht einäugig. Seid vorsichtig und vernehmt, dass die Buchstaben K F R zwischen seinen beiden Augen geschrieben sein werden. In einer Überlieferung heißt es, er werde dem Paradies und dem Feuer ähnelnde Dinge mit sich bringen. Aber das, was er Paradies nennen wird, ist in Wirklichkeit die Hölle. In einer anderen Überlieferung heißt es, dass der Antichrist kommen wird, und mit ihm werden Wasser und Feuer sein. Aber das, was die Menschen für Wasser halten werden, wird eigentlich brennendes Feuer sein und das, was die Menschen für Feuer halten werden, wird eigentlich kühles und süßes Wasser sein. Eines seiner

Augen wird zurückentwickelt sein. Es wird ein Zeichen über dem Auge geben und es wird KAFIR zwischen seinen Augen geschrieben stehen. Jeder Gläubige wird es lesen können, ob er des Lesens kundig ist oder nicht. In einer anderen Überlieferung wird ferner berichtet, dass der Antichrist auf seinem rechten Auge blind sein wird. Wenn ihr ihn findet, so rezitiert die Anfangsverse der Sura Kahf. Die Anfangsverse der Sura Kahf werden euch vor seiner Fitna (Unheil) schützen. In einer weiteren Überlieferung heißt es, er werde im Himmel (d.h. Wolken) sagen "regnet" und sie werden regnen, und er werde der Erde sagen "bring hervor" und sie wird hervorbringen. Und er wird über die Ruinen gehen und ihnen sagen: "Gebt eure Schätze heraus" und die Schätze werden hevorkommen und ihm folgen. Nach einer anderen Überlieferung wird der Antichrist zu den Menschen sagen: Wenn ich diesen Menschen töte und ihn wieder belebe, werdet ihr daran zweifeln? Die Menschen werden antworten: "Nein!" Dann wird er ihn töten und wieder beleben. In einer Überlieferung heißt es, er wird einen Berg von Brot haben und einen Wasserkanal. In einer Überlieferung wird berichtet, der Antichrist wird auf einem glänzenden Esel erscheinen und dieser Esel wird so aussehen, dass zwischen seinen zwei Ohren ein Abstand von siebzig Ellen besteht."

(Sahih Muslim, Kitab Fitan wal Ishrat alSaat, Bd 4 Seite 2249-2258)

الْمَسْتَشْلُ الْأَمْلَاحَلْزَخْنَلْ

وَبِهَا مِشِّهٌ
منْشَبَ كَنْزَ الْعَمَالِ فِي سُنْنِ الْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ

المَحَلَّدُ الرَّابِعُ

دارِ صَادِرٍ
بِيرُوْتٍ

*(باب في غزواته صلى الله عليه وسلم وبعده، ومراحله *عدد الغزوات)* عن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا ناسع عشرة غزوة (ش) *عن أبي سعيد عن زيد بن أرقم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا سبع عشرة غزوة قال أبو سعيد فسألت زيد بن أرقم كم غزرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سبع عشرة غزوة (ش) *عن أبي بقير أبي سعيد عن عثمان قال سأله موسى من أنس كم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سبع (٩٦) وعشرون غزوة ثانية غزوات يعقب فيها الاشهر وتشع عشرة غزوة يعقب فيها الايام فلت كم غزا

أنس بن مالك قال شان
غزوات (كر) (غزوة بدر) *

عن أنس قال أخذ ذئب
بعذنا عن أهل بدر قال إن
كان رسول الله صلى الله عليه
وسلم ليرثنا مصارعه - م
بالامس يقول هذا مصرع
ذلان غدان شاه الله وهذا
نصرع فلان غدان شاه الله
بلغوا بسرور علامات
والذى يعتن بالحق ما أخفاوا
توك كافوا بصر عن علها
ثم أصبهم فغار حواري ثم
فانطلق اليهم فقال بافلان
مافلات هل وجلدت ما وعدكم
الله حقا فاني وجئت ما
وعدن التحالفات يارسول
الله أسلام أقواما قد جيفوا
قال ما أئتم باسم لما أقول
منهم ولكن لا يستطيعون
أن يحيوا (ط شرم ن)
أوغواتنزع) وإن حرر
*عن ابن عباس قال حدثني
عمر بن الخطاب قال كان
يوم بدر نظر النبي صلى الله
عليه وسلم إلى أصحابه وهم
ثلاثمائة في ونظر إلى
المشركين فإذا هم ألف
وزيادة فاستقبل على الله
عاصيه وسلم القبلة ومدينه
وعليه رداءه وازاره ثم قال

اللهم اخربنا وعذرنا إلهي
إستبشر به ويدعوه حتى سقط رداءه فلما أتي بدر فاخت رداءه ثم التزم من رأيه ثم قال يا أيها الله كمال مناشد تذكر له فانه سيخبرك
ما وعلد وأتيل الله عنده ذلك اذ تستغيثون بكم فاسخلكم اكي عذكم بالآسف من الملايين دفين فلما كان يوم ذلك واهزم المشركين
وقتل منهم سبعون رجلا رسمهم سبعون رجلا سشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا يكر وعليه عمر فقال أبو يكر يا بني الله ولاه بنواه

اللهم اخربنا وعذرنا إلهي
إستبشر به ويدعوه حتى سقط رداءه فلما أتي بدر فاخت رداءه ثم التزم من رأيه ثم قال يا أيها الله كمال مناشد تذكر له فانه سيخبرك
ما وعلد وأتيل الله عنده ذلك اذ تستغيثون بكم فاسخلكم اكي عذكم بالآسف من الملايين دفين فلما كان يوم ذلك واهزم المشركين
وقتل منهم سبعون رجلا رسمهم سبعون رجلا سشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا يكر وعليه عمر فقال أبو يكر يا بني الله ولاه بنواه

فَالْفَالْفَالْرَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَنْ مَاتَ بِغَيْرِ إِيمَانٍ مَا تَمَتْ مِيتَةً جَاهِلَةً

(مسند احمد بن حنبل، جلد 4 زیر عنوان حدیث معاویہ بن ابی سفیان، صفحہ 96)

رسول کریمؐ نے فرمایا:- جو کوئی بھی امام (پر ایمان لانے) کے بغیر مر گیا تو وہ جاہلیت کی موت مرار۔

The Holy Prophet (pbuh) said :The one who dies without (recognising and accepting) the Imam of the time, dies in ignorance.

(Musnad Ahmad ibn Hanbal, vol. 4, page 96)

Der Heilige Prophet^{saw} sagte: "Wer ohne den Imam zu erkennen stirbt, stirbt einen Tod der Unwissenheit."

(Musnad Ahmad ibn Hanbal, Bd. 4, Seite 96)

صَحْيَ الْبَخَارِيٍّ

تألِيف

الإِمامُ الْحَافِظُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدِ الْبَخَارِيٍّ
"الترنيَّةُ سنَة٥٢٥٦هـ"

مراجعةً وضبطاً وفهرساً

الشِّيخُ مُحَمَّدُ عَلِيُّ الْقَطْبُ الشِّيخُ هَشَامُ الْبَخَارِيٍّ

الجزءُ الثانِي

المكتبة العصرية

مكنا - بيروت

١٠٧٣

كتاب أحاديث الأنبياء

1073

عَرَأَةَ غُزْلًا، ثُمَّ قَرَأَ: «كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقِنَا يُعِيدُهُ وَعَدَّا عَلَيْنَا إِنَّا كَنَّا فَعَلَيْنَ». (١) فَأَوْلُ مَنْ يُخْسِي إِبْرَاهِيمَ، ثُمَّ يُؤْخَذُ بِرِحْالٍ مِّنْ أَصْحَابِي ذَاتِ الْيَوْمِينَ وَذَاتِ الشَّمَالِ، فَأَقُولُ: أَصْحَابِي، فَيَقُولُ: إِنَّهُمْ لَمْ يَرَوُا مُرْتَدِينَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ مُنْذُ فَارَقُهُمْ، فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ: «وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَادَمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّتِنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبُ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَشَهِيدٌ إِنْ تَعْذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عَبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْمَغْفِرَةُ الْحَكِيمُ». (٢)

فَالْمُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفُ الْفَرِيرِيُّ: ذُكِرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ قَبِيْضَةِ قَالَ: هُمُ الْمُرْتَدُونَ الَّذِينَ أَرْتَدُوا عَلَى عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ، فَقَاتَلُوهُمْ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

٤٩ - بَابُ: نُزُولِ عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ.

٣٤٤٨ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنْ أَبْنِ شَهَابٍ: أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسِيْبِ: سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَيُوْشِكَنَّ أَنْ يَنْزَلَ فِيْكُمْ أَبْنُ مَرْيَمَ حَكْمًا عَدْلًا، فَيُنْكِسَ الصَّلِيبَ، وَيَقْتَلَ الْجِنْزِيرَ، وَيَصْبَحَ الْجَزِيرَةُ، وَيَفِيضُ الْمَالُ حَتَّى لَا يَقْبِلَهُ أَحَدٌ، حَتَّى تَكُونَ السَّجْدَةُ الْوَاحِدَةُ خَيْرًا مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا». ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَأَفَرَوْا إِنْ شِئْتُمْ: «وَلَمَّا مَرَّ بِهِ قَبْلَ مَوْلَتِهِ، وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا» (٣).

٣٤٤٩ - حَدَّثَنَا أَبْنُ بَكْرٍ: حَدَّثَنَا الْلَّيْثُ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ أَبْنِ شَهَابٍ، عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى أَبِي قَنَادَةِ الْأَنْصَارِيِّ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا نَزَلَ أَبْنُ مَرْيَمَ فِيْكُمْ، وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ». تَابَعَهُ عَقِيلٌ وَالْأَوْزَاعِيُّ.

٥٠ - بَابُ: مَا ذُكِرَ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ.

٣٤٥٠ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ رَبِيعِي

(١) سورة الأنبياء الآية ١٠٤.

(٢) سورة العنكبوت الآيات ١١٧ - ١١٨.

(٣) سورة النساء الآية ١٥٩.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ :

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَيُوْشِكَنَ أَنْ يَنْزَلَ فِيْكُمْ أَبْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدْلًا، فَيُكَسِّرَ الصَّلَبَ، وَيَقْتُلَ الْخِنْزِيرَ، وَيَضَعَ الْجِزِيرَةَ،

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا نَزَلَ أَبْنُ مَرْيَمَ فِيْكُمْ، وَإِمَامُكُمْ يَنْكُمْ ».

(صحیح بخاری، جلد 2 باب نزول عیلی اہن مریم، صفحہ 1073)

آنحضرت ﷺ نے فرمایا:- قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے۔ عنقریب تم میں ابن مریم حکم و عدل کی حیثیت سے نازل ہو گا اور صلیب کو توڑے گا۔ خنزیر کو قتل کریگا اور جزیہ کو منسوخ کر دے گا۔ نیز فرمایا:- تمہاری کیا حالت ہو گی جب ابن مریم تم میں نازل ہو گا اس حال میں کہ وہ تمہارا امام تم میں سے ہی ہو گا۔

The Messenger of Allah, peace and blessings of Allah be upon him, said:-

'I swear by the Lord Who holds my life in His hands, the Messiah, son of Mary, shall certainly rise among you as Arbiter and Judge who will break the cross, kill the swine and abolish Jizya ... He is also reported to have said:- How will ye be when the son of Mary appears among you and he will be your Imam, from among you.

(Bukhari, Vol. 2 Page 1073)

Der Heilige Prophet^{saw} sagte: "Bei Ihm, in dessen Händen mein Leben liegt, der Sohn Marias wird bald unter euch als gerechter Richter erscheinen. Er wird das Kreuz brechen, das Schwein töten und die Jisya (Kriegssteuer) abschaffen." Es wird weiterhin berichtet, dass er gesagt hat: "In was für einem (erbärmlichen) Zustand werdet ihr sein, wenn der Sohn Marias unter euch erscheinen wird, wobei er euer Imam von euch sein wird."

(Buchari, Bd. 2 Seite 1073)

صَحْقُ الْبَخَارِيٍّ

تألِيف

الإِمَامُ الْحَافِظُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ اسْمَاعِيلَ الْبَخَارِيٍّ
الْمُتَوفِّيَ سَنَةُ ٢٥٦ هـ

مراجعة وضبط وفهرسة

الشيخ محمد علي القطب الشيخ هشام البخاري

الجزء الثالث

المكتبة العصرية
ستاد، بيروت

1112

صحيح البخاري

1112

بَكْرٌ بَزِيدُ: «مِن الصَّلَاةِ صَلَاةُ، مَنْ فَاتَهُ، فَكَانَمَا وُرَّ أَهْلَهُ وَمَالَهُ».

٣٦٠٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ: أَخْبَرَنَا سُفيَّانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «سَتَكُونُ أَثْرَهُ وَأَمْوَالُ تَنْكِرُونَهَا». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: «تُؤْدُونَ الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْكُمْ، وَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الَّذِي لَكُمْ».

٣٦٠٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ: حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَسَاطِةٍ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي التَّيَّابِ، عَنْ أَبِي رُزْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَهْلِكُ النَّاسُ هَذَا الْحَيُّ مِنْ قُرْيَشٍ». قَالُوا: فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: «لَوْ أَنَّ النَّاسَ أَعْتَرُلُوهُمْ».

قال محمود: حَدَّثَنَا أَبُو ذَاوِدَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي التَّيَّابِ: سَمِعْتُ أَبَا رُزْعَةَ.

٣٦٠٥ - حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ الْمَكْيِ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ الْأَمْوَيِّ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ مَرْوَانَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ، سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ الصَّادِقَ الْمَصْدُوقَ يَقُولُ: «هَلَّا كُمْتَيْ عَلَى يَدِيْ غَلْمَةٌ مِنْ قُرْيَشٍ». فَقَالَ مَرْوَانُ: غَلْمَةٌ؟ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: إِنْ شِئْتَ أَنْ أُسَمِّيهِمْ بَنِيْ فُلَانَ وَبَنِيْ فُلَانٍ.

٣٦٠٦ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبْنُ جَابِرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي بُشْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَاضِرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو إِنْدِرِيسِ الْخَوَلَانِيُّ: أَنَّهُ سَمِعَ حَدِيثَةَ بْنِ الْيَمَانِ يَقُولُ: كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْخَيْرِ، وَكَتَبَ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ مَخَافَةً أَنْ يُذْرِكَنِي، فَقَلَّتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا كُنَّا فِي جَاهِلِيَّةِ وَشَرٍّ، فَجَاءَنَا اللَّهُ بِهَذَا الْخَيْرِ، فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ؟ قَالَ: «نَعَمْ». قُلْتُ: وَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِّ مِنْ خَيْرٍ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَفِيهِ دَخْنٌ». قُلْتُ: وَمَا دَخْنُهُ؟ قَالَ: «قَوْمٌ يَهْدُونَ بِغَيْرِ هَدْبِيٍّ، تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتَنْكِرُ». قُلْتُ: فَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ؟ قَالَ: «نَعَمْ، دُعَاةٌ إِلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ، مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَدْفُوهُ فِيهَا». قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، صَفْهُمْ لَنَا؟ فَقَالَ: «هُمْ مِنْ جُلْدِنَا، وَيَنْكِلُمُونَ بِالْيَسِنَا». قُلْتُ: فَمَا تَأْمُرُنِي إِنْ أُذْرِكَنِي ذَلِكَ؟ قَالَ: تَلْزُمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ، قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلَا إِمَامٌ؟ قَالَ: «فَأَعْتَرُلُ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا، وَلَوْ أَنَّ تَعَضُّ يَأْصِلُ شَجَرَةً، حَتَّى يُذْرِكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ».

فَمَا تَأْمُرُنِي إِنْ أَدْرِكَنِي ذَلِكَ؟ قَالَ: تَلْرُمْ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ ... فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلَا إِمَامٌ؟ قَالَ: «فَأَعْتَرِلْ بِتْلُكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا، وَلَئِنْ أَنْ تَعْضُ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ، حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ»

(صحیح بخاری، کتاب المناقب، جلد 3، صفحہ 1112)

رسول کریمؐ اسلام پر تنزل کے دور کے متعلق بیان کر رہے تھے تو حذیفہ بن یمانؓ نے آنحضرت ﷺ سے پوچھا اگر میں اس (دور) کو پاؤں تو میرے لئے کیا حکم ہے! رسول کریمؐ نے فرمایا:- اس وقت مسلمانوں کی جماعت اور ان کے امام سے چھٹ جانا۔ حذیفہؓ نے عرض کیا اگر میں وہ جماعت اور وہ امام نہ پاؤں تو پھر میرے لئے کیا حکم ہے۔ رسول کریمؐ نے فرمایا:- پھر اس وقت (اسلام کے) سب فرقوں کو چھوڑ دینا اور (جگہ میں) درختوں کی جڑیں کھا کر گزارہ کر لینا یہاں تک کہ تجھے موت آجائے۔ (یعنی کسی بھی فرقہ میں شامل نہ ہونا اگر اس وقت خدا کا مقرر کردہ امام اور جماعت نہ ہو)

The Holy Prophet was talking about Islam's decline. Hazrat Huzaifa Bin Yamaan asked The Holy Prophet (pbuh), that if he happens to be alive till that era, what should he do? The Holy Prophet (pbuh) replied that at that time he should attach himself firmly with the Jamaat of Muslims and their Imam (Khalifa). Hazrat Huzaifa asked, if he could not find that Jamaat and Imam, what should he do then? The Holy Prophet (pbuh) that replied then he should give up all sects in Islam and go to the jungle where if the food will be not available then use the roots of the trees as food till death overtake you. i.e. if the Promised Imam is out of reach he should avoid joining any sect in Islam if The Promised Imam is out of reach).

(Bukhari vol.3 page 1112)

Der Heilige Prophet^{saw} berichtete über das Zeitalter des Niedergangs des Islam. Husaifa bin Yamman^{ra} fragte den Heiligen Propheten^{saw}: "Was sollte ich tun, wenn ich diese (Zeit) erlebe." Der Heilige Prophet antwortete: "Werde Anhänger der Gemeinschaft der Muslime und ihres Imams." Hasaifa^{ra} fragte: "Wenn ich die Gemeinschaft der Muslime und ihren Imam nicht finde?": Der Heilige Prophet^{saw} erwiderte: "Dann verlasse alle Gruppierungen (des Islam); ernähre dich von den Baumwurzeln (im Wald), bis dich der Tod ereilt (d. h. schließe dich keiner Gruppierung an, wenn der von Gott bestimmte Imam und seine Gemeinschaft nicht da sind)." (Buchari Bd.3 Seite 1112)

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرْبَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُقْبَاهَا رَسُولًا يَأْتِنُوا عَلَيْهِمْ
إِلَيْتَنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرْبَىٰ إِلَّا وَآهَمُهُمَا ظَلِيمُونَ ۝ (القصص : 60)

اور تیراب جب تک کسی مرکزی بستی میں ایسا رسول نہ بھیج دے جو ان کے سامنے ہماری آئینیں پڑھ کر سنائے ان بستیوں کے مجموعہ (یعنی ملک) کو ہلاک کرنے کا ارتکاب نہیں کر سکتا تھا (کیونکہ یہ انصاف کے خلاف ہے)۔ اور ہم بستیوں کو کبھی ہلاک نہیں کرتے سوائے اس کے کہ ان کے رہنے والے ظالم ہو جائیں۔

Sura 28:60 And thy Lord would never destroy the towns until He has raised in the mother town thereof a Messenger, reciting unto them our singns; nor would We destory the towns unless the people thereof are wrong doers.

Sura 28:60 Und dein Herr würde nie die Städte zerstören, Er hätte denn zuvor in derer Mutterstadt einen Gesandten erweckt, ihnen Unsere Zeichen vorzutragen; noch zerstören Wir Städte, ohne dass ihre Bewohner voll Ungerechtigkeit sind.

مِنْ أَهْمَلَدِي فَإِنَّمَا يَعْنِي تَدِي لِتَفْسِيهِ ۝ وَمَنْ صَلَ فَإِنَّمَا يَضْلُلُ عَلَيْهَا ۝ وَلَا تَزُرُ وَازِرَةٌ ۝ وَلَا زُرُرُ أُخْرَىٰ ۝
وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ يَبْعَثَ رَسُولًا ۝ (بني اسرائیل: 16)

(پس یاد رکھو کہ) جو حدایت کو قبول کرے گا اس کا حدایت پانا اسی کی ذات کے فائدہ کے لئے ہے اور جو (اس حدایت کو رد کر کے) گمراہ ہو گا اس کا گمراہ ہونا اسی کے (نفس کے) خلاف پڑے گا اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسری (جان) کا بوجھ نہیں اٹھائے گی اور ہم (کسی قوم پر) ہرگز عذاب نہیں بھیجتے جب تک (ان کی طرف) کوئی رسول نہ بھیج لیں۔

Sura 17:16 He who follows the right way follows it only for the good of his own soul: and he who goes astray, goes astray only to his own loss. And no bearer of burden shall bear the burden of another. We never punish until We have sent a Messenger.

Sure 17:16 Wer den rechten Weg befolgt, der befolgt ihn nur zu seinem eigenen Heil; und wer irregeht, der geht irre allein zu seinem eigenen Schaden. Und keine lasttragende (Seele) trägt die Last einer andern. Und Wir strafen nie, ehe Wir denn einen Gesandten geschickt haben.

فضیلان حنتم نبوت

جماعت احمدیہ کے معاند طرح طرح کی جو الزام تراشیاں کرتے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ نعوذ باللہ جماعت احمدیہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین تسلیم نہیں کرتی اور امت محمدیہ کے تیرہ سو سالہ مسلک سے ہٹ کر ایک نیا مذہب اختیار کر چکی ہے۔ دوسرے اور بہت سے بے سروپا الزامات کی طرح یہ الزام بھی سراسر غلط اور بے بنیاد ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جماعت احمدیہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین جس قوت، معرفت اور یقین کامل کے ساتھ تسلیم کرتی ہے اور کسی کو یہ بات نصیب نہیں ہے۔ حضرت بانی سلسلہ احمدیہؒ فرماتے ہیں:-

”مجھ پر اور میری جماعت پر جو یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتے۔ یہ ہم پر افتراء عظیم ہے۔ ہم جس قوت، یقین و معرفت اور بصیرت کے ساتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء مانتے اور یقین کرتے ہیں اس کا لاکھواں حصہ بھی وہ لوگ نہیں مانتے۔“ (الحکم 17 مارچ 1905ء)

جب مخالفین جماعت کے سامنے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی عبارت پیش کی جاتی ہے تو وہ یہ غلط تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ اقرار محض لغتی ہے ورنہ عملًا جب مرزا صاحب نے ایک قسم کی نئی نبوت کا راستہ کھول دیا خواہ اسے اُمّتی نبوت کہیں یا ظلیٰ تو آیت خاتم النبیین کا انکار لازم آگیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جماعت احمدیہ نے ”امّتی نبی“ اور ”ظلیٰ نبی“ کی اصطلاحیں بنائے کرتے جو ایک رکھنے کی نئی کھڑکیاں کھوئی ہیں جبکہ پہلے بزرگان اسلام نبوت کو مطلقاً بند مانتے تھے اور کسی قسم کی نبوت کے بھی جاری رہنے کے قائل نہ تھے۔ لیکن ادنیٰ سی تحقیق سے اہل بصیرت پر یہ روشن ہو جائے گا کہ یہ الزام بھی محض بودا اور بے بنیاد ہے اور حقیقت سے اس کو دور کا بھی تعلق نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جماعت احمدیہ آیت خاتم النبیین کی وہی تشرح کرتی ہے جو گذشتہ صلحائے امت اور علماء ربانی کرتے چلے آئے ہیں اور ان کے مسلک سے ہٹ کر کوئی نیا مسلک اختیار نہیں کیا گیا۔ نیا مسلک تو خود ان مخالفین احمدیت نے اختیار کیا ہے جو جماعت پر یہ الزام لگاتے ہیں۔

فیصلہ کا ایک نہایت آسان اور عام فہم طریق اختیار کرتے ہوئے ہم مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے مسلمہ بزرگان اسلام اور اولیاء و اقطاب کی مشہور اور مستند کتب کے ایسے اقتباسات کے عکس پیش کر رہے ہیں جن میں ختم نبوت کے بارہ میں اُن کے عقیدہ کا ذکر ہے اور جن کے سطحی مطالعہ سے بھی یہ امر روز روشن کی طرح ثابت ہو جاتا ہے کہ حضرت بانی سلسلہ عالیہ احمدیہ نے بزرگان سلف کے مسلک سے ہٹ کر کوئی نیادین پیش نہیں کیا بلکہ وہی کچھ فرمایا جو علمائے ربانی پہلے سے کہتے چلے آئے تھے۔ اس بارہ میں مزید لکھنے کی کچھ حاجت نہیں۔ ہر صاحب انصاف قاری پر بات خود بخود واضح ہو جائے گی۔ انصاف اور تقویٰ اختیار کرتے ہوئے ان امور پر غور فرمائیں۔

Khatm-e-Nubuwat

One of the accusations levelled on the Ahmadiya Muslim Jamaat, among many others is that Jamaat Ahmadiya does not accept the Holy Prophet Muhammad s.a.s. as Khatam-un-Nabiyyin and has adopted a new doctrine which deviates from that of the ummat of the past 1300 years in this matter. Like many other unfounded allegations this one is also wrong and baseless. The reality is that the strength of conviction with which Jamaat Ahmadiyya accepts the Holy Prophet (pbuh) as khatam-un-Nabiyyin is unparalleled. The Founder of the Ahmadiyya Jamaat says:

"It is alleged that I and my Jamma't do not accept the Holy prophet (pbuh) as khatam-un-Nabiyyin. This is a great lie upon us. The strength, certainty, and full understanding with which we believe in the Holy Prophet (pbuh) to be khatam-un-nabiyyin and accept him as such, others do not believe even in a hundred thousandth part of it". (AlHakam 17 March 1905)

When the Promised Messiah a.s. is quoted to the opponents, they try to give the false impression that this acceptance is only a lip service. According to them the Promised Messiah has opened the door of a new kind of prophethood, and whatever he calls it ummati or zilli (adumberate), the rejection of khatam-e-Nabuwwat is implied. They say that the Jamaat Ahmadiyya has opened the door for the prophethood whereas past scholars of Islam considered prophethood to be absolutely finished and did not believe in any form of exception. But even minor least effort in research would show the wise that this objection too is hollow and baseless. It is a fact that the Ahmadiyya Jamaat interprets the verse Khatam-us-Nabiyyin in the same way as the holy scholars of the followers in the past and have not invented any new doctrine. The new doctrine has been invented by the opponents of Ahmadiyya themselves. To determine this matter easily we will present some statements by the learned Muslim scholars and saints taken from their famous and authentic books. These statements show their belief regarding the doctrine of Khatm-e-Nabuwwat, scans of these pasages are also being provided. Even a superficial view of these statements will show that Hazrat Massih Maud a.s. has not presented any new doctrine. He said what the learned scholars had also said in the past. In the presence of these statements there is no need for further elaboration. It will be apparent to every just reader himself. Please consider these things with a fair and God fearing mind.

Khatm-e-Nubuwat

Die Gegner der Ahmadiyya-Muslim-Jamaat werfen ihr unter anderem vor, sie erkenne den Heiligen Propheten^{saw} nicht als khatam-un-nabiyyin (Siegel der Propheten) an, womit sie sich anscheinend von dem 1300 Jahre alten Konsens der übrigen muslimischen Gemeinschaft abgewandt und eine neue Religion begründet haben. Wie viele andere haltlosen Vorwürfe, ist auch dieser Vorwurf unberechtigt und vollkommen falsch. Fakt ist, dass keine andere islamische Gemeinschaft den Anspruch des Heiligen Propheten^{saw}, der Khatam-un-Nabiyyin zu sein, mit solcher Überzeugung, Erkenntnis und Eindeutigkeit anerkennt, wie die Ahmadiyya Muslim Jamaat. Der Gründer der Gemeinschaft sagt diesbezüglich:

"Mir und meiner Jamaat wird vorgeworfen, dass wir den Heiligen Propheten^{saw} nicht als Khatam-un-Nabiyyin anerkennen. Das ist reine Verleumdung. Sie (die Gegner) haben nicht einmal ein Hunderttausendstel der Kraft, Überzeugung, Erkenntnis und Einsicht, mit der wir den Heiligen Propheten^{saw} als Khatam-un-Nabiyyin anerkennen." (Al-Hakm 17. März 1905)

Wird diese Aussage des Verheißenen Messias^{as} den Gegnern der Jamaat vorgelegt, so versuchen sie den Eindruck zu vermitteln, dass es sich hierbei lediglich um Lippenbekenntnisse handele. Tatsächlich aber habe der Gründer der Ahmadiyya-Gemeinde die Tür für eine neuartige Gesandschaft eröffnet, sei sie nun ummati oder silli Auf jeden Fall stehe dies im offensichtlichen Widerspruch zu dem Vers über Khatam-un-Nabiyyin. Sie behaupten, die Ahmadiyya Jamaat habe mit der Erfindung neuer Begriffe wie ummati-nabi (Prophetentum innerhalb der Gemeinschaft des Heiligen Propheten^{saw}) oder silli-nabi (Schattenprophetentum). zu erklären versucht, dass das Erscheinen eines Propheten nach dem Heiligen Propheten^{saw} möglich sei. Dagegen hätten die früheren Heiligen des Islams dies für unmöglich gehalten und jegliche Fortdauer des Prophetentums abgelehnt. Bereits eine etwas genaue Untersuchung wird aber dem objektiven Leser verdeutlichen, dass auch dieser Vorwurf haltlos, unbegründet und fern von Wahrheit ist. Tatsächlich legt die Ahmadiyya Jamaat den Vers über Khatam-un Nabiyyin genauso aus, wie dies bereits die früheren Rechtschaffenen und Gelehrten der islamischen Umma getan haben. Unser Standpunkt trifft mit ihrem Standpunkt überein. Im Gegenteil, die Gegner der Ahmadiyya Jamaat vertreten einen neuen Standpunkt. Einen einfachen und anerkannten Weg einschlagend, werden wir im Folgenden einige Auszüge aus den Schriften Hazrat Mirza Ghulam Ahmads^{as} vorlegen, aufgrund derer er des Unglaubens bezichtigt wurde. Anschließend dann einige Auszüge aus bekannten und anerkannten Schriften von allgemein hochrespektierten Gelehrten und Heiligen darlegen. Diese sollen ihre Haltung zu Khatm-un-Nabuwat darstellen. Bereits ein oberflächliches Studium dieser Zitate wird verdeutlichen, dass

der Gründer der Ahmadiyya Muslim Jamaat, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad^{as}, keinen neuen Glauben gelehrt hat, sondern im Einklang mit dem Glauben dieser Autoritäten des Islam steht. Dies soll aber hier nicht weiter ausgeführt werden. Jeder Leser kann dies selbst erkennen. Bitte denken Sie vorurteilslos, rechtschaffen und gerecht über diese Angelegenheit nach.

رَاهِيْنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿الْفَاتِحَة: 7-6﴾
ہمیں سیدھے راستہ پر چلا۔ ان لوگوں کے راستہ پر جن پر ٹوٹے انعام کیا۔ جن پر غصب نہیں کیا گیا اور جو گمراہ نہیں ہوئے۔

Sura 1:6 Guide us in the right path,

Sura 1:7 The path of those on whom Thou hast bestowed Thy blessings, those who have not incurred displeasure, and those who have not gone astray.

Sura 1:6 Führe uns auf den geraden weg,

Sura 1:7 Den weg derer, denen Du Gnade erwiesen hast, die nicht Mißfallen erregt haben und die nicht irregegangen sind.

وَإِذْ قَالَ مُؤْمِنٌ لِّرَبِّهِ يَقُولُ إِذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَيْنِكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيْكُمْ آثِيَارًا
وَجَعَلَكُمْ مُّلُوكًا وَأَشْكُنْتُمْ مَا لَكُمْ يُؤْتَ أَحَدًا مِّنَ الْعَلَمَيْنَ ﴿الْمَائِدَة: 21﴾

اور (تم اس وقت کو یاد کرو) جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم ! تم اللہ کے (اس) احسان کو یاد کرو جو اس نے (اس وقت) تم پر کیا تھا جب اس نے تم میں نبی مقرر کئے تھے اور تمہیں بادشاہ بنایا تھا اور تمہیں وہ کچھ دیا تھا جو (دنیا کی) معلوم قوموں میں سے کسی کو نہیں دیا تھا۔

Sura 5:21 And remember when Moses said to his people. 'O my people, call to mind Allah's favour upon you when He appointed Prophets among you and made you kings, and gave you what He gave not to any other among the peoples.'

Sura 5:21 Und wie Moses zu seinem Volke sprach: "O mein Volk, besinnt euch auf Allahs Huld gegen euch, als Er aus eurer Mitte Propheten erweckte und euch zu Königen machte und euch gab, was Er keinem anderen (Volke) auf der Welt gegeben."

وَلَقَدْ أَنْتَنَا بِهِيَّ إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالْبُيُّونَةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الظَّلِيبَتِ وَفَصَلَنَاهُمْ عَلَى الْعِلَمَيْنَ ﴿الْجَاثِيَة: 17﴾

اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب اور حکومت اور نبوت بخشی تھی اور پاکیزہ چیزوں میں سے رزق عطا فرمایا تھا اور اپنے زمانے کے لوگوں پر ان کو فضیلت بخشی تھی۔

Sura 45:17 And verily, We gave the children of Israel the Book, and sovereignty, and prophethood; and We provided them with good and pure things, and We exalted them over the peoples of the time.

Sura 45:17 Wir gaben den Kindern Israels die Schrift und Herrschaft und Prophetentum, und Wir versorgten sie mit guten Dingen und bevorzugten sie vor den Völkern.

وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ
عَلَيْهِمْ مِنَ السَّيِّئَاتِ وَالصَّدِيقِينَ وَالشَّهِيدَاتِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسْنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ﴿النَّسَاء: 70﴾

اور جو (لوگ بھی) اللہ اور اس رسول کی اطاعت کریں گے وہ ان لوگوں میں شامل ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین (میں) اور یہ لوگ (بہت ہی) اپنے رفیق ہیں۔

Sura 4:70 And whoso obeys Allah and this Messenger of His shall be among those on whom Allah has bestowed His blessings, namely, the Prophets, the Truthful, the Martyrs, and the Righteous. And excellent companions are these.

Sura 4:70 Wer Allah und dem Gesandten gehorcht, soll unter denen sein, denen Allah Seine Huld gewährt hat, nämlich unter den Propheten, den Wahrhaftigen, den Blutzeugen und den Gerechten; und das sind die besten Gefährten.

البِحَرُ الْجَيْط

فِي التَّفْسِير

لِحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الشَّهِيْرِ بْنِ حَمَّادَ الْأَنْدَلُسِيِّ الْغَرَبَاطِيِّ

٦٥٤ - ٧٥٤ هـ

الجزء الثالث

طبعَةٌ جَدِيدَةٌ بِعِنْدِنَا

الْإِنْجِزِ زَهِيرٌ جَعَيْرٌ

دار الفكر
للطباعة والتضليل والتوزيع

٦٩٩

سورة النساء / الآيات: ٦٤ - ٧٢

يا رسول الله، إذا مت ومتنا، كنت في عليين فلا نراك ولا نجتمع بك، وذكر حزنه على ذلك، فنزلت. وحكي مكي عن عبد الله هذا أنه لما مات النبي ﷺ قال: اللهم اعني حتى لا أرى شيئاً بعده، فعمي . والمعنى في مع النبفين: إنه معهم في دار واحدة، وكل من فيها رزق الرضا بحاله، وهم بحيث يتمكن كل واحد منهم من رؤية الآخر، وإنْ بعد مكانه.

وقيل: المعية هنا كونهم يرفعون إلى منازل الأنبياء متى شاؤوا تكرومة لهم، ثم يعودون إلى منازلهم. وقيل: إن الأنبياء والصديقين والشهداء ينحدرون إلى من أسفل منهم ليذاكروا نعمة الله، ذكره المهدوي في تفسيره الكبير. قال أبو عبد الله الرازي: هذه الآية تنبئ على أمرتين من أحوال المعاذ: الأولى: إشراق الأرواح بأنوار المعرفة. والثانية: كونهم مع النبفين. وليس المراد بهذه المعية في الدرجة، فإن ذلك ممتنع، بل معناه: إن الأرواح الناقصة إذا استكملت علاقتها مع الأرواح الكاملة في الدنيا بقيت بعد المفارقة تلك العلاقة، فينعكس الشعاع من بعضها على بعض، فتصير أنوارها في غاية القوة، فهذا ما خطر لي انتهى كلامه. وهو شبيه بما قاله الفلاسفة في الأرواح إذا فارقت الأجساد. وأهل الإسلام يأبون هذه الألفاظ ومدلولاتها، ولكن من غالب عليه شيء وجه جري في كلامه. وقوله: مع الذين أنعم الله عليهم، تفسير لقوله: «صراط الذين أنعمت عليهم»^(١) وهم من ذكر في هذه الآية. والظاهر أن قوله: من النبدين، تفسير للذين أنعم الله عليهم. فكانه قيل: من يطع الله ورسوله منكم أحقه الله بالذين تقدمهم منمن أنعم عليهم. قال الراغب: منمن أنعم عليهم من الفرق الأربع في المنزلة والثواب: النبي بالنبي، والصديق بالصديق، والشهيد بالشهيد، والصالح بالصالح. وأجاز الراغب أن يتعلق من النبدين بقوله: ومن يطع الله والرسول. أي: من النبدين ومن بعدهم، ويكون قوله: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم إشارة إلى الملا الأعلى. ثم قال: «وحسن أولئك رفيقا»^(٢) وبين ذلك قول النبي ﷺ حين الموت «اللهم ألحقني بالرفيق الأعلى» وهذا ظاهر انتهى . وهذا الوجه الذي هو عنده ظاهر فاسد من جهة المعنى، ومن جهة الدحو. أما من جهة المعنى فإنّ الرسول هنا هو محمد ﷺ، أخبر الله تعالى أنْ من يطعه ويطيع رسوله فهو مع من ذكر، ولو كان من النبدين معلقاً بقوله: ومن يطع الله والرسول، لكن قوله: من النبدين تفسيراً لمن في قوله: ومن يطع. فيلزم أن يكون في زمان الرسول أو بعده أنبياء يطيعونه، وهذا غير ممكن، لأنّه قد

(٢) سورة النساء: ٤/٦٩.

(١) سورة الفاتحة: ١/٦.

وقوله: مع الذين أنعم الله عليهم، تفسير قوله: ﴿صراط الذين أنعمت عليهم﴾^(١) وهم من ذكر في هذه الآية. والظاهر أن قوله: من النبيين، تفسير للذين أنعم الله عليهم. فكأنه قيل: من يطع الله ورسوله منكم أحقه الله بالذين تقدمهم ممن أنعم عليهم. قال الراغب: ممن أنعم عليهم من الفرق الأربع في المنزلة والثواب: النبي بالنبي، والصديق بالصديق، والشهيد بالشهيد، والصالح بالصالح. وأجاز الراغب أن يتعلّق من النبيين بقوله: ومن يطع الله والرسول. أي: من النبيين ومن بعدهم،

(البحر المحيط في التفسير، زیر آیت و مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔۔۔ جلد 3 صفحہ 699)

حضرت امام راغب نے سورۃ النساء کی آیت 70 کے وہی معنے بیان کئے ہیں جو جماعت احمدیہ کرتی ہے۔ چنانچہ تفسیر البحر المحيط میں لکھا ہے:- یعنی خدا کافر مانا کہ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ یہ صرَاطُ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ کی تفسیر ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ خدا کا قول من النبيین تفسیر ہے اَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ کی۔ گویا یہ بیان کیا گیا ہے کہ تم میں سے جو شخص اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی اطاعت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو ان لوگوں میں شامل کر دے گا۔ جن پر قبل ازیں انعامات ہوئے۔ اور امام راغب نے کہا ہے کہ ان چار گروہوں میں شامل کر لیگا۔ مقام اور ثواب کے لحاظ سے نبی کو نبی کے ساتھ اور صدیق کو صدیق کے ساتھ اور صاحب کو صاحب کے ساتھ۔ اور امام راغب نے جائز قرار دیا ہے کہ اس امت کے نبی بھی نبیوں میں شامل ہوں جیسا کہ خدا نے فرمایا وَ مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ یعنی ”من النبيین“ (نبیوں میں سے)۔

Hazrat Imam Raghib has interpreted verse 70 Al-Nisa in the same manner as the Ahmadiyya Jamaat did. This is what is written in Tafseer Bahrul Mohit:- The words of God, " among those whom Allah has favoured", is the path of those on whom Thou hast bestowed Thy favours." It is evident that the Words of God -" Among the Prophets, " explanation is the " whom Allah has favoured. " Whoever among you obeys Allah and the Messenger, God would include him among those who had been favoured earlier. Imam Raghib has said, that He will include them in four groups, in accordance with the rank and reward i.e. Prophet with Prophet, Truthful with Truthful, Martyr with Martyr and Righteous with Righteous. Imam Raghib has declared lawful that the Prophets of this Ummat be included among the Prophets in accordance with the Words of God " And whoever obeys Allah and the Messenger." This means - among the Prophets.

(Al Bahr ul Muheet, Vol. 3 , Page 699)

Hazrat Imam Raghib hat die Verse der Sura An-Nisa (4:70) genauso interpretiert, wie sie von der Ahmadiyya Muslim Jamaat ausgelegt werden. In dem Buch Tafsir Bahrul-Mohit heißt es: "Die Worte Allahs: MA ALLAZEEENA AN AMALLHO ALAIHIM (unter jenen, die Allahs Gnade erhalten) kommentieren den Vers SIRATALLAZEENA AN AMTA ALAIHIM (auf den Weg derer, denen Du Gnade erwiesen hast). Es ist eindeutig, dass die

Worte Gottes MINANNANNABIYYEEN (unter den Propheten) einen Kommentar zu den Worten AN' AMALLAHO ALAIHIM (denen Allah Gefallen erwiesen hat) darstellen. Es wird hier also gesagt: Wer auch immer unter euch Allah und Seinem Gesandten gehorsam ist, wird zu jenen gehören, denen Allah Gnade erwiesen hat. Imam Raghib sagt weiter, dass sie in vier Gruppen je nach Rang aufgeteilt sind: Propheten mit Propheten (Annabiyyo Binnabiyye), Wahrhaftige mit Wahrhaftigen (Assidiqo Bissiddiqi), Märtyrer mit Märtyrern (Ashaheedo Bishaheede) und schließlich Rechtschaffene mit Rechtschaffenen (Assaliho Bissalih). Ferner hält es Imam Raghib für zulässig (mit der islamischen Lehre vereinbar), dass auch Propheten der Umma als Propheten (Gottes) gelten; dies wird auch durch die folgenden Worte Gottes bestätigt: "Und wer immer Allah und Seinem Gesandten Gehorsam leistet (wird) unter den Propheten (sein)."

(Al Bahr ul Muhit, Bd. 3, Seite 699)

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّنْ رِجَالِ الْكُفَّارِ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ
 وَخَاتَمِ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (الاحزاب:41)
 نہ محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ تھے نہ ہیں (نہ ہو گے) لیکن اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں اور اللہ ہر ایک چیز سے
 خوب آگاہ ہے۔

Sura 33:41 Muhammad is not the father of any of your men but he is the Messenger of Allah and the Seal of the Prophets; and Allah has full knowledge of all things.

Sura 33:41 Mohammad ist nicht der Vater eines eurer Männer, sondern der Gesandte Allahs und das Siegel der Propheten; und Allah hat volle Kenntnis aller Dinge.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَنْتَ مَوْلَا
فِي الْقِسْرَى إِنَّكَ مَوْلَى
نَبِيٍّ

وَهُوَ مُحَتَّصٌ تَفْسِيرٌ تَرْجِمَانُ الْقُرْآنِ

للله رب العالمين
جَلَّ جَلَّ الَّذِينَ عَبَدُوا الرَّحْمَنَ بِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِلْإِسْلَامِ طِيبٌ
المتوفى سنة ٩١١ هـ

الجزء الخامس

محتوى الجزء الخامس: من أول سورة المؤمنون، إلى آخر سورة الجاثية.

دار الكتب العلمية
بيروت - لبنان

سورة الأحزاب / الآية : ٤١

٣٨٦

رسول الله وختام النبيين قال: آخرنبي.

وأخرج عبد بن حميد عن الحسن في قوله ﴿وَخَاتَمُ النَّبِيِّنَ﴾ قال: ختم الله النبيين بمحمد ﷺ، وكان آخر من بعث.

وأخرج أحمد ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ «مثلي ومثل النبيين كمثل رجل بنى داراً فأتمتها إلا لبنة واحدة، فجئت أنا فاتمت تلك اللبنة».

وأخرج البخاري ومسلم والترمذى وابن أبي حاتم وابن مردوه عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ «مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل ابنتى داراً فأكملها وأحسنتها إلا موضع لبنة، فكان من دخلها فنظر إليها قال: ما أحسنتها! إلا موضع اللبنة، فأننا موضع اللبنة فختم بي الأنبياء».

وأخرج أحمد والبخاري ومسلم والنمسائى وابن مردوه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال «مثلي ومثل الأنبياء من قبلى كمثل رجل بنى داراً بناء فأحسنته وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية من زواياها، فجعل الناس يطوفون به ويتعجبون له، ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ فأننا اللبنة وأنا خاتم النبيين».

وأخرج أحمد والترمذى وصححه عن أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال «مثلي في النبيين كمثل رجل بنى داراً فأحسنتها وأكملها وأجملها وترك فيها موضع لبنة لم يضعها، فجعل الناس يطوفون بالبنيان ويعجبون منه، ويقولون: لو تم موضع هذه اللبنة، فأننا في النبيين موضع تلك اللبنة».

وأخرج ابن مردوه عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ «إنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثة كلام يزعم أنهنبي، وأنا خاتم النبيين لانبي بعدى».

وأخرج أحمد عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال «في أمتي كذابون ودجالون سبعة وعشرون، منهم أربع نسوة وإنني خاتم النبيين لانبي بعدى».

وأخرج ابن أبي شيبة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قولوا خاتم النبيين، ولا تقولوا لانبي بعده».

وأخرج ابن أبي شيبة عن الشعبي رضي الله عنه قال: قال رجل عند المغيرة بن أبي شعبة صلى الله على محمد خاتم الأنبياء لانبي بعده فقال المغيرة: حسبك إذا قلت خاتم الأنبياء، فإننا كنا نحدث أن عيسى عليه السلام خارج، فإن هو خرج فقد كان قبله وبعده.

وأخرج ابن الأبارى فى المصاحف عن أبي عبد الرحمن السلمى قال: كنت أقرئه الحسن والحسين، فمر بي علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأنا أقرئهما فقال لي: أقرئهما وختام النبيين بفتح التاء. والله الموفق.

قوله تعالى: يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴿٤١﴾

آخر ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ﴿اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا﴾ يقول: لا يفرض على عبادة فريضة إلا جعل لها حدًا معلومًا، ثم عذر أهلها في حال عذر غير الذكر، فإن الله تعالى لم يجعل له حدًا ينتهي إليه، ولم يعذر أحدًا في تركه إلا مغلوباً على عقله فقال: اذكروا الله

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قولوا خاتم النبيين، ولا تقولوا لانبي بعده». عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: كنت أقرئء الحسن والحسين، فمر بي علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأنا أقرئهما فقال لي: اقرئهما وخاتم النبيين بفتح التاء.

(دُرُّ منثور في التفسير المأثور، زیر آیت مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَخْدِرٍ۔۔۔ جلد 5 صفحہ 386)

حضرت عائشہؓ سے روایت ہے۔ انہوں نے فرمایا۔ (رسول کریم ﷺ کو) خاتم النبیین تو کہو لیکن یہ نہ کہو کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہو گا۔ حضرت ابو عبد الرحمن السلمیؓ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں امام حسنؑ اور امام حسینؑ کو پڑھاتا تھا۔ ایک دفعہ حضرت علی بن ابی طالبؑ پرے پاس سے گزرے جب کہ میں ان کو پڑھارتا تھا تو انہوں مجھے فرمایا۔ ان کو خاتم النبیین ”تاء“ کی فتح کے ساتھ پڑھاو۔

Hazrat Ayesha, Allah be pleased with her, has narrated that, "Say he, i.e. the Holy Prophet, peace and blessings of Allah be upon him, verily is the seal of Prophets but say not that there is no prophet after him." Hazrat Abu Abdur Rahman Assalmiyye narrates that he used to teach Hazrat Hasan and Husain (Allah be pleased with them). Once Hazrat Ali bin Abu Talib, Allah be pleased with him, passed nearby him while he was teaching them, so he said to him, 'Teach them KhatamanNabiyyeen with voval a: on Ta.

(Durr e Manthoor Vol. 5, Page 386)

Hazrat Aisha, möge Allah an ihr Gefallen haben, sagte: "Sagt, dass er (der Heilige Prophet, Friede und Segen Allahs sein auf ihm) das Siegel der Propheten ist, aber sagt nicht, dass nach ihm kein Prophet erscheinen wird." Hazrat Abdurrahman Assalmiyya (ra) berichtet folgendes: Er pflegte Hazrat Hassan und Hazrat Hussain^{ra} zu lehren. Einmal kam dort auch Hadhrat Ali bin Abi Talib^{ra} vorbei. Er sagte: Lehre sie "Khatamunnabiyyin" mit einem A-Vokalzeichen auf dem Ta (تـ)

(Durr e Manthoor Bd. 5, Seite 386)

الإنسان الكامل في معرفة الأخر والأوائل

تأليف

الشيخ عبد الكريم بن إبراهيم الجيلي

١٣٩٠ هـ - ١٩٧٥ م

المجمع الأدق

الطبعة الثالثة

١٣٩٠ هـ = ١٩٧٠ م

شركة مكتبة وطبعه سلطنتي لبابا طلبى وأوراقه بمصر

محمد محمود الحبلى وشركاه - خانقاوى

— ١١٥ —

القوى . واللوح الخامس : الحكم . واللوح السادس : العبودية . واللوح السابع : وضوح طريق السعادة من طريق الشقاوة وتبين ما هو الأولى فهذه سبعة لواح أمر موسى عليه السلام بتبيينها .

وأما اللوحان المخصوصان بموسى : فاللوح الأول : لوح الربوبية . واللوح الثاني : لوح القدرة ، ولهذا لم يكمل أحد من قوم موسى ، لأنه لم يؤمر بذلك لـ التسعة لواح ، فلم يتكل أحد من قومه بعده ولم يرثه أحد من قومه ، بخلاف محمد صلى الله عليه وسلم فإنه ترك شيئاً إلا وباعه إلينا . قال الله تعالى (ما فرطنا في الكتاب من شيء) وقال تعالى (وكل شيء فصانته تفصيلاً) ولهذا كانت ملته خير الملل ، ونسخ بيته جميع الأديان ، لأنه أتى بجميع ما أتوا به وزاد عليهم مالم يأتوا به . فنسخت أديانهم لنقصها . وشهر دينه بكماله . قال الله تعالى (اليوم أكمات لكم عينكم وأتممت عليكم نعمتي) ولم تنزل هذه الآية على نبي غير محمد صلى الله عليه وسلم ، ولو نزلت على أحد لكان هو خاتم النبيين ، وما صحي ذلك إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم فنراة عليه فكان خاتم النبيين ، لأنه لم يدع حكمة ولا هدى ولا علما ولا سرًا إلا وقد نبه عليه وأشار إليه على قدر ما يليق بالنبيين لذلك السرّ إما تصريحاً وإما تأويلاً وإما إشارة وإما كناية وإما استعارة وإما محكماً وإما مفسراً وإماماً ولا إما متشابهاً: إلى غير ذلك من أنواع كمال البيان ، فلم يبق لغيره مدخلًا فاستقل بالامر وختم النبوة لأنه ما ترك شيئاً يحتاج إليه إلا وقد جاء به ، فلا يجد الذي يأتي بعده من الكل شيئاً مما ينبغي أنه ينبه عليه إلا وقد فعل صلى الله عليه وسلم ذلك فيتبعه هذا الكامل كما نبه عليه ويصيّر تابعاً ، فانقطع حكم نبوة التشريع بعده . وكان محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين ، لأنه جاء بالكمال ولم يجيء أحد بذلك . فلو أمر موسى عليه السلام بإبلاغ لواحين المخصوصين به لما كان يبعث عيسى من بعده . لأن عيسى صلى الله عليه وسلم بلغ سرّ ذينك اللواحين إلى قومه . ولهذا من أول قدم ظهر عيسى بالقدرة والربوبية وهو كلامه في المهد وأبراً الأكمه والأبرص وأحيا الموتى ونسخ دين موسى لأنه أتى بما لم يأت به موسى ، لكنه لما أظهر أحكام ذلك ضلّ قومه من بعده فعبدوه وقاوا إنه ثالث ثلاثة ، وهو الأب والأم والابن ، وسموا ذلك

فانقطع حکم نبوة التشريع بعده . وكان محمد صلی اللہ علیہ وسلم
خاتم النبیین ،

(الإنسان الكامل في معرفة الأولياء والأوائل، صفحه 115)

حضرت سید عبدالکریم جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:- کہ تشریعی نبوت کا حکم آنحضرت ﷺ کے بعد ختم ہو گیا ہے۔ پس اس وجہ سے آنحضرت ﷺ خاتم النبیین ہوئے۔

Hazrat Sayyad Abdul Karim Jilani has written:- 'The coming of the Law-bearing prophets, after the Holy Prophet, peace and blessings of Allah be upon him, has ceased as he has been exalted to be the 'Khataman Nabiyeen.'

(Al Insan ul Kamil Page 115)

Hazrat Sayyad Abdul Karim Jilani schreibt: "Es ist ausgeschlossen, dass ein anderer gesetzbringender Prophet nach Muhammad^{saw} erscheint, denn er ist der Khatamunnabiyien (Siegel der Propheten)."

(Al Insan ul Kamil Seite 115)

الفتوحات المکیّة

التي فتح الله بها على الشيخ الإمام العامل الراسخ الكامل
خاتم الأولياء الوارثين بربور البرازخ محي الحق
والدين أبي عبد الله محمد بن علي المعروف بابن عربي
الحاتمي الطائي قدس الله روحه ونور ضريحه آمين

المَحَلِّدُ الثَّانِي

دار صادر
بیروت

وستة أنفس لجهات ست * أئمن من نور وطين
فهذا الزمان فَكَرْتُ فِيهِ * ترى سرّ الظهور مع الكمون

اعلم أيدي الله ولدك بروح منه ان هذا الباب يتضمن أصناف الرجال الذين يعصرهم المدد والذين لا توفيت لهم
ويتضمن المسائل التي لا يسلمها الا كبار من عباد الله الذين هم في زمانهم بغير الایمامة في زمان النبوة وهي النبوة
العامة فان النبوة التي اقطعت بوجود رسول الله صلى الله عليه وسلم اغاثي نبوة التshireem لاما مقامها لاشرع يكون
ناسخ الشريعة صلى الله عليه وسلم ولا يلزم بدفع حكمها شرعا آخر وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم ان الرسالة والنبوة قد
انقطعت فلارسول بعدى ولابني آى لابى بدوى يكون على شرع خالق شرعى بل اذا كان يكون تحت حكم شرعي
ولارسول آى لارسول بعده الى أحد من خلق الله البشر شرع يدعوه اليه فيه فهذا هو الذي انقطع وسدت بابه لاما مقام النبوة
فانه لخلاف ان عيسي عليه السلام نبي ورسول انه لخلاف انه ينزل في آخر الزمان حكمه قسطنطين لا يشرعننا
لابشع آخر ولا يشرعه الذي تعبد الله بهى اسرائيل من حيث مازل هو به بل ما ظهر من ذلك هو ما فرق رشرع محمد
صلى الله عليه وسلم ونبي عيسى عليه السلام ثابتة محققة فهذا نبي ورسول قد ظهر بعده صلى الله عليه وسلم وهو
الصادق في قوله انه لابى بعده فلم ينافياه * يزيد التshireem خاصة وهو المبر عنه غند أهل النظر بالخصوص وهو
الرايد بقوله ان النبوة غير مكتسبة وأما القاتلون باكتساب النبوة فاهم سير بدون بذلك حصول المزالة عند الله
المختص من غير تshireem لافي حق انفسهم ولا في غيرهم فمن يعقل النبوة سوي عين الشرع ونصب الاحكام قال
بالخصوص ومنع الكسب فإذا وقفت على كلام أحد من اهل الله اصحاب الكشف يشير بكلمة الى الاكتساب
كابي حامد الفزالي وغيره فليس مرادهم ما ذكرنا ودقيناه ذاف فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في
آخر باب الصلاة من هذا الكتاب وهو لاءهم المقربون الذين قال الله فيهم عينا يشرب بهما المقربون وبه وصف
الله نبيه عيسى عليه السلام فقال وجها في الدنيا والآخرة ومن المقربين وبه وصف الملاك فقال ولا الملاك
المقربون ومعهم قطعاً جبريل كان ينزل بالوحى على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يطلق عليه في الشرع اسم
نبي مع انه بهذه المزالة فالنبوة مقام عند الله يناله البشر وهو مختص بالا كبار من البشر يعطى النبي "الشرع" ديعطى
لتتابع هذا النبي المشرع الجارى على سنته قال تعالى ووبنها آناء هرون نبيا فاذ انظر الى هـ المقام بالنسبة الى
التتابع وانه باتباعه حصل له هذا المقام سمي مكتسبا والعمل بهذا التتابع اكتسابا ولم يأبه شرع من ربه بخصوص به
ولا شرع ووصله الى غيره وكذلك كان هرون فسد نباب اطلاق لفظ النبوة على هذا المقام مع تحقيقه للاختيار
متخيلاً أن المطاف لهذا اللفظ يزيد بنبوة التshireem بعض الناس في الامام في حامد فقال عنه انه يقول
باكتساب النبوة في كمية السعادة وغير معاذ الله أن يزيد بحامد غير ما يزاد كرنا وسأذ كران شاء الله ما يختص به
صاحب هذا المقام من الاسرار المثانية به التي لا يعلمها الا من حصل له فاذا سمعتني أقول في هذا الباب وما يختص به هذا
المقام كذلك الذي أذكره همو من علوم اهل هذا المقام فلنذكره كروا لشرح ما يروى عليه من المقابلة
والاختلاف **﴿وصل﴾** اعلم أن الحق سبحانه في مشاهدة عباده ليأنسب بين نسبة تزويده ونسبة تزيل الى انتياب
بضربي من التشبيه فنسبة التزويده تجلبه في ليس كمثل شيء والنسبة الأخرى تجلبه في قوله عليه السلام اعبد الله كذلك تراه
وقوله ان الله في قبلة المصلى وقوله تعالى فأينما توافقه وجه الله وتم طرف وجه الله ذاته وحقيقة الاصدحيات
والآيات الواردة باللفاظ التي تطاق على المخلوقات بالتفصياب معانيها ايها او لا استصحاب معانيها ايها المفهومه من
الاصطلاح ما وقت الفائد بذلك عند المخاطب بها اذ لم يرد عن الله شرح ما اراد بها ما يخالف ذلك اللسان الذي نزل به
هذا التعريف الاطي قال تعالى وما رسلنا من رسول الى بلسان قوم لم يلين لهم يعني بل قدم لهم ما يفهموا ما هو الامر عليه
وليشرح الرسول المبعوث بهذه اللفاظ بشرح ما يوافق عليه الاصطلاح فتنسب تلك المعانى
المفهومه من تلك الانفاس الواردة الى الله تعالى كأنسبها لنفسه ولا يتعكم في شرحها بمعانى لا يفهمها اهل ذلك اللسان

فَإِنَّ النُّبُوَّةَ الَّتِي انْقَطَعَتْ بِجُوْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهَا هِيَ نُبُوَّةُ التَّشْرِيعِ لِامْقَامِهَا فَلَا شَرِيعَ يَكُونُ
نَاسِبًا لِالشَّرِيعَةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يَزِدُ حَكْمَهُ شَرِيعَةً أَخْرَى وَهَذَا مِنْ فَوْلَهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الرَّسُولَ وَالنُّبُوَّةَ قَدْ
انْقَطَعَتْ فَلَا رَسُولٌ بَعْدِهِ وَلَا نَبِيٌّ بَعْدِهِ يَكُونُ عَلَى شَرِيعَةٍ خَالِفَ الشَّرِيعَيْ بِلَّا إِذَا كَانَ يَكُونُ تَحْتَ حُكْمَ شَرِيعَتِيْ

(الفتحات المكية، جلد 2، صفحه 3)

حضرت امام محبی الدین ابن عربی فرماتے ہیں:- وہ نبوت جو رسول کریم ﷺ کے آنے سے منقطع ہو گئی ہے۔ وہ صرف تشریعی نبوت ہے نہ کہ مقام نبوت پس اب کوئی شرع نہ ہو گی جو آنحضرت ﷺ کی شرع کی ناخ ہو اور نہ آپ کی شرع میں کوئی نیا حکم بڑھانے والی شرع ہو گی اور یہی معنے رسول کریم ﷺ کے اس قول کے ہیں کہ نبوت اور رسالت منقطع ہو گئی ہے۔ پس میرے بعد نہ کوئی رسول ہو گا نبی۔ یعنی مراد آنحضرت ﷺ کے اس قول سے یہ ہے کہ اب کوئی ایسا نبی نہیں ہو گا جو میری شریعت کے خلاف شریعت پر ہو بلکہ جب کبھی کوئی نبی ہو گا تو وہ میری شریعت کے حکم کے ماتحت ہو گا۔

Hazrat Imam Mohyuddin Ibne Arbi has written: The Prophethood that terminated with the person of the Prophet of Allah, peace be on him and His blessings, was no other than the law-bearing prophethood not prophethood itself and this is the meaning of his 'Verily apostleship and prophethood ceased with me Therefore there shall be after me neither an apostle nor a prophet i.e. there shall not be after me a prophet with a law other than mine but that he shall be subject to my law."

(AlFatuhat ulMakiyya vol 2 page 3)

Hazrat Imam Mohyuddin Ibn Arbi schreibt: "Das Prophetentum, das mit dem Erscheinen des Heiligen Propheten^{saw} endet, ist nur das gesetzbringende Prophetentum, und nicht das Prophetentum als solches. Es kann demzufolge kein neues Gesetz (Scharia) geben, dass das Gesetz des heiligen Propheten abschafft, noch ein solches, dass diesem Gesetz ein neues Gebot hinzufügt. Und genau das ist die Bedeutung des folgenden Ausspruchs des Heiligen Propheten^{saw}: "Das Prophetentum (Nabuwat) und Gesandtentum (Rissalat) ist beendet und es kann weder einen Prophet noch einen Gesandter nach mir geben." Mit diesem Ausspruch meint der Heilige Prophet^{saw}, dass es keinen Propheten geben kann, der einem anderen Gesetz folgt als seinem, und wenn ein Prophet erscheinen sollte, dann wird er dem Heiligen Propheten^{saw} untergeordnet sein.

(alFatuhat ulMakiyya Bd 2 Seite 3)

الْيَوْمَ أَقْبَلَتِ الْجَوَاهِرُ فِي بَيَانِ عَقْدِ الْأَكَابِرِ

للإمام المارف الرباني سيدى عبد الوهاب الشمرانى
نفعنا الله وال المسلمين ببركاته وأفاض علينا من نفحاته
آمين

وبما شهد

الْكَبْرِيتُ الْأَحْمَرُ فِي يَانِ عِلُومِ الشَّيْخِ الْأَكْبَرِ

لصاحب اليواقيت والجوامير المذكور
ضاعف الله تعالى له أنسى الأجر

لِلْجَيْعَانِ الْمُلْكِيِّ

الطبعة الأخيرة
١٣٧٨ - م ١٩٥٩

شركة مكتبة وطبعية مصطفى البابي الحلبي وأولاده بصر

وقال لأنقوم الساعة حتى يظهر الكشف في الخواص والعام كلاماً قرب الساعة (٣٩) كان الكشف في الناس أكمل وأتم

تعالى فيها آوجهه من أمر ونهى وهذا من كرم الله تعالى بنا ولا يشعر به غالب الناس بل ربما اشتروا به والله أعلم . وقال الشيخ في الباب الثامن والثلاثين من الفتوحات لما أغلق الباب الرسالة بعد محمد صلى الله عليه وسلم كان ذلك من أشد ما تجرعه الأولياء موارث لانقطاع الروحى الذى كان به الوصلة بينهم وبين الله تعالى فانه قوت أرواحهم أنتى : وقال في الجواب الخامس والعشرين من الباب الثالث والسبعين أعلم أن النبوة لم ترقع مطلقاً بعد محمد صلى الله عليه وسلم وإنما ارتفع نبوة التشريع فقط فقوله صلى الله عليه وسلم لأنى بعدي لا رسول بعدى أي ما ثم يشرع بعدى شريعة خاصة فهو مثل قوله صلى الله عليه وسلم إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده وإذا هلك قيس فلا قيس بعده ولم يكن كسرى وقيس إملاكاً الروم والفرس وما زال الملك في الروم ولكن ارتفع هذا الاسم فقط مع وجود الملك فهم وسي ملوكهم باسم آخر غير ذلك وقد كان الشيخ عبد القادر الجيلى يقول أولى الآباء اسم النبوة وأولتى القبأ حجر علينا اسم النبي مع أن الحق تعالى يخبرنا في سر أنا بمعاني كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ويسمى صاحب هذا المقام من آباء الأولياء فغاية نبرتهم التعريف بالأحكام الشرعية حتى لا يخاطرها لأغراض أخرى (فإن قات) فما الحكم تشريع المحظدين (فاجلوب) أن المحظدين لم يشرعوا شيئاً من عند أنفسهم وإنما شرعاً ما قضاه نظرهم في الأحكام فقط من حيث إنه صلى الله عليه وسلم هو الذي أعطى المحظدين فصار حكمهم من جملة شرعه الذي شرعه فإنه صلى الله عليه وسلم هو الذي أجهد المادة التي أجهد فيها من الدليل ولو قدر أن المحظدين شرعاً لم يعطوه الدليل الواضح في الشارع رددها عليه لا يشرع لما ذكر به الله والله أعلم (خاتمة) مما يؤكد كون محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من سائر المسلمين وأنه خاتمهم وكائهم يستعملون منه ما قاله الشيخ في علوم الباب الأحد والسبعين وأربعاء من أنه ليس للأحداث انتقال علم يناله في الدنيا والآخرة إلا وهو من بطنه محمد صلى الله عليه وسلم سواد الآباء والملائكة المتقدمون على زمن يبعثونا وأخرون عنها وقد أخبرنا صاحب المقدمة بأنه أوقى علم الألوان والآخرين ونحن من الآخرين بلاشك وقد حرص محمد صلى الله عليه وسلم الحكيم في العلم الذي أوتيه فشمل كل علم متقول ومعقول ومفهوم وهو هو بفاجهدياً أعني أن تكون من يأخذ العلم بالله تعالى عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فإنه أعلم بخلق الله بالفعل والذكأن تختفي أخذان علماء أمته من غير دليل وهذا من نبأتك عليه فاحتفظ به ولا تقل حجرت واسعاً وقول قبيطي القتالي عليه من وجه الخاص الذي بين كل مخلوق وبين ربها عزوجل من غير واسطة محمد صلى الله عليه وسلم ماشاء من العلوم تدليل قصة الخضر عليه السلام مع موسي الذي هو رسول زمانه لأن أتقول نحن ماحجرنا عليك أن لاتعلم مطلقاً وإنما حجرنا عليك أن لا يكون لك علم ذلك إلا من بطنه محمد صلى الله تعالى عليه وسلم شعرت بذلك أيامه شعر . قال الشيخ ورواقه على ذلك الإمام أبو القاسم بن قسي في كتابه حلخ التعلين وهو من رواياتنا عن ابنه عنه بتونس سنة سبعين وخمسمائة والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب .

(المبحث السادس والثلاثون في عموم بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلى الجن والإنس وكذلك الملائكة على مasisa في فهو هذه فضيلة لم يشرك فيها أحد من المسلمين)

وقد ورد في صحيح مسلم وغيره وأرسلت إلى الخلق كافة وفسروا بالإنس والجن كافسرو وبه أيضاً من بلغ في قوله تعالى وأوحى إلى هذا القرآن لأندركم به ومن بلغ أى بلغة القرآن وكما فسروا بذلك أيضاً العالمين في قوله تعالى تبارك الذي نزل القرآن على عبد الله ليكون العالمين تذيراً قال الجلال الحسين سنة المحسوبة من ولاية معاوية فالحمد لله رب العالمين . وقال في الباب التاسع والأربعين وتلتها في جمجمة النبيين، وبين جميع آباءه

اعلم أن النبوة لم ترتفع مطلقاً بعد محمد صلى الله عليه وسلم وإنما ارتفع
نبوة التشريع فقط فقوله صلى الله عليه وسلم لاذني بعدي ولا رسول بعدي أى ما شرع بعدي
شريعة خاصة.

(ایواقیت والجواہر، ج2، صفحہ 39)

حضرت امام عبدالوہاب شعرانی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں! جان لو کہ مطلق نبوت بند نہیں ہوئی۔ صرف تشریعی نبوت بند ہوئی ہے۔ پھر لکھتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ کے قول لا نبی بعدي ولا رسول بعدي سے یہ مراد ہے کہ آپ کے بعد کوئی شخص شریعت خاصہ کے ساتھ تشریعی نبی نہیں ہو گا۔

Hazrat Imam Abdul Wahab Sha'rani says:- "Let it be known that the order of prophethood has not totally ceased; it is the law - bearing prophethood which has discontinued." Then while explaining the Hadith LA NABIYYA BA'DI and LAA RASOOLA BA'DI expounded that there shall be no law-bearing prophet after him.

(Alyawaqit Wal Jawahir Vol.2, Page:39)

Hazrat Imam Abdul Wahab Sha'rani sagt: "Wisset, das Prophetentum ist nicht beendet. Es ist das gesetzgebende Prophetentum, das aufgehoben wurde. Die A-Hadith LA NABIYYA BA'DI und LA RASOOLA BA'DI bedeuten nur, dass kein gesetzgebender Prophet folgen wird."

(AlYawaqit Wal Jawahir Bd.2, Seite:39)

بِرْوَحُ الْمَعَانِي

تَفْسِيرُ الْقَرْآنِ الْعَظِيمِ وَالسِّعْ مِنْهُ

لخاتمة المحققين وعمدة المدققين مرجع أهل العراق
ومقى بغداد العلامة أبي الفضل
شهاب الدين السيد محمود الالوسي البغدادي
المتوفى سنة ١٤٧ هـ سقى الله ثراه
صليب الرحمة وأفاض عليه سجال
الإحسان . والنعمة آمن

— 2 —

الجزء الحادى والعشرون

عنيت ببشره وتصحيحه والتعليق عليه للمرة الثانية باذن من ورثة المؤلف يحيط وإيمانه علامه العراق
المرحوم السيد محمود شكري الالوسي البغدادي)

ادارۃ الطبع واعۃ المنشیرۃ

السَّمَاءُ الْعَرَبِيُّ

بَيْرُوت - لِبَنَان

الطبعة الرابعة

١٩٨٩ - ١٤٠٥

مصر : درب الاتراك رقم ١

٤٩

رؤية الصالحين للملائكة

ملائكة خالف ما ألقاه وأتقى به الكتاب أو السنة أو جماع الامة ومثله في أرجي التكام بما يشبه المذهبان ويضحك منه الصبيان وينبني لمن وقع له ذلك أن لا يشفعه ويعلن به لما فيه من التعرض للفتنة، فقد أخرج مسلم عن مطرف أيضاً من وجه آخر قال: بعث إلى عمران بن حصين في مرضه الذي توفى فيه فقال: إن محدثك فلان عشت فأكتم عني وإن مت فحدث بها ابن شئت إنه قد سلم على - ورواية الحاكم في المستدرك - أعلم بما تعرف أنه كان سلم على الملائكة عند رأسي وعنداليت وعند باب الحجرة فلما أكتومت ذهاب ذلك قال: فلما برأ له قال: أعلم بما تعرف أنه عاد إلى الذي كنت أكتم على حق أموات، وكذا ينبع أن لا يقول للاقام الملك عليه إحياء ملائكة من الآيات القبيح وهو إيهام وحي النبوة الذي يكفر مدعيه بعد رسول الله ﷺ بلا خلاف بين المسلمين، وأطلق بعض الغلاة من الشيعة القول بالإيمان إلى الأمة الأطهار وهم رضى الله تعالى عنهم بمغزل عن قبول قول أولئك الاشرار • وقد روى أن سديراً الصيرفي سأله جعفرا الصادقاً رضي الله تعالى عنه فقال: جعلت فداك إن شئتمكم اختلفت فيكم فاكتبرت حتى قال بعضهم: إن الإمام ينكت في ذاته ، وقال آخرون: يوحى إليه ، وقال آخرون: يقذف في قلبه ، وقال آخرون: يرى في منامه ، وقال آخرون: إنما يفتح بكتاب آبائه فبأبي جوابهم آخذ بعملني الله تعالى فداك • قال: لا تأخذ بشيء ما يقولون يا سديراً نحن حجاج الله تعالى وأماناؤه على خلقه حلالنا من كتاب الله تعالى وحراماً منه، حكاها محمد بن عبد الكريم الشمرستاني في أول تفسيره مفاتيح الأسرار وقد ظهر في هذا المصر (١) عصابة من غلاة الشيعة لقبوا أنفسهم بالبالية لهم في هذا الباب نصول بحكم بكفر معتقدها كل من انتظم في سلك ذوى العقول، وقد كاد يتمكن هرقل في العراق لولا همة واليه التجيب الذي وقع على همه ودياته الاتفاق حيث خذلهم نصره الله تعالى وشتت شملهم وغضب عليهم رضي الله تعالى عنه وأفسد عملاً لهم فجزاه الله تعالى عن الاسلام خيراً ودفع عنه في الدارين ضيماً وضيراً. وادعى بعضهم الوحي إلى عبيده عليه السلام بعد نزوله ، وقد سئل عن ذلك ابن حجر المishihi ف قال: نعم يوحى إليه السلام وحي حقيقي كما في حدث مسلم وغيره عن النواس بن سمعان ، وفي رواية صحيفحة «فيهناه» كذلك إذا حوى الله تعالى ياعبيه أن أخرجه عباداً لي لا يد لأحد بقتالم حقول عبادي إلى الطور وذلك الوحي على لسان جبريل عليه السلام إذ هو السفير بين الله تعالى وانياته» لا يعرف ذلك لنبيه، وخبر لا وحي بعدي باطل، وما شهـر أن جبريل عليه السلام لا ينزل إلى الأرض بعد موته النبي ﷺ فهو للأصل له، ويرده خير الطهار أن يرجـد الجنـب حتى يتوضـأ فـإن أشـافـ أن يـقـوـيـ وـمـاـيـحـضـرـهـ جـبـرـيلـ عـلـيـهـ السـلـامـ فـإـنـ يـدـلـ عـلـيـ أـنـ جـبـرـيلـ يـنـزـلـ إـلـىـ الـأـرـضـ وـيـحـضـرـ وـوتـ كلـ مـؤـمـنـ توـفـاـتـ اللهـ تـعـالـيـ وـهـ عـلـ طـهـارـةـاهـ، وـلـعـلـ مـنـ فـيـ الـوـحـيـ عـنـهـ عـلـيـهـ السـلـامـ بـعـدـ زـلـهـ أـدـوـحـيـ الشـرـيـعـ وـمـاـذـكـرـوـحـيـ لـاـتـشـرـيـعـ فـيـ قـاتـلـهـ وـكـونـهـ خـاتـمـ النـبـيـنـ مـاـنـظـقـ بـالـكـتـابـ وـصـدـعـتـ بـالـسـنـتـ وـاجـمـعـتـ عـلـيـهـ الـأـمـةـ فـيـ كـفـرـ مـدـعـيـ خـلـافـهـ وـيـقـتـلـ أـصـرـهـ وـمـنـ السـنـتـ مـاـأـخـرـجـ أـحـمـدـ وـالـبـخـارـيـ . وـمـسـلـمـ . وـالـبـخارـيـ . وـابـنـ مرـدوـيـهـ عـنـ أـبـيـ هـرـيـرـةـ أـنـ رـسـوـلـ اللهـ ﷺ قـالـ: مـثـلـ وـمـيـلـ الـأـنـبـيـاءـ مـنـ قـبـلـ كـمـلـ رـجـلـ بـنـ دـارـاـ بـنـ فـأـسـنـهـ وـاجـلـهـ الـأـمـوـضـعـ بـنـةـ مـنـ زـوـيـةـ مـنـ زـوـيـةـ مـنـ زـوـيـةـ فـجـعـلـ النـاسـ يـطـوـفـونـ بـهـ وـيـتـعـجـبـونـ لـهـ وـيـقـولـونـ هـلـاـ وـضـعـتـ هـذـهـ الـلـبـنـةـ فـاـنـاـ الـلـبـنـةـ وـأـنـاـ خـاتـمـ النـبـيـنـ» وـصـحـ عنـ جـابـرـ مـرـفـوـعـ نـحـوـهـهـ، وـكـذـاـ عـنـ أـبـيـ كـمـبـيـ وـأـبـيـ سـعـيدـ الـخـدـرـيـ رـضـيـ اللـهـ تـعـالـيـ عـنـهـمـ، وـلـشـيـخـ حـيـيـ الـدـيـنـ بـنـ عـرـفـ

(١) سنة ١٢٦١ هـ منه

٦ - ج - ٢٢ - تفسير روح المعان

وَخُبْرٌ لَا وَحْيٍ بَعْدِي بَاطِلٌ، وَمَا اشْتَهَرَ أَنْ جَبَرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا يَنْزَلُ إِلَى الْأَرْضِ بَعْدَ مَوْتِ النَّبِيِّ ﷺ
فَوْ لَا أَصْلُ لَهُ،

وَاعْلَمُ مِنْ نَفْيِ الْوَحْيِ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَعْدِ زُولَهُ أَرَادُوهُ التَّشْرِيعُ وَمَا ذَكَرُ وَحْيٌ لَا تُشْرِيعُ فِيهِ فَأَمْلَءُ

(روح المعانی، زیر آیت احزاب آیت مکاکٰت مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ قَنْ رِجَالُكُمْ، جلد 21 صفحہ 41)

علامہ ابو الفضل شہاب الدین السيد محمود البغدادی تفسیر روح المعانی میں لکھتے ہیں ” حدیث لا وحی بعد موتی باطل ہے اور جو یہ مشہور ہے کہ آنحضرت ﷺ کے بعد جبریل زمین کی طرف نازل نہیں ہوں گے ایک بے اصل بات ہے۔۔۔ اور شائد جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد ان پر وحی کی نفی کی گئی۔ اس سے تشریعی وحی مراد ہے اور جہاں وحی کے نزول کا ذکر ہے وہاں غیر تشریعی وحی مراد ہے۔

Allama Abul Fadhl Shihabuddin ASSAYYAD Mahmud says in his commentary on the Holy Quran:- the tradition, that there is no revelation after me is absurd. The notion that Gabrael will not descend to the earth after the demise of the Holy Prophet, peace and blessings of Allah be upon him, has no foundation at all Most probably what is meant by the negation of revelation regarding Isa, peace be on him, after his descent is the revelation of the Law, but what has been described, is the revelation without the Law.

(Rooh ulmaani Vol 21, Page 41)

Allama Abul Fazl Shihabuddin Asseyed Mahmud schreibt in seiner Auslegung des Heiligen Qurân: "Die Überlieferung, dass "nach mir keine Offenbarung herabgesandt wird", ist absurd und die Behauptung, dass nach dem Heiligen Propheten^{saw} der Erzengel Gabriel nicht mehr hinabgesandt werde, hat keinen authentischen Ursprung. Wahrscheinlich ist mit der Verneinung der Möglichkeit von Offenbarungen in Bezug auf Jesus (bei seiner Wiederkunft) die Offenbarung eines neuen Gesetzes gemeint, nicht jedoch die Offenbarung ohne jegliche Gesetzgebung.

(Rooh ulmaani Bd. 21, Seite 41)

فِصْوَاحُ الْأَكْمَمِ

وَالْتَّعْلِيقَاتُ عَلَيْهِ

لِشِيخِ الْأَكْبَرِ مُحَمَّدِيِّ الدِّينِ بْنِ عَرَبِيِّ الْمَتْوَنِيِّ ٦٣٨ هـ

— ١٣٤ —

واعلم أنها^(١) لا تسمى مفاتيح^(٢) إلا في حال الفتح ، وحال الفتح هو حال تعلق التكوين بالأشياء ؛ أو قل إن شئت حال تعلق القدرة بالمقدور^{(٤) - ٥}) ولا ذوق لغير الله^(٣) في ذلك . فلا يقع فيها تجلٌّ ولا كشف ، إذ لا قدرة ولا فعل إلا لله^(٣) خاصة ، إذ له الوجود المطلق الذي لا يتقييد . فلما رأينا عتب الحق له عليه السلام في سؤاله في القدر علمنا أنه طلب هذا الاطلاع ، فطلب أن يكون له قدرة تتعلق بالمقدور ، وما يقتضي ذلك إلا مَنْ له الوجود المطلق . فطلب ما لا يمكن وجوده في الخلق ذوقاً ، فإن الكيفيات لا تدرك إلا بالأدوات . وأما ما رويَناه مما أوحى الله^(٤) به إلينا لئن لم تنتنِ لأحْمُون^(٥) اسمك من ديوان النبوة ، أي أرفع عنك طريق الخبر واعطيك الأمور على التجلي ، والتجلي لا يكون إلا بما أنت عليه من الاستعداد الذي به يقع الإدراك الذوقي ، فتعلم أنك ما أدركت إلا بحسب استعدادك فتنظر في هذا الأمر الذي طلبتَ ، فإذا^(٦) لم تره تعلم أنه ليس عندك الاستعداد الذي تطلبه وأن ذلك من خصائص الذات الإلهية ، وقد علمت أن الله أعطى كل شيء خلقه : ولم يعطك هذا الاستعداد الخاص ، فما هو خلقك ، ولو كان خلقك لأعطيكه الحق الذي أخبر أنه «أعطى كل شيء خلقه» . فتكون أنت الذي تنتهي عن مثل هذا السؤال من نفسك ، لا تحتاج فيه إلى نهي إلهي . وهذه^(٤) - ب) عنانة من الله بالعزيز عليه السلام عَلَيْهِ ذلِكَ مِنْ عِلْمِهِ وَجْهَهُ مِنْ جَهَلِهِ .

واعلم أن الولاية هي الفلك^(٧) «المحيط العام» وهذا لم تقطعه ، ولها الإنباء العام .
وأما نبوة التشريع والرسالة فنقطعه^(٨) . وفي محمد صلى الله عليه وسلم قد انقطعت ،

٨

(١) «أ» و «ن» : أنه (٢) ب : بالفاتحة - ن : مفاتيح (٣) ١ : + تعالى في الحالتين

(٤) ١ : + تعالى (٥) ١ : لأحْمُون (٦) فلام (٧) ب : الملك

(٨) ب : المنقطعة

— ١٣٥ —

فلا ينفي بعده : يعني مشرعاً أو مشرعاً له ، ولا رسول وهو المشرع . وهذا الحديث قَصْمَ ظهور أولياء الله لأنه يتضمن انقطاع ذوق العبودية الكاملة التامة . فلا ينطلق عليه اسمها الخاص بها فما كان العبد يريد أعلاً يشارك سيده – وهو الله^(١) – في اسم ؛ والله^(٢) لم يتم^(٣) ببني ولا رسول ، وتسمى بالولي وتصف بهذا الاسم فقال « الله^(٤) ولِي الَّذِينَ آمَنُوا » : وقال « هو الولي الحميد ». وهذا الاسم باقٍ جار على عباد الله دنياً وآخرة . فلم يبق اسم يختص به العبد دون الحق بانقطاع النبوة والرسالة : إلا أن الله لَطَافَ^(٤) بعباده ، فأبقى لهم النبوة العامة التي لا تشرع فيها ، وأبقى لهم التشريع في الاجتماعات في ثبوت الأحكام ، وأبقى لهم الوراثة في التشريع فقال « العلامة ورثة الأنبياء ». وما آتَمَ ميراث في ذلك إلا فيما اجتهدوا فيه من الأحكام فسرّعوه . فإذا رأيت النبي ٩ يتكلّم بكلام خارج عن التشريع فمن حيث هو ولِي^(٥) وعارف ، ولهذا ، مقامه (٥٥ - ب) من حيث هو عالم أتم وأكمل من حيث هو رسول أو ذو تشريع وشرع . فإذا سمعت أحداً من أهل الله يقول أو ينقل إليك عنه أنه قال الولاية أعلى من النبوة ، فليس يريد ذلك القائل إلا ما ذكرناه . أو يقول إن الولي فوق النبي والرسول ، فإنه يعني بذلك في شخص واحد : وهو أن الرسول عليه السلام – من حيث هو ولِي – أتم من حيث هونبي رسول^(٦) ؛ لأن الولي التابع له أعلى منه ، فإن التابع لا يدرك المتبوع أبداً فيما هو تابع له فيه^(٧) ؛ إذ لو أدر كه لم يكن تابعاً^(٨) له فافهم . فرجع الرسول والنبي المشرع إلى الولاية والعلم . لا ترى الله تعالى قد أمره بطلب الزيادة من العلم لا من غيره فقال له آمِرَاً « وقل^(٩) ربَّ

(١) أ : + تعالى (٢) ب : لم يسم - ١ : لا يتسمى (٣) ن : ساقطة

(٤). ب : لطيف لطف - ن : لطيف بعبادة (٥) الواو ساقطة في ب

(٦) ن : رسول (٧) ب : ساقطة (٨) أ : تابع (٩) « ب » و « ن » : قل من غير الواو

وأما نبوة التشريع والرسالة فنقطعه^(٨). وفي محمد صلى الله عليه وسلم قد انقطعت، فلا نبي بعده : يعني مشرعاً أو مشرعاً له ، ولا رسول وهو المشرع
أن الله لَيَطْبَّ^(٤) بِعِبَادِه ، فَأَبْقَى لَهُمُ الْنَّبُوَةَ الْعَامَةَ الَّتِي لَا تُشَرِّعُ فِيهَا ،

(فصول الحكم . صفحه 134-135)

حضرت امام حجی الدین ابن عربی فرماتے ہیں۔ کہ جو نبوت اور رسالت شریعت والی ہوتی ہے۔ پس وہ تو آنحضرت ﷺ پر ختم ہو گئی ہے پس آپ کے بعد شریعت والا نبی کوئی نہیں آسکتا۔۔۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر مہربانی کر کے ان میں عام نبوت جس میں شریعت نہ ہو باقی رہنے دی ہے۔

Hazrat Imam Muhyuddin Ibn Arabi Says:- "In so far as the law-bearing prophethood is concerned, it verily ceased and terminated in Muhammad, peace and blessings of Allah be upon him, and therefore has there is no law-giving prophet after him.... but Allah has in His graciousness to His servants, continued general prophethood without the law-bearing elements."

(Fusus ul Hikam, Page 134-135)

Ein neues Gesetz (Scharia) durch einen Propheten und Gesandten ist nach dem Erscheinen des Heiligen Propheten ausgeschlossen. Nach ihm wird kein gesetzbringender Prophet erscheinen [...], doch aufgrund der Barmherzigkeit Gottes zu seinen Dienern wird für sie weiterhin das Prophetentum ohne Gesetz bestehen bleiben.

(Fusus ul Hikam, Seite 134-135)

سِرِّيْنَ الْنَّسَائِيْنَ
بِشَرِّحِ اِحْيَا فِطْحَ جَلَالِ الدِّينِ إِلَى تِيْمُوْطِي
وَحَاشِيَةِ الْأَمَامِ الْكَنْدِيِّ

الْجَزْءُ الْأَوَّلُ

وَلَرِ الْجَيْتَلَه
بَيْعَت

فضل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والصلاحة فيه

أخبرنا كثیر بن عبید قال حدثنا محمد بن حرب عن الزیدی عن الرہری عن أبي سلۃ بن عبد الرحمن وَأَبِي عبد الله الأغر مولی الجہنین وکان من أصحاب أبي هریرة انهم سمعاً ابا هریرة يقول صلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل من الف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام فان رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر الانیاء ومسجده آخر المساجد قال أبو سلمة وابو عبد الله لم نشك ان ابا هریرة كان يقول عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنعا ان نستحب ابا هریرة في ذلك الحديث حتى إذا توفى ابو هریرة ذكرنا ذلك وتلامذنا ان لا تكون كلمنا ابا هریرة في ذلك حتى يُسندُ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان سمعه منه فيينا تحن على ذلك جالسنا عبد الله بن ابراهيم بن قارظ فذكرنا ذلك الحديث والذى فرطنا فيه من نص ابي هریرة فقال لنا عبد الله بن ابراهيم اشهد انى سمعت ابا هریرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاني آخر الانیاء و انه آخر المساجد . أخبرنا قتيبة عن مالك عن عبد الله بن ابی بکر عن عباد بن تمیم عن عبد الله بن زید قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينی بیتی و منبری روضة من ریاض الجنة . أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفیان عن عمار الدهنی

﴿ما بين بيتي ومنبري﴾ المراد أحد بيته لا كلها وهو بيت عائشة الذي صار فيه

دلالة البطل عليه فليتأمل والله تعالى أعلم . قوله ﴿آخر المساجد﴾ أي آخر المساجد الثلاثة المشهود لها بالفضل أو آخر مساجد الانیاء أو أنه يقع آخر المساجد ويتأخر عن المساجد الأخرى في القناة أي

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنِّي أَخْرُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّهُ أَخْرُ الْمَسَاجِدِ

(سنن النسائي، باب فضل مسجد نبوی ﷺ و صلوٰۃ فیه جلد 2 صفحہ 35)

آنحضرت ﷺ نے فرمایا ! میں آخری نبی ہوں اور یہ مسجد (یعنی مسجد نبوی) آخری مسجد ہے۔

The Holy Prophet, peace and blessings of Allah be upon him, said:- " I am the last of the Prophets and my mosque is the last of the mosques."

(Sunan un Nassai, Vol: 2, Page:35)

Der Heilige Prophet^{saw} sagte: "Ich bin der letzte der Propheten und meine Moschee ist die letzte der Moscheen."

(Sunan un Nassai, Bd.: 2, Seite:35)

الفتاوی الحدیثیة

تالیف

خاتمة الفقهاء والحدیثین الشیخ
أحمد شهاب الدین بن حجر الھیتمی المکی

٩٧٤ - ٩٠٩

الطبعة الثانية

م ١٣٩٠ = ١٩٧٠ م

— ١٧٦ —

صَدِيقًا نَبِيًّا ، وَفِي رِوَايَةِ عَنْ أَنْسٍ أَنَّهُ رَفَعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَرَوَاهُ ابْنُ مَنْدَهُ وَالْبَيْتَىْ عَنْ أَبْنَىْ عَبَاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَأَنْتَرَجَ أَيْضًا وَقَالَ فِيهِ مِنْ لِيْسَ بِالْقَوْىِ عَنْ عَلَىْ بْنِ أَبِي طَالِبٍ « لَمَا تَوَفَّ إِبْرَاهِيمَ أَرْسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَىْ أَمَّهُ مَارِيَةَ فَجَاءَهُ وَغَسَلَهُ وَكَفَّتَهُ وَخَرَجَ بِهِ وَخَرَجَ النَّاسُ مَعَهُ فَذَفَنَهُ ، وَأَدْخَلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ فِي قَبْرِهِ فَقَالَ : أَمَا وَاللَّهِ إِنَّهُ لَنَبِيٌّ ابْنُ نَبِيٍّ وَبَكَىْ وَبَكَىْ الْمُسْلِمُونَ حَوْلَهُ حَتَّىْ ارْتَفَعَ الصَّوْتُ ، ثُمَّ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَدَمَّعَ الْعَيْنُ وَيَعْرِنَ الْقَلْبُ وَلَا تَنْوِيلٌ مَا يَنْقُضُ الْرَّبُّ وَإِنَا عَلَيْكَ يَا إِبْرَاهِيمَ لَحْزَوْنَنَ » ، وَرَوَىْ أَبُو دَادُ أَنَّهُ مَاتَ وَعَرَهُ ثَمَانِيَّةُ عَشَرَ شَهْرًا فَلَمْ يَصُلْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « صَحَّةُ ابْنِ حَزْمٍ . قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : أَعْتَلَ مِنْ سَلَّمَ تَرْكَ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ بِعِلْمٍ : مِنْهَا : أَنَّهُ أَسْتَغْفَى بِفَضْلِيَّةِ أَبِيهِ عَنِ الصَّلَاةِ كَمَا أَسْتَغْفَى الشَّهِيدَ بِفَضْلِيَّةِ الشَّهَادَةِ ، وَمِنْهَا : أَنَّهُ لَا يَعْصِي نَبِيًّا عَلَىْ نَبِيٍّ ، وَقَدْ جَاءَهُ وَأَوْعَشَ لَكَانَ نَبِيًّا أَنْتَهُ . وَلَا بَعْدَ إِبَاتِ التَّبَوَّةِ لَهُ مَعَ صَفَرَهُ لَأَنَّهُ كَعِيسَى الْقَاتَلِ يَوْمَ وَلَدٍ (أَبْنَىْ عَبْدَ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ) وَجَعْلَىْ نَبِيًّا) وَكَيْحَىُ الَّذِي قَالَ تَعَالَى فِيهِ (وَآتَيْنَاهُ الْحَسْكَمَ فِيَّا) قَالَ الْمُفَسِّرُونَ : نَبِيٌّ وَعَرَهُ ثَلَاثَ سَنِينَ وَاحْتَمَلَ زَرْوَلَ جَبَرِيلَ بُوْحَىْ لَعِيَّى أَوْ بُخَىْ بَجَرِىِ الْحَسْكَمَ فِيَّا) ، وَبِرَجْحِهِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْمُهُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَعَرَهُ ثَمَانِيَّةُ أَشْهَرٍ ; وَذَكَرَ السَّبْكُ فِي حَدِيثِ « كَنْتُ نَبِيًّا وَآدَمَ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ » إِنَّ الإِشَارَةَ بِذَلِكَ إِلَىْ رُوحِهِ لَأَنَّ الْأَرْوَاحَ خَلَقْتُ قَبْلَ الْأَجَادَادِ أَوْ إِلَىْ حَقِيقَتِهِ وَالْحَقَّاقَاتِ تَقَصَّرَ عَقْولُكُمْ عَنْ مَعْرِفَتِهِ ، ثُمَّ إِنَّ تَلَكَ الْحَقَّاقَاتِ يَرْتَبِطُ اللَّهُ كُلُّ حَقِيقَةٍ مِنْهَا مَا يَشَاءُ فِي الْوَقْتِ الَّذِي يَشَاءُ ، فَحَقِيقَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ تَكَوَّنَ مِنْ قَبْلِ خَلَقَ آدَمَ أَتَاهَا اللَّهُ كُلُّ مَاهِيَّةٍ مِنْهَا يَكُونُ خَلْقَهَا اللَّهُ مَهِيَّةٌ لَهُ وَأَفَاقَهُ عَلَيْهَا مِنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ فَصَارَ نَبِيًّا أَهُ . وَبِهِ يَعْلَمُ تَحْقِيقَتِهِ نَبِيَّةُ سِيدَنَا إِبْرَاهِيمَ فِي حَالِ صَفَرَهُ .

رَمَطَابٌ : فِي أَنَّ الْحَسْنَ الْبَصْرِيَّ سَعَىْ مَعَ عَلَىْ عَلَىِ الصَّحِيحِ]

وَسَلِّلْ نَفْعَ اللَّهِ بِعْلَمَهُ : هُلْ يَعْمَلُ الْحَسْنَ الْبَصْرِيَّ مِنْ كَلَامِ عَلَىِ كَرَمِ اللَّهِ وَجْهِهِ حَتَّىْ يَتَمَّ نَسَادَةُ الصَّوْنِيَّةِ مَسْدِ خَرْقَمَ وَنَقْيَنِهِمُ الْمَذَكُورُ الْمَرْوِيُّ عَنْ عَلَىِ كَرَمِ اللَّهِ وَجْهِهِ ؟

وَثَجَابٌ بِقَوْلِهِ : اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي فَانِكَرَةِ الْأَكْرَبِ وَأَنْبَتِهِ بِجَمَاعَةِ . قَالَ الْحَافِظُ السَّيُوطِيُّ : وَهُوَ الْمُرْجِحُ عَنْدِي كَالْحَافِظِ ضِيَاءِ الدِّينِ الْمَقْدَسِيِّ فِي الْمُخْتَارَةِ ، وَالْحَافِظِ شِيْعَةِ الْإِسْلَامِ ابْنِ حَمْرَاجِيِّ أَطْرَافِ الْمُخْتَارَةِ لِوَجْهِهِ :

الْأُولُّ : أَنَّ الْمَيْتَتْ مَقْدَمٌ عَلَىِ النَّافِيِّ . النَّافِيِّ : أَنَّهُ وَلَدَ لَسْتَنِيْ بَقِيَّتِهِ مِنْ خَلَافَةِ عَمِّ وَمِيزِ اسْبَعِ وَأَمِيرِ الْمَسَاجِدِ أَوْ بِالصَّلَاةِ فِيَّا كَانَ يَخْضُرُ الْجَمَاعَةَ وَيَصْلِي خَلْفَ عَمَّا إِلَىْ أَنْتَفَلَ وَعَلَىِ إِذَا ذَلِكَ بِالْمَدِينَةِ يَخْضُرُ الْجَمَاعَةَ كُلَّ فَرْضٍ وَلَمْ يَخْرُجْ مِنْهَا إِلَّا بَعْدِ قَتْلِ عَمَّا زَانَ وَسَنَ الْحَسْنَ إِذَا ذَلِكَ أَرْبَعَ عَشَرَةَ سَنَةً فَكَيْفَ يَنْكِرُ سَيَّاهَةَ مَهِيَّةِهِ مَعَ ذَلِكَ وَدُوَيْجَتْمَعُ مَعَهُ كُلُّ يَوْمٍ بِالسَّلْجُودِ حَسِنٌ مَرَاتٌ مَلَدَةٌ سَبِعُ سَنِينَ ، وَمَنْ ثُمَّ قَالَ عَلَىِ بْنِ الْمَذَنِيِّ : رَأَىْ الْحَسْنَ عَلَيَا بِالْمَدِينَةِ وَهُوَ غَلامٌ ، وَزِيَادَةُ عَلَىِ ذَلِكَ أَنَّ عَلَيَا كَانَ يَزُورُ أَمْهَاتِ الْمَأْمُونِيَّنَ وَمِنْهُنَّ أَمْ سَلَمَةَ وَالْمَالِكَنَ فِي بَيْتِهِ هُوَ وَأَمِيرُ حَبْرٍ إِذَا هُنْ مَوْلَادُهُمَا ، وَكَانَتْ أَمْ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَخْرُجُهُ إِلَىِ الصَّحَابَةِ يَبْارِكُونَ عَلَيْهِ ، وَتَخْرُجُهُ إِلَىِ عَرَضِ الْمَرْيَى فِي التَّهْذِيبِ مِنْ طَرِيقِ أَبِي نَعِيمٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَدْرِكْهُ ، فَقَالَ كُلُّ شَيْءٍ قَلَّتْهُ فَنَوَّهَ عَنْ عَلَىِ غَيْرِ أَنِّي فِي زَمَانٍ لَا أُسْتَطِيعُ أَنْ أَذْكُرَ عَلَيَا : أَنِّي زَمَانٍ اخْجَاجٍ ، ثُمَّ ذَكَرَ الْحَافِظُ أَحَادِيثَ كَثِيرَةً وَقَعَتْ لَهُ مِنْ رِوَايَةِ الْحَسْنِ عَنْ عَلَىِ كَرَمِ اللَّهِ وَجْهِهِ ، وَفِي بَعْضِهَا وَرَجَالُهُ ثَقَاتٌ قَوْلُ الْحَسْنِ سَعَمَتْ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « مَثُلُ أَمَّيَّ مَثُلُ الْمُطَهَّرِ » . اخْتَدَبَهُ .

عن علي بن أبي طالب و لما توفي إبراهيم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى
أمّه ماريّة فجاءته و غسلته و كفنته وخرج به وخرج الناس معه فدفنه، وأدخل صلى الله عليه وسلم يده في قبره
فقال : أما والله إنه لبني ابْنَ نَبِيٍّ وَبَكَ الْمُسْلِمُونَ حَوْلَهُ حَتَّىْ ارْفَعَ الصَّوْتَ :

(الفتاوى الحديثية، صفحه 176)

حضرت علی ابن ابی طالب روایت کرتے ہیں کہ جب ابراہیم (آنحضرت ﷺ کا بیٹا) فوت ہوا تو آپ نے اس کی والدہ ماریہ کو بلا بھیجا چنا پچھہ وہ آئیں اور انہوں نے اسے غسل دیا اور کفن پہنایا اور آنحضرت ﷺ اس کو لے کر نکلے اور لوگ بھی آپ کے ساتھ نکلے۔ پھر اس کو دفن کیا۔ بی اکرم ﷺ نے اپنا ہاتھ اس کی قبر میں ڈالا پھر فرمایا! خدا کی قسم یہ یقیناً بھی اور نبی کا بیٹا ہے۔ آنحضرت ﷺ روئے اور آپ کے ارد گرد کے صحابہؓ بھی روئے بیہاں تک کہ روئے کی آواز بلند ہوئی۔

Hazrat Ali Bin Abi Talib, Allah be pleased with him has narrated:- "When Hazrat Ibrahim the son of the Holy Prophet, peace and blessings of Allah be upon him passed away, he called Hazrat Mariya, deceased child's mother who washed and bathed her child and wrapped him in the coffin cloth. The Holy Prophet, peace and blessings of Allah be upon him then held him in his arms and came out of his house. A few more men were also with him. He went and got the child buried and placing his hand in the grave said, "By Allah, he is decidedly a prophet and the son of a prophet." So he wept and people around him wept so much so that one could hear their weeping.

(Fatawa alHadithiyya page 176)

Hazrat Ali bin Abi Talib berichtet: "Als Ibrahim (Sohn des Heiligen Propheten^{saw}) starb, rief er (der Heilige Prophet^{saw}) seine (Ibrahims) Mutter Maria. Sie kam und wusch den Leichnam und hüllte ihn in ein Leinentuch ein. Sodann hob ihn der Heilige Prophet^{saw} auf seine Arme und kam aus seinem Haus. Einige andere Männer waren ebenfalls mit ihm. Er begrub ihn. Der Heilige Prophet^{saw} reichte seine Hand in sein Grab und sprach: "Bei Gott, er ist ein Prophet und Sohn eines Propheten". Der Heilige Prophet^{saw} und seine Gefährten weinten so sehr, dass man sie hören können.

(Fatawa alHadithiyya Seite 176)

الْأَئِمَّةُ الْمَرْفُوعُونَ
فِي
الْأَخْبَرِ الْمَوْضُوعُونَ
المعروف بالمواضيع الكبرى
للعلامة نور الدين : علي بن محمد بن سلطان
المشهور بالثلاة علي القاري
المتوفى ١٠٤٦ هـ

تحقيق
خادم السنة المطهرة
ابو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغول

دار الكتاب الهمة
بيروت - لبنان

حَمَدْ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكُنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّنَ ﷺ (٤٢٢) فَإِنَّهُ يَوْمَئِلُ إِلَيْهِ بَأَنَّهُ لَمْ يَعْشُ لَهُ وَلَدٌ يَصِلُّ إِلَى مِثْلِ الرِّجَالِ، فَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْ صَلَبِهِ يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ لَبَّ قَلْبِهِ كَمَا يُقَالُ: «الْوَلَدُ سِرُّ أُبَيْهِ». وَلَوْ عَاشَ وَبَلَغَ أَرْبَعينَ وَصَارَ نَبِيًّا لَوْرِمَ أَنْ لَا يَكُونَ نَبِيًّا خَاتَمَ النَّبِيِّنَ .

وَأَمَّا قَوْلُ ابْنِ حَجْرِ الْمَكِيِّ: وَتَأْوِيلُهُ أَنَّ الْقَضِيَّةَ الشَّرْطِيَّةَ لَا تَسْتَلِزُمُ وَقْوَعَ الْمَقْدَمِ، وَأَنَّ إِنْكَارَ التَّوْوِيِّ كَابْنِ عَبْدِ الْبَرِّ لِذَلِكَ فَلَعْدُمْ ظَهُورِ هَذَا التَّأْوِيلِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ، فَبَعِيدٌ جَدًا أَنْ لَا يَفْهَمَ الْإِمَامَانِ الْجَلِيلَانِ مِثْلِ هَذِهِ الْمَقْدَمَةِ، إِنَّمَا الْكَلَامُ عَلَى فَرْضِ وَقْوَعِ الْمَقْدَمِ فَافْهُمْ، وَاللَّهُ سَبَّحَانَهُ أَعْلَمُ.

٧٤٥

ثُمَّ يَقْرُبُ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ فِي الْمَعْنَى حَدِيثٌ :

«لَوْ كَانَ بَعْدِي نَبِيٌّ لَكَانَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابَ» (٤٢٣). وَقَدْ رَوَاهُ أَحَدُ وَالْحَاكِمُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ بْنِ مَرْفُوعًا .

قَلْتُ: وَمَعَ هَذَا لَوْ عَاشَ إِبْرَاهِيمُ وَصَارَ نَبِيًّا، وَكَذَا لَوْ صَارَ عُمَرُ نَبِيًّا لَكَانَا مِنْ أَتَبَاعِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَعِيسَى وَالْخَضْرُ وَالْإِيَاسُ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ، فَلَا يُنَاقِضُ قَوْلَهُ تَعَالَى ﷺ وَخَاتَمَ النَّبِيِّنَ (٤٢٤) إِذَ الْمَعْنَى: أَنَّهُ لَا يَأْتِي نَبِيٌّ بَعْدَهُ يَنْسَخُ مِلَّتَهُ وَلَمْ يَكُنْ مِنْ أَمْتَهِ .

وَيَقُولُ حَدِيثٌ «لَوْ كَانَ مُوسَى حَيًّا لَمَا وَسَعَهُ إِلَّا اتَّبَاعِي» (٤٢٥) .

(٤٢٢) سورة الأحزاب الآية: ٤٠ .

(٤٢٣) الترمذى ٣٦٨٦ .

مستدرك الحاكم ٨٥/٣ .

فتح الباري ٥١/٧ .

وَفِي مَسْنَدِ أَحَدٍ ٥٥/٦ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَ ﷺ «قَدْ كَانَ فِي الْأَمْمِ مُحَدِّثُونَ فَإِنْ يَكُنْ مِنْ أَمْتَهِ فَعُمَرٌ» .

(٤٢٤) سورة الأحزاب الآية: ٤٠ .

(٤٢٥) مَسْنَدُ أَحَدٍ ٣٨٧/٣ .

أ رواء الغليل ٣٤/٦ .

تَفْسِيرُ ابْنِ كَثِيرٍ ٢٩٦/٤ .

لو عاش إبراهيم وصارنبياً، وكذا لو صار عمرنبياً
 لكان من أتباعه عليه الصلاة والسلام كعيسى والخضر وإلياس عليهم
 السلام، فلا يُنافي قوله تعالى ﴿وَخَاتَمَ النَّبِيِّنَ﴾ (٤٢٤) إذ المعنى: أنَّه لا
 يأتينبيٌ بعده ينسخ ملَّته ولم يكن من ملَّته..

(الاسرار المرفوعة في الاخبار الموضعية، صفحه 192)

مشہور امام ملا علی قاریؒ نے فرمایا ہے ”اگر ابراہیم زندہ رہتے اور نبی بن جاتے تو وہ دونوں حضرت عیسیٰ، حضرت خضر اور حضرت الیاسؐ کی طرح آنحضرت ﷺ کے تابع نبیوں میں سے ہوتے۔ پس حدیث لوعاش ابراہیم لکار صدیقانبیا۔ اللہ تعالیٰ کے قول خاتم النبین کے ہرگز مخالف نہیں کیوں کہ خاتم النبین کے تو معنے یہ ہیں کہ آنحضرت ﷺ کے بعد کوئی ایسا نبی نہیں آسکتا جو آپؐ کے دین کو منسوخ کرے اور آپؐ کا امتی نہ ہو۔“

Hazrat Imam Mulla Ali Qari says:- "Had Ibrahim lived and become a prophet, and likewise had Umar become a prophet they would be follower prophets of the Holy Prophet , peace and blessings of Allah be upon him, like Isa, Khizar and Ilyas upon whom all be peace. It does not contradict the divine word 'KhatamunNabiyyeen' which means that there shall not be a prophet abrogating his law nor one who was not of his followers.

(Al Asrar alMarfuah fil Akhbar alMauzuah page 192)

Imam Mulla Ali Qari sagt: "Hätte Ibrahim^{ra} länger gelebt und wäre er ein Prophet geworden; und wäre auch Umar^{ra} ein Prophet geworden, so wären diese beiden - genauso wie Jesus^{as}, Khizr^{as}, und Elias^{as} - dem Heiligen Propheten^{saw} untergeordnet. Also steht dies keineswegs im Widerspruch zum Worte Gottes "Khatamunnabiyyin" (Siegel der Propheten), denn es bedeutet nur, dass es nach dem Heiligen Propheten^{saw} keinen Propheten geben kann, der sein Gesetz abschafft und nicht zu seiner Umma gehört.

(Al Asrar alMarfuah fil Akhbar alMausuah Seite 192)

«رَبَّنَا وَأَبْعَثْتُ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتَلَوَّ عَلَيْهِمْ إِنْتِكَ وَإِعْلَمُهُمُ الْكِتَابَ
وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيْهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ»
(٢ / سورة البقرة / الآية ١٢٩)

سِنْنَتُ زِيَادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

الْحَافِظِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادِ الْفَزُوقِيِّيِّ
أَبْنِي مَا جَهَّهَ

م ٢٧٥ - ٢٠٧

حق نصوصه ، ورقم كتبه ، وأبوابه ، وأحاديثه ،
وعلق عليه

مُحَمَّدُ رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ

ابْنُ حِزْرَةِ الْأَوَّلِ

عِيسَى الْبَبَابِيُّ الْخَلْقِيُّ وَشَرِكَاهُ

٦ - كتاب الجنائز

(٤٧) باب

(١٥١٠-١٥١٤) حديث

(٢٧) باب ما جاء في الصلاة على ابن رسول الله ﷺ وذكر وفاته

١٥١٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ تَمِيرٍ . ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشِّرٍ . ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ؛ قَالَ : قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى : رَأَيْتَ إِبْرَاهِيمَ ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ؟ قَالَ : مَاتَ وَهُوَ صَغِيرٌ . وَلَوْ قُضِيَ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ مُحَمَّدٍ أَبْيَ لِمَاعَشَ ابْنَهُ . وَلَكِنْ لَا تَنِي بَعْدَهُ .

الحديث قد أخرجه البخاري بعنوان هذا الإسناد في الأدب ، في باب من سبي بأسماء الأنبياء .

١٥١١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقَدْوُسِ بْنُ مُحَمَّدٍ . ثنا دَاوُدُ بْنُ شَبَّابِ الْبَاهِلِيِّ . ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُثْمَانَ . ثنا الْحَكَمُ بْنُ عَتَيْبَةَ ، عَنْ وَقْسَمٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ قَالَ : لَمَّا مَاتَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ « إِنَّ لَهُ مُرْضِعًا فِي الْجَنَّةِ . وَلَوْ عَاشَ لَكَانَ صِدِّيقًا تَنِيًّا . وَلَوْ عَاشَ لَعَتَقَتْ أَخْوَاهُ الْقِبْطُ ، وَمَا اسْتُرِقَ قِبْطِيًّّ » .

في الرواية : في إسناده إبراهيم بن عثمان أبو شيبة قاضي واسط ، قال فيه البخاري : سكتوا عنه . وقال ابن المبارك : ارم به . وقال ابن معين : ليس بشفاعة . وقال أبو عبد الله : منكر الحديث . وقال النسائي : متروك الحديث .

١٥١٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَانَ . ثنا أَبُو دَاوُدَ . ثنا هِشَامُ بْنُ أَبِي الْوَلِيدِ ، عَنْ أُمِّهِ ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ أَبِيهَا الْحُسَيْنِ بْنِ عَلَيِّ ؛ قَالَ : لَمَّا تُوفِيَ الْقَاسِمُ بْنُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَتْ خَدِيجَةُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! دَرَرْتُ لِبِيَنَةَ الْقَاسِمِ . فَلَوْ كَانَ اللَّهُ أَبْقَاهُ حَتَّى يَسْتَكْمِلَ رِصَاعَهُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ « إِنَّ إِنْتَمْ رَضَاعِيهِ فِي الْجَنَّةِ » قَالَتْ : لَوْ أَعْلَمُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! لَهُوَنَ عَلَيَّ أَمْرَهُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ « إِنَّ شِدَّتِ دَعَوتُ اللَّهَ تَعَالَى فَأَسْمَعَكِ صَوْتَهُ » قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنْ أَصَدَّقُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ .

١٥١١ - (لمتقى أخواله) قال في المصبح : عتق العبد عتقا من باب ضرب . فهو عاتق . ويتعدى بالمعنى . فالثلاثي لازم والرابعى متعدد .

١٥١٢ - (لبيبة القاسم) بالتصغير ، يقال اللبيبة ، لطايفة القليلة من البن . واللبيبة تصغيرها .

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ قَالَ : لَمَّا مَاتَ إِبْرَاهِيمُ
 ابْنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ وَقَالَ « إِنَّ لَهُ مُرْضِعًا فِي الْجَنَّةِ . وَلَوْ عَاشَ
 لَكَانَ صَدِيقًا نَّبِيًّا

(سنن ابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ماجاء في الصلوة على ابن رسول الله وذكر وفاته، جلد اول صفحه 474)

حضرت ابن عباسؓ روایت کرتے ہیں کہ جب آنحضرت ﷺ کا بیٹا ابراہیم فوت ہوا تو حضور نے نماز ادا کی اور فرمایا۔ یقیناً جنت میں اس کیلئے دایہ دودھ پلانے والی ہے اور اگر وہ زندہ رہتا تو وہ ضرور صدیق نبی ہوتا۔

Hazrat Ibn Abbas, Allah be pleased with both of them, relates, that when Ibrahim, the son of the Holy Prophet, peace and blessings of Allah be upon him, died, he prayed and said:- Verily, he has a wet-nurse in Paradise, and had he lived he would have certainly been a righteous Prophet.

(Sunan Ibn e Majah, Vol: 1, Page:474)

Hazrat Ibn Abbas (möge Allah an ihm Gefallen haben) erzählt: "Als Ibrahim, der Sohn des Heiligen Propheten^{saw} verstarb, betete er (der Heilige Prophet) und sagte: "Wahrlich, er hat eine Amme im Paradies, und wenn er lebte, wäre er sicherlich ein wahrer Prophet geworden."

(Sunan Ibn e Majah, Bd.: 1, Seite:474)

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَثَتَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوُ عَلَيْهِمْ آياتِهِ وَرُزِّكُوهُمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْمُكْتَنَبَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ . [٢ / آل عمران / الآية ١٦٤]

صَحَاحُ مُسْلِمٌ

لِإِمَامِ رَبِّ الْخَيْرِ مُسْلِمِ بْنِ الْجَاجِ
الْقَشَيْرِيِّ النِّيَّسَابُورِيِّ

٢٠٦ - هـ ٢٠٦

(وهو ثاني كتابين ، مما أصلحَ الكتب المصنفة)

« لأنَّ أهلَ الْمَدِيدِ يَكْتُبُونَ، مائِيقَ سَنَةِ
الْمَدِيدِ ، فَنَارُمُ عَلَى هَذَا السَّنَدِ »

« صَنَفَ هَذَا السَّنَدُ الصَّحِيحُ مِنْ
ثَلَاثَةِ أَلْفِ حَدِيثٍ مُسَمَّوَةً »
« مُسْلِمُ بْنِ الْجَاجِ »

الجزء الرابع

وقت على طبعه ، وتحقيق نصوصه ، وصحبيه وترقيه ،
ومنه كتبه وأبوابه وأحاديثه . وعلى عليه ملخص
شرح الإمام الرومي ، مع زيادات عن أئمة اللغة

(خادم الكتاب والسنّة)

مُحَمَّدُ فِي الدِّينِ



(۱۱۰) حدیث

(۲۰) باب - کتاب الفتن وأشراط الساعة .

وَيَعْمَلُ اللَّهُ يَأْجُوجَ وَمَاجُوجَ . وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ^(۱) . فَيَمْرُأُوا إِلَيْهِمْ عَلَى بُحْرَيْةِ طَبْرِيَّةَ . فَيَشَرُّبُونَ مَا فِيهَا . وَيَمْرُأُ آخِرُهُمْ يَمْرُأُهُمْ : لَقَدْ كَانَ يَهْبِذُوهُ ، مَرَّةً ، مَارَةً . وَيَنْصُرُونَ تَبَّاعَ اللَّهِ عَيْسَىَ وَأَصْحَابَهُ . حَتَّىٰ يَكُونَ رَأْسُ الْثَّوَرِ لِأَحَدِهِمْ خَيْرًا مِنْ مَائَةٍ دِيَارٍ لِأَحَدِكُمْ الْيَوْمَ . فَيَرْغَبُ تَبَّاعَ اللَّهِ عَيْسَىَ وَأَصْحَابَهُ . فَيُرْسِلُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ النَّفَّ^(۲) فِي رَقَبِهِمْ . فَيُصْبِحُونَ فَرَسَّا^(۳) كَمَوْتٍ تَهْسِسُ وَاحِدَةً . مُمَّ يَهْبِطُ تَبَّاعَ اللَّهِ عَيْسَىَ وَأَصْحَابَهُ إِلَى الْأَرْضِ . فَلَا يَجِدُونَ فِي الْأَرْضِ مَوْضِعًا شَبَّرٌ إِلَّا مَلَأَهُ زَهْرَهُ^(۴) وَتَنَاهُ . فَيَرْغَبُ تَبَّاعَ اللَّهِ عَيْسَىَ وَأَصْحَابَهُ إِلَى اللَّهِ . فَيُرْسِلُ اللَّهُ طَيْرًا كَأَعْنَاقِ الْبَختِ^(۵) . فَتَحْمِلُهُمْ فَتَنَاهُمْ حَتَّىٰ يَرَوُهُمْ حَيْثُ شَاءَ اللَّهُ . هُمْ يُرْسِلُ اللَّهُ مَطَرًا لَا يَكُنْ^(۶) مِنْهُ يَدُ مَدَرٍ^(۷) وَلَا وَبَرٍ . فَيُنْسِلُ اللَّهُ الْأَرْضَ حَتَّىٰ يَتَرَكَّبَا كَانَ لَهُمْ^(۸) . هُمْ يُقَالُ لِلْأَرْضِ : أَنْبِتِي تَمَرَّكِ ، وَزُرْدَى بَرَ كَنَكِ . فَيَوْمَئِذٍ تَأْكُلُ الْمِصَابَةَ^(۹) مِنْ الرُّمَانَةِ

وَلَمْ يُنْهَىٰ نَبِيُّ اللَّهِ عِيسَىٰ وَأَصْحَابُهُ فَيَرْغَبُ نَبِيُّ اللَّهِ عِيسَىٰ وَأَصْحَابُهُ هُمْ يَهْبِطُونَ نَبِيُّ اللَّهِ عِيسَىٰ وَأَصْحَابُهُ فَيَرْغَبُ نَبِيُّ اللَّهِ عِيسَىٰ وَأَصْحَابُهُ إِلَى اللَّهِ

(صحيح مسلم ، جلد 4، كتاب الفتن ، صفحہ 2254)

آنحضرت ﷺ نے آنے والے مسیح کو ایک ہی فقرہ میں چار بار نبی اللہ کے نام سے یاد فرمایا ہے:- ”یعنی جب مسیح موعود یا جو حجاجوں کے زور کے زمانہ میں آئے گا تو مسیح بنی اللہ اور اس کے صحابی دشمن کے نزد میں محصور ہو جائیں گے۔۔۔ پھر مسیح بنی اللہ اور اس کے صحابی خدا کے حضور دعا اور تضرع کے ساتھ رجوع کریں گے۔۔۔ اور اس دعا کے نتیجہ میں مسیح بنی اللہ اور اس کے صحابی مشکلات کے بھنوڑتے نجات پا کر دشمن کے کیمپ میں گھس جائیں گے لیکن وہاں نئی قسم کی مشکلات پیش آئیں گی اور پھر مسیح بنی اللہ اور اس کے صحابی دوبارہ خدا کے حضور دعا کرتے ہوئے چکیں گے اور خدا تعالیٰ ان کی مشکلات دور فرمائیں گے۔۔۔“

The Holy Prophet, peace and blessings of Allah be upon him, has mentioned the Promised Messiah four times as the Prophet of Allah:- "Isa the Prophet of Allah and his companions will be besieged.... then, Isa, the Prophet of Allah, and his companions will turn to Allah then, Isa, the Prophet of Allah and his companions will invade the camps of the enemy and finally Isa, the Prophet of Allah, and his companions will turn to Allah...."

(Sahih Muslim, vol 4 page 2254)

In der authentischen Hadith-Sammlung Sahih Muslim ist ein Hadith zu finden, in dem der Heilige Prophete ^{taw} den Verheißenen Messias vier Mal einen Propheten Allahs nennt: "Der Feind wird Jesus, den Propheten Allahs, und seine Gefährten belagern [...], darauf werden Jesus, der Prophet Allahs, und seine Gefährten sich inbrünstig betend Allah zuwenden; folglich werden sie von ihrer Drangsal befreit [...] darauf werden Jesus, der Prophet Allahs, und seine Gefährten in das Lager des Feindes eindringen [...], abermals werden Jesus, der Prophet Allahs, und seine Gefährten sich Allah zuwenden [...]."

(Sahih Muslim, Bd 4 Seite 2254)

مسنون الأمثلة الحسنة حبلى

وبهَا مِسْتَهٰ
من شَخْبِ كُلِّ الْعَمَالِ فِي سُنْنِ الْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ

المجلد الثاني

دار صادر
بيروت

اَنِّي عَبْدُ اللَّهِ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَإِنَّ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمْ يَجُدْ لِفِي طِينَتِهِ

(مسند احمد بن حنبل ، زیر عنوان حدیث العرباض بن ساریہ ، جلد 4 صفحہ 127)

آنحضرت ﷺ نے فرمایا:- میں عبدالله خاتم النبیین اس وقت سے ہوں جبکہ آدم علیہ السلام اپنی پیدائش کے ابتدائی مراحل میں تھے۔

The Holy Prophet, peace and blessings of Allah be upon him, said:- "I am Abdullah KhatamunNabiyyeen from that time when Adam was yet in the nascent stage.

(Musnad Ahmad bin Hanbal vol 4 page 127)

Der Heilige Prophet^{saw} sagte: "Ich, Diener Allahs, bin schon seit jener Zeit Siegel der Propheten (Khatamunnabiyyien), als Adam sich noch im Übergangszustand zwischen Wasser und Erde befand."

(Musnad Ahmad bin Hanbal Bd 4 Seite 127)

الْقِنْوَهُكَلُ الْكَبِيْرَةُ

مُحَمَّدُ الدِّيْنُ بْنُ عَيْزَرٍ

السفر الثامن

تصدير ومراجعة

د. إبراهيم مكرور

تحقيق وتقديم

د. عثمان جبي

المجلس الأعلى للثقافة

بالتعاون مع

معهد الدراسات العليا في السوربون



الهيئة المصرية العامة للكتاب

١٤٠٢ هـ - ١٩٨٣ م

١٧٧

الباب التاسع والستون : في أسرار الصلاة

التشریع عند نزوله . فعلمـنا بـقوله - صلـی اللـه علـیه وسلـم ! - : « إـنَّهُ لـآتـی بـعـدـی وـلـا رـمـوـلَ » ، و « إـنَّ النـبـوـة قـدـ انـقـطـعـتْ وـالـرـسـالـة » ۚ ۖ |
إـنـما يـرـيد بـهـمـا التـشـرـیع . - ۳

(۲۲۰) فـلـمـا كـانـت النـبـوـة أـشـرـف مـرـتـبـة وـأـكـمـلـها ، يـنـتـهـي إـلـيـها مـنـ أـصـطـفـاه اللـه مـنـ عـبـادـه ، - عـلـمـنا أـنـ التـشـرـیع فـي النـبـوـة أـمـرـ عـارـضـ ، بـكـوـنـ عـبـسـى - عـلـيـه السـلام ! - « يـنـزـل فـيـنـا حـکـمـا » مـنـ غـير تـشـرـیع : وـهـوـ زـبـى ۶
بـلـا شـكـ . فـخـفـیـتْ مـرـتـبـة النـبـوـة فـي الـمـخـلـقـ ، باـنـقـطـاعـ التـشـرـیع . -

(۲۲۱) وـمـعـلـومـ أـنـ « آـل إـبـرـاهـيم » ، مـنـ النـبـيـينـ وـالـرـسـلـ ، (همـ)
الـذـيـنـ كـانـوا بـعـدـهـ : مـثـلـ إـسـحـاقـ ، وـيـعقوـبـ ، وـيـوسـفـ ، وـمـنـ اـنـتـسـلـ مـنـهـمـ ۹
مـنـ الـأـنـبـيـاءـ وـالـرـسـلـ ، بـالـشـرـائـعـ الـظـاهـرـةـ ، الدـالـلـةـ عـلـىـ أـنـ لـهـمـ النـبـوـةـ [F. ۴۹] ۱۰
عـنـدـ اللـهـ . - (ةـ) أـرـادـ رـسـولـ اللـهـ - صـلـیـ اللـهـ عـلـیـهـ وـسـلـمـ ! - أـنـ يـلـحـقـ
أـمـةـ ، وـهـمـ آـلـ : الـعـلـمـاءـ وـالـصـالـحـونـ مـنـهـمـ ، بـمـرـتـبـةـ النـبـوـةـ عـنـدـ اللـهـ ، وـإـنـ ۱۱
لـمـ يـشـرـعـواـ . وـلـكـنـ أـبـقـىـ لـهـمـ مـنـ شـرـعـهـ ضـرـبـاـ مـنـ التـشـرـیعـ . فـقـالـ :
« قـوـلـواـ : أـللـهـمـ صـلـلـ عـلـىـ مـوـحـدـ وـعـلـىـ آـلـ مـوـحـدـ » = أـئـىـ صـلـلـ عـلـيـهـ مـنـ
حـبـثـ مـالـهـ « آـلـ » « كـمـا صـلـبـتـ عـلـىـ إـبـرـاهـيمـ وـعـلـىـ آـلـ إـبـرـاهـيمـ » = أـئـىـ مـنـ ۱۵
حـبـثـ إـنـكـ أـعـطـيـتـ آـلـ إـبـرـاهـيمـ النـبـوـةـ ، تـشـرـیفـاً لـإـبـرـاهـيمـ . فـظـاهـرـتـ نـبـوـةـ ۱۶

1 - 16 التـشـرـیع عـنـدـ ... نـبـوـتـمـ C K || 2 - التـشـرـیع ... بـعـدـیـ (مـهـمـلـةـ جـزـیـاـ ، المـزـةـ سـاقـطـةـ) C (المـزـةـ سـاقـطـةـ) || 2 - 6 وـإـنـ (بـهـمـةـ تـحـبـیـةـ وـشـدـةـ) يـنـزلـ K (مـهـمـلـةـ غالـبـاـ ، المـزـةـ سـاقـطـةـ) C (المـزـةـ سـاقـطـةـ أـسـیـانـاـ) || 6 - 7 فـیـنـا ... التـشـرـیعـ K (مـهـمـلـةـ جـزـیـاـ) C || 8 - 11 إـبـرـاهـيمـ K ... عـنـدـانـهـ K (مـهـمـلـةـ جـزـیـاـ ، المـزـةـ سـاقـطـةـ) C || 8 اـبـرـاهـيمـ K : اـبـرـاهـيمـ || 9 اـسـحـاقـ C : اـسـحـاقـ || 11 - 16 عـلـیـهـ . . . لـإـبـرـاهـيمـ (بـهـمـةـ تـحـبـیـةـ) K (مـهـمـلـةـ غالـبـاـ ، المـزـةـ سـاقـطـةـ دـائـماـ ، الـقـافـ بـمـوـحـدـةـ أـسـیـانـاـ) C (المـزـةـ سـاقـطـةـ أـسـیـانـاـ) || 13 وـلـكـنـ C : وـلـاـكـنـ K (التـوـنـ مـهـمـلـةـ) || 16 اـبـرـاهـيمـ K : اـبـرـاهـيمـ || ظـاهـرـتـ K (مـهـمـلـةـ) C

الجزء التاسع والأربعون من الفتح المكي

١٧٨

بالتشريع . وَقَدْ فَصَدَّتَ أَنْ لَا شَرِيعَ بَعْدِي ، فَهَلْ عَلَىٰ وَعَلَىٰ « آلٰ » =
بِأَنْ تَجْعَلْ لَهُمْ مَرْتَبَةَ النَّبِيَّةِ عِنْدَكُمْ ، وَإِنْ لَمْ يُشَرِّعُوا .

(٢٢٢) فَكَانَ مِنْ كَمَالِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ! - أَنَّ الْحَقَّ
إِنَّ اللَّهُ) « آلَهُ » بِالْأَنْبِيَاءِ فِي الْمَرْتَبَةِ ، وَزَادَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ بِأَنَّ شَرِيعَهُ لَا يُنْسَخُ .
وَبَعْضُ شَرِيعَ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ بَعْدَهُ ، نَسَخَتِ الْمَشَارِقُ ، بَعْقَبَهَا بَعْضًا .

(٢٢٣) وَمَا عَلِمْنَا رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ! - الصَّلَاةَ عَلَيْهِ ،
عَلَىٰ هَذِهِ الصُّورَةِ ، إِلَّا بِوْحِيٍّ مِنَ اللَّهِ ، وَبِمَا أَرَاهُ اللَّهُ ؛ وَأَنَّ الدُّعَوَةَ فِي ذَلِكَ
مُجَابَةٌ . فَفَطَّنَنَا أَنَّ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ مَنْ لَحِقََتْ دَرْجَتُهُ دَرْجَةَ الْأَنْبِيَاءِ فِي النَّبِيَّةِ
عِنْدَ اللَّهِ ، لَا فِي التَّشْرِيفِ . وَلَهُنَا بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ! -
وَأَكْبَدَ بِقُولِهِ : « فَلَا رَبُّوْلَ بَعْدِي وَلَا نَبِيٌّ » - فَأَكَدَ بِالرَّسُولَةِ مِنْ أَجْلِ

التَّشْرِيفِ .

١ - ١١ بِالْتَّشْرِيفِ ... التَّشْرِيفِ C K (مَهْمَلَةً مَاعِدا الشَّيْنَ) C || وَتَدَّ K
(الْقَافُ مَهْمَلَةً) C || أَنْ لَا شَرِيعَ ... عَلَىٰ (بِتَشْدِيدِ الْيَاءِ) K (جَمِيعُ الْمَرْوُفَ الْمُجَمَّعَةُ مَهْمَلَةً ، الْمَزَرَّةُ
سَاقِطَةُ مَعَ الشَّدَّةِ) C (الْمَزَرَّةُ سَاقِطَةُ مَعَ الشَّدَّةِ) || آلَ (بِالْمَدِّ) C : الْآلَ K ٢ بَنْ (بِهِمَزةٍ فُوقِيَّةٍ) C :
بَنْ K (الْيَاءُ وَالْتَّوْنُ مَهْمَلَتَانِ) || مَرْتَبَةُ النَّبِيَّةِ C (بِتَشْدِيدِ الرَّاوِ) : بَنْ K (بِهِمَزةٍ فُوقِيَّةٍ) C || وَإِنْ (بِهِمَزةٍ
تَحْتَيَةٍ) K (الْمَزَرَّةُ سَاقِطَةُ ، التَّوْنُ مَهْمَلَةً) C (الْمَزَرَّةُ سَاقِطَةُ) || ٣ فَكَانَ مِنْ K (مَهْمَلَةً تَعْلَمَ) C || عَلَيْهِ
K (الْيَاءُ مَهْمَلَةً) C || ٤ بِالْأَنْبِيَاءِ C : بِالْأَنْبِيَاءِ K (الْيَاءُ مَهْمَلَةً) || فِي K (الْفَاءُ مَهْمَلَةً) K || إِبْرَاهِيمَ
(مَهْمَلَةً تَعْلَمَ) ، الْمَزَرَّةُ سَاقِطَةُ) : إِبْرَاهِيمَ C || بَنْ (بِهِمَزةٍ فُوقِيَّةٍ وَشَدَّةً) C : بَنْ K (الْيَاءُ مَهْمَلَةً) C ||
لَا يُنْسَخُ وَبَعْضُ K (الْأَخَاءُ وَالْبَاءُ مَهْمَلَتَانِ) C || إِبْرَاهِيمَ K (مَهْمَلَةً ، الْمَزَرَّةُ سَاقِطَةُ) : إِبْرَاهِيمَ C || ٥
الْمَرَاجِعُ C : الْمَرَاجِعُ K (الشَّيْنُ وَالْيَاءُ مَهْمَلَتَانِ) || بَعْضَهَا K (الْيَاءُ مَهْمَلَةً) C || بَعْضَهَا K (مَهْمَلَةً تَعْلَمَ) C ||
عَلَيْنَا (بِتَشْدِيدِ الْلَّازِمِ) C K (الشَّدَّةُ سَاقِطَةُ فِيهِنَا) || عَلَيْهِ K (مَهْمَلَةً) C (الصَّلَاةُ عَلَيْهِ K (مَهْمَلَةً تَعْلَمَ) C ||
C || ٧ الصُّورَةُ C : الصُّورَةُ K || إِلَّا (بِهِمَزةٍ تَحْتَيَةٍ وَشَدَّةً) : الْآلَ CK || بِرَحْمَى K (الْيَاءُ مَهْمَلَةً) C ||
وَبِمَا أَرَاهُ K (الْيَاءُ مَهْمَلَةً ، الْمَزَرَّةُ سَاقِطَةً) C || الدُّعَوَةُ C : الدُّعَوَةُ K || فِي K (مَهْمَلَةً) C || ٨ مُجَابَةً :
جَمَابَهُ K || ٩ فَطَّنَنَا ... الْأُمَّةُ K (مَظْمُونُ الْمَرْوُفَ الْمُجَمَّعَةُ مَهْمَلَةً ، الْمَزَرَّةُ سَاقِطَةُ) C ||
أَعْيَانَا) || لَحْقَتْ K (الْقَافُ مَهْمَلَةً) C || دَرْجَتُهُ ... لَا فِي K (مَهْمَلَةً غَالِبَاهُ ، الْمَزَرَّةُ سَاقِطَةُ) C ||
(الْمَزَرَّةُ سَاقِطَةُ أَعْيَانَا) || ٩ التَّشْرِيفُ K (مَهْمَلَةً) C || عَلَيْهِ ، بِقُولِهِ فَلَا K (مَهْمَلَةً تَعْلَمَ) C || ١٠ ||
فَأَكَدَ (بِهِمَزةٍ فُوقِيَّةٍ وَشَدَّةً) K (الْفَاءُ مَهْمَلَةً ، الْمَزَرَّةُ سَاقِطَةُ مَعَ الشَّدَّةِ) C (الْمَزَرَّةُ سَاقِطَةُ مَعَ الشَّدَّةِ) ||
١٠ - ١١ بِالرَّسُولَةِ ... التَّشْرِيفُ K (مَهْمَلَةً ، الْمَزَرَّةُ سَاقِطَةً) C

(٢٢١) ومعلوم أنَّ «آل إبراهيم» ، من النبيين والرسل ، (هم) الذين كانوا بعده : مثل إسماعيل ، ويعقوب ، ويوسف ، ومن انتسل منهم من الأنبياء والرسل ، بالشريائع الظاهرة ، الدالة على أنَّ لهم النبوة [F. 43^b] . — (ف) أراد رسول الله - صلى الله عليه وسلم ! - أن يُلْحِقَ عند الله . — (ف) أراد رسول الله - صلى الله عليه وسلم ! - أن يُلْحِقَ أمته ، وهم آلُ : العلماء والصالحون منهم ، بمرتبة النبوة عند الله ، وإن لم يُشرِّعوا . ولكن أبقى لهم من شرعيه ضرباً من التشريع . فقال : «قولوا : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ » = أَيْ صَلِّ عليه من حيث مَالَهُ «آلُ» «كما صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ» = أَيْ من حيث إنك أعطيت آل إبراهيم النبوة ، تشريفاً لإبراهيم . فظهرت نبوةِ آل إبراهيم بالتشريع . وَفَإِنْ تَضَعَتْ أَنْ لَا شرعيَّ بعدي ، فَصَلِّ عَلَى وَعَلَى «آلِي» = بنائِنَ تجعل لهم مرتبة النبوة عندك ، وإن لم يُشرِّعوا .

(٢٢٢) فـكـانـ مـنـ كـمـالـ رـسـوـلـ الـهـ -ـ صـلـىـ الـلـهـ عـلـيـهـ وـسـلـمـ ! -ـ آـنـ الـحـقـ يـ (ـالـلـهـ)ـ «ـآلـهـ»ـ بـالـأـنـبـيـاءـ فـيـ الـمـرـتـبـةـ ،ـ وـزـادـ عـلـىـ إـبـرـاهـيمـ بـأـنـ شـرـعـهـ لـاـ يـنـسـخـ .ـ وبـعـضـ شـرـعـ إـبـرـاهـيمـ وـمـنـ بـعـدـهـ ،ـ نـسـخـتـ الشـرـائـعـ ،ـ بـعـضـهـاـ بـعـضاـ .ـ

(فتوات مكيه ، السفر الثامن ، باب في أسرار الصلة ، صفحه 177-178)

حضرت حجي الدين ابن عربي فرماتے ہیں:- اور یہ معلوم ہے کہ آل ابراہیم نبیوں رسولوں میں سے ہے۔ اور وہ لوگ ہیں جو آپ کے بعد ہوئے جیسے اسحاق، یعقوب، یوسف اور جوان کی نسل سے انبیاء اور رسول ظاہری شریعت کے ساتھ تھے۔ جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ کے نزدیک ان کو نبوت حاصل تھی۔ آنحضرت ﷺ نے ارادہ کیا کہ اپنی امت کو جواس کی آں ہیں یعنی ان میں سے علماء اور صالحین کو اللہ کے نزدیک نبوت کے مرتبہ سے ملا دے اگرچہ وہ شریعت والے نہیں ہوں گے۔ لیکن ان کے لئے اپنی شریعت سے شریعت کی ایک قسم رکھ دی۔ سو فرمایا! اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ یعنی آپ پر اور آپ کی آل پر حمیت نازل فرم۔ كما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم یعنی جس طرح تو نے ابراہیم کی آل کو

نبوت عطا فرمائی ہے ابراہیم کو سر بلندی عطا فرمائی ہے۔۔۔ چنانچہ ان میں نبوت شریعت کے ساتھ ظاہر ہوئی۔ اور تو نے فیصلہ کر دیا ہے کہ میرے بعد کوئی شریعت نہیں ہوگی۔ پس مجھ پر اور میری آل پر حستیں نازل فرم۔ یعنی ان کو اپنے پاس سے نبوت کا مرتبہ عطا فرم۔ اگرچہ وہ شریعت نہیں لائیں گے۔ آنحضرت ﷺ کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ نے آپ کی آل کو مرتبہ میں انبیاء کے ساتھ ملا دیا۔ اور ابراہیم پر آپ کو یہ امتیاز بخشنا کہ آپ کی شریعت منسوخ نہیں ہوگی۔

"Aal Ibrahim" are the prophets and messengers, and they are the people who came after Abraham like Isaac, Jacob, Joseph and those prophets and messengers from their progeny manifest Laws. This signifies the fact that in the sight of God they had prophethood. The Holy Prophet, peace and blessings of Allah be upon him, intended that followers who are from among those who followed him should achieve the rank of prophethood, though they would not be law-bearing. But he kept for them a type of Shariat from his own Shariat. Therefore, he said:- Say - O Allah exalt Muhammad and his Aal by bestowing mercy upon them as Thou conferred prophethood upon the Aal of Ibrahim thus exalting Ibrahim. Consequently they had prophethood with Shariat. And Thou has decreed that there would be no Shariat after me. Hence, shower Mercy upon me and upon my Aal - i.e. Confer upon them the rank of prophethood from Thyself, notwithstanding that they would not bring any Shariat. The height of Muhammad's exaltedness is expressed by the fact that through invoking prayers for him he raised his own progeny to the level of prophets and he was granted the superiority over Hazrat Ibrahim through the fact that the Law he brought should never be abrogated.

(alFatuhat alMakkiyya page 177-178)


Hadhrat Mohyiddin Ibn Arabi sagt: "Es ist bekannt, dass die Nachkommen Abrahams^{as} Propheten und Gesandte gewesen sind, die ihm folgten, wie zum Beispiel Isaak, Jakob, Josef oder auch die Propheten unter seiner Nachkommenschaft, die ein offenkundiges Gesetz mit sich brachten. Das weist darauf hin, dass sie in den Augen Allahs Propheten waren. Der Heilige Prophet^{saw} beabsichtigte, dass unter seiner Umma (Gefolgschaft), die ja seine Nachkommenschaft ist, Gelehrten und Rechtschaffenen die Stellung der göttlichen Prophetenschaft gewährt wird, obwohl sie kein Gesetz (Scharia) bringen werden. Also sagte er: Alla humma Salle Allaa Mohammadin wa alla Aale Mohammad: Segnungen Gottes auf den Propheten und auf seine Gefolgschaft. Das heißt: Wie Abraham gesegnet wurde, indem unter seiner Gefolgschaft viele Propheten - sämtliche mit einem neuen Gesetz - erschienen, so soll es auch für mich (Hl. Prophet^{saw}) gelten. Aber weil es nach mir kein neues Gesetz gibt, so sende Du von Dir aus Huld und Segen auf meine Gefolgschaft herab, d.h. gewähre Ihnen den Rang der Propheten, auch wenn sie kein Gesetz bringen. Die Vorzüglichkeit des Heiligen Propheten^{saw} liegt also darin, dass Allah seine Anhänger auf den Rang der Prophetenschaft erhöht hat. Außerdem genießt er den Vorzug, dass sein Gesetz niemals abgeschafft werden kann."

(alFatuhat alMakkiyya Seite 177-178)

سلسلة مطبوعات اكاديمية الشاه ولد الله الدهلوى

(١٤)

فَقَدْ هَنَّا هَلَّا مَعَنْ كُلِّ أَهْمَالِهِ وَعَلَيْهِ



(الجزء الثاني)

تأليف

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّمَا يُنَزَّلُ لِلْأَذْكُورِ الْمُبَشِّرِ بِرُوحِ الْحَسَنَاتِ

١١٧٦ - ١١١٤ هـ

بِصَحِيفَةِ دِرْخَشِينَ

الاستاذ علام مصطفى القاسمي

ادارة النشر



نَهْيَاتُ النَّبِيَّةِ

(٨٥)

ج . ٢

يُطْبِه لِحْلُولِ الْمَاءِ فِي مَنْبَتِ الشَّجَرِ لَا يَصُلُّ إِلَى كُلِّ فَرْعٍ وَلَا وَرْقٍ إِلَّا
عَلَى مُزَبْع طَبِيعَةِ الشَّجَرِ. وَعِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ لِمَا كَانَ فِي الْعَالَمِ
لَا فِرْقَةَ كَانَ تَائِيَهُ جُزْئِيَا خَرَقَ الْعَوَانِدَ فَأَحْيَى الْمَوْتَى وَأَبْرَأَ الْأَكْمَهِ
وَالْأَبْرَاصَ

وَأَمَّا رَسُولُ اللَّهِ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَشَأَ فِي دُورَةِ الْكَمالِ أَوَّلَ نِسَاءً فَاجْتَمَعَتْ
لَهُ الْإِقْرَابَاتُ جَمْلَةً وَاحِدَةً، وَهُوَ صَاحِبُ الْكِتَابِ الْمُوقَوتِ وَأَكْثَرُ
مِنْ سَوَاهُ بِصَاحِبِ الْحِكْمَةِ الْمُوقَوتَةِ وَشَرِحِ صَدَرِهِ وَمَعَارِجِهِ كَلَاهِمَا
مِنْ هَذِهِ الدُّورَةِ الْجَامِعَةِ، وَخَتَمَ بِهِ النَّبِيُّونَ أَى لَا يَوْجِدُ بَعْدَهُ مِنْ
يَأْمُرُهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ بِالْتَّشْرِيعِ عَلَى النَّاسِ.

وَأَبُو بَكْرٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هُوَ مَقْتَدٌ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دُورَةِ الْكَمالِ فَأَجْعَلَ
كَالَّهُ، وَتَوَجَّهَ بِهِ إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ. وَعُمْرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَرَثَ مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرْبَ الْفَرَائِصِ
وَعِشْنَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَسْطَأَ مِنْ قَرْبِ الْوِجْدَوْدِ، ثُمَّ نَزَلَ فِي دُورَةِ الإِيمَانِ وَ
شَرَحَ الصَّدَرِ، وَعَلَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْحِكْمَةَ كَاملَةً، ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى الْقَرْبِ الْمُلْكُوَّيِّ،
ثُمَّ نَزَلَ فِي شَرَحِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلشَّرْعِ فَاسْتَوْطَنَهَا، وَلِهَذَا سُمِّيَّ
قَسْهَ بِالْوَصِيِّ. وَهَذِهِ هِيَ الْوَصَايَةُ.

قَهْيَنْتَمْ (٥٥)

صَاحِبُ ظَهَرِ در ارشاد و تلقین او سرعت است گویا حیران است
و صاحب بطن در صحبت او غایت بظروع سیر است و صاحب فردیة
جامع اصول کمالات است زیرا که اولیاء چون می میرند کرمها و اشرافها
و کرامتها همه منعدم میشوند و باقی نمی مانند الا تجعل مایع بر نفس

وختم به النبیون اے لا یوجد بعده من
بامرہ اللہ سبحانہ بانشریع علی الناس۔

(تفہیمات الہیہ، جز 2، صفحہ 85)

حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلویؒ فرماتے ہیں:-

یعنی آنحضرت ﷺ پر نبوت ختم ہونے سے یہ مراد ہے کہ آپ کے بعد کوئی ایسا ربانی مصلح نہیں آسکتا جسے خدا تعالیٰ کوئی نئی شریعت دے کر مبعوث کرے۔

Hazrat Shah Waliullah, Muaddith of Delhi, acclaimed as the Reformer of the 12th century of Islam, has stated in his book TAFHEEMAT ILAHIYYAH:-

"The cessation of prophethood with the Holy Prophet peace and blessings of Allah be upon him, means that there can be no divinely inspired reformer after him who would be commissioned with a new law by Allah, the Glorious, with a new law.

(Tafheemat e Ilahiyya Part 2 Page 85)

Hadhrat Shah Waliullah, Muadith von Dehli, der als Reformer (Mujaddid) des 12. Jahrhunderts n. d. Hidschra gilt, schreibt in seinem Buch Tafhimat Ilahija: Dass nach dem Heiligen Propheten^{saw} das Prophetentum abgeschlossen ist, bedeutet, dass nach ihm kein Gesandter Gottes erscheinen kann, der ein neues Gesetz (Scharia) einführt.

(Tafheemat e Ilahiyya Teil 2, Seite 85)

كتنز امثال

فِي مُسْتَنْدَلِ الْقُوَّاتِ الْمُعَزِّزَاتِ

للعلامة علاء الدين علي المنشقى بن حسام الدين المندي

البرهان فوري المتفوق ٩٧٥

الجزء الثالث عشر

ضبطه وفسر غریبه سخنه ووضم فهارسه ومتاحه

اُسٹینگ بکری چیانی

مؤسسة الرسالة

ولوز وكمك فوضعته بين يديه فقال : اللهم أنتي بأحباب أهلي إليك
- أو قال : إلى - يأكل معي من هذا ! فطلع العباس ، فقال : ادْنُ
يا عم ! فاني سألت الله أن يأتيني بأحباب أهلي إلي - أو إليه - يأكل
معي من هذا فأتيت ، فجلس فأكل (كر).

٣٧٣٣٨ - عن نبيط قال قال رسول الله ﷺ للعباس : يا عمه !
أنت أكبر مني ! قال العباس : أنا أحسن ورسول الله أكبر (ش ،
وفيه أحمد بن إسحاق بن إبراهيم بن نبيط ، قال في المغنى : متوك ، له
نسخة وكل ما يأتي منها ، كر).

٣٧٣٣٩ - عن سهل بن سعد الساعدي قال : لما قدم رسول الله
عليه السلام من بدر استأذنَه العباس أن يأذن له أن يرجع إلى مكة حتى
يهاجر منها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال رسول الله
صلى الله عليه وسلم : اطمئن يا عم فإنك خاتم المهاجرين في الهجرة كما
أنا خاتم النبيين في النبوة (الشاشي ، كر).

٣٧٣٤٠ - * أيضاً * قال : استأذن العباس النبي ﷺ في الهجرة
فكتب إليه : يا عم ! أقم مكانك الذي أنت به فأن الله قد ختم بك
المهجرة كما ختم بي النبوة (ع ، طب وأبو نعيم في فضائل الصحابة ،
كر وابن النجار ، ومدار الحديث على اسماعيل بن قيس بن سعد بن

٣٧٣٣٩ - عن سهل بن سعد الساعدي قال : لما قدمَ رسول الله ﷺ من بدرٍ استأذنَه العباس أَنْ يَأْذِنَ لَهُ أَنْ يرْجعَ إِلَى مَكَّةَ حَتَّى يَهَاجِرَ مِنْهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اطْمِئِنْ يَا عَمٌّ فَأَنْتَ خَاتَمُ الْمَهَاجِرِينَ فِي الْهِجْرَةِ كَمَا أَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّنَ فِي النَّبِيَّةِ

(كتنز العمال زیر عنوان عباس بن عبدالمطلب ، جلد 13 صفحہ 519)

حضرت سہل بن سعد الساعدی سے روایت ہے انہوں نے کہا! جب رسول اللہ ﷺ بدر سے واپس آئے تو آپؐ کے چچا عباسؓ نے آپؐ سے اجازت مانگی کہ وہ مکہ کو واپس لوٹ کر وہاں سے رسول ﷺ کی طرف ہجرت کریں۔ اس پر رسول ﷺ نے فرمایا! اے بچا آپ مطمئن رہیے کہ آپ ہجرت میں اسی طرح خاتم المهاجرین ہیں جس طرح میں نبوت میں خاتم النبیین ہوں۔

Hazrat Sahl Bin Sa'ad Assaidee said:- When the Messenger of ALLAH peace and blessings of Allah be upon him, returned from Badr, his uncle Abbas sought permission to return to Mecca, and from there migrate to the Messenger of Allah, peace and blessings of Allah be upon him. At this the Messenger of Allah, peace and blessings of Allah be upon him, said:- " Rest assured O uncle you are as Khatamul Mohajireen in Hijrat - migration as I am Khatamun Nabiyeen in Nabuwat - prophethood.

(Kanzulummal vol 13 page 519)

Hazrat Sahal bin Sad al-Saadi berichtet: "Als der Gesandte Allahs^{saw} von Badr zurück kam, bat sein Onkel Abbas um die Erlaubnis, nach Mekka zurückzukehren und von dort zum Gesandten Allahs^{saw} zu ziehen. Der Gesandte Allahs erwiderte darauf: "Sei unbesorgt Onkel, du bist genauso Khatamul Mohajirien (Siegel der Auswanderer) in Hidschra wie ich Khatamunnabiyien (Siegel der Propheten) im Nabuwat (Prophetentum) bin.

(Kansulummal Bd 13 Seite 519)

جامعة بيروت ودار النشر

19

كتاب الحجۃ الالیاء

تَأْلِفُ

اسْتَعِنُ بِكَيْمَنَةِ الرَّمَذَنِيِّ

تحقیق

عَمَّار إِسْمَاعِيلْ مُحَمَّد

عَنْهُ الرَّكِزُ التَّوِيُّ لِلأَبْحَاثِ الْمُلْتَافِيَّةِ فِي بَارِبَادُود



المطبعة الكاثوليكية - بيروت

۳

عن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، انه قال : « فإذا أتوا آدم » يسألونه ان يشفع لهم الى ربهم ، قال لهم آدم : أرأيتم لو أن أحديكم جمع متابعيه في غيته ثم ختم عليها ، فهل كان يزول المتابع الا من قبل الحشم ؟ فاتوا محمدا ، فهو خاتم النبئين ». و معناه عندنا : ان النبوة تنتهي بأجمعها لمحمد ، صلى الله عليه وسلم .
نجعل قلبه ، لكمال النبوة ، وعاء عليها ، ثم ختم ا

ينبئكم (هذا) ، ان الكتاب المعتم والوعاء المخوم ، ليس لأحد عليه سيل ، في الانتهاص منه ، ولا بالازدياد فيه مما ليس منه . وان سائر الانبياء ^{عليهم السلام} ، لم ^ي يتم لهم على قلوبهم ، (فهم غير آمنين ان تخد) النفس سيلًا الى ما فيها .

ولم يدع الله الحجة مكتومة^٢، في باطن قلبه حتى اظهرها^٣: فكان
بين كتبه^٤ ذلك المسمى، ظاهراً كيضة حامة^٥. [٢٢١]. و(هذا) له
شأن عظيم^٦ تطول قصته.

فإن الذي عَيَّنَ عن خبرٍ هُذا، يُظْنَى^٢ أن «خاتم النبِيِّنَ زَهْرَةَ تأویلِهِ آنَهُ آخرُهُمْ مُبِينًا^٣». فَأَيُّ مِنْقَبَةٍ^٢ فِي هُذَا؟ وَأَيُّ عِلْمٍ فِي هُذَا؟ هُذَا^٣ تأویلِ اللَّهِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ!

^١ مات ينال بالظاهر المادية لتم النبورة في جسم النبي ' عليه الصلاة والسلام' (بين كثيير) راجع كتاب الشربة للأجري ص ٤٥٧ .

- | | |
|---|-----------------------------|
| وَ مَا V. | هِ يَنْكَ VF. |
| إِنَّ V - إِنَّ | النَّبِيُّنَ V. |
| تَلْكَ + تَلْكَ V. | بَ بَ F - . |
| أَطْهَرَهُ V. | ثَ مَكْتُومَاً V. |
| حَامَ V + مَكْتُوبٌ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ V. | حَ كَفْنِيَ E . |
| ذَ V. | دَ عَجِيبَ V . |
| رَ الَّذِي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ V. | رَ نَظَرَ V . |
| شَ مَنْا VF. | سَ + آخِرُ النَّبِيِّنَ F . |
| ضَ V - ضَ | مِنَ أَمْثَلَ VF. |

فَاتَرَا مُحَمَّداً، فَهُوَ خَاتَمُ النَّبِيِّنَ ۔ وَمَعْنَاهُ عِنْدَنَا: أَنَّ النَّبُوَّةَ تَئَّتْ بِأَجْمَعِهَا لِحَمْدٍ، صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَجَعَلَ قَلْبَهُ، لِكَلَالِ النَّبُوَّةِ، وَعَاءً عَلَيْهَا، ثُمَّ خَتَمَ إِلَيْهَا.....
هَذَا، يَظِنُّ ۝ أَنَّ «خَاتَمَ النَّبِيِّنَ ۝» تَأْوِيلَهُ أَنَّهُ أَخْرَى هُمْ ۝ مُبِيَّثُ ۝ . فَأَيِّ مُنْقَبَةٍ ۝ فِي هَذَا؟ وَأَيِّ عِلْمٍ فِي هَذَا؟ هَذَا ۝ تَأْوِيلُ الْبَلَهِ، الْجَلَةِ!

(كتاب ختم الاولىء، فصل الثامن، صفحه 341)

نامور صوفی حضرت ابو عبد اللہ محمد بن علی حسین الترمذی نے فرمایا۔ ہمارے نزدیک اس کے معنی یہ ہیں کہ نبوت حضرت محمد صطفیٰ ﷺ کی ذات میں اپنے تمام کمالات کے ساتھ مکمل ہو گئی ہے۔ آپ کامل نبوت کے کمال کے لئے ایک برتن کے طور پر بنایا گیا پھر اس پر مہر لگادی گئی۔ یہ جو گمان کیا جاتا ہے کہ خاتم النبیین کی تاویل یہ ہے کہ آپ مبعوث ہونے کے اعتبار سے آخری نبی ہیں جہا اس میں آپ کی کیا فضیلت و شان ہے؟ اور اس میں کونی علمی بات ہے؟ یہ تو احقوق اور جاہلوں کی تاویل ہے۔

According to us, it means that prophethood manifested itself in its full and complete manner in the Holy Prophet, peace and blessings of Allah be upon him . His heart became a vessel for the complete perfection of prophethood and then his heart was sealed. How can the glory and superiority of Muhammad, peace and blessings of Allah be upon him, be manifested if we claim that he was the last to appear in the world. This is, no doubt, an interpretation of the foolish and the ignorant.

(Kitab Khatm ul Auliya page 341)

Hadhrat Abu Abdullah Muhammad bin Ali Hussain Al-Hakim von Tirmidhi sagt:
"Wie kann sich der Glanz und die Vorzüglichkeit des Heiligen Propheten ^{saw} offenbaren, wenn wir behaupten, er sei zeitlich der Letzte (Prophet), der in dieser Welt erschienen ist. Das ist zweifellos die Auslegung der Toren und Unwissenden."

(Kitab Khatm ul Auliya Seite 341)

مشنونی مولوی مشنونی ہنس قیاران ربانی ملپوی
مشناح الحدیث

پسندیده چهلہ

سُرِّ شَنْوَنِيِّ الْمُلِيَّاَرِوْمُ

دفتر ششم حصہ پہلا

عالیجنا بخت روی لینا مولوی محمد زید حسن عاشقی نقشبندی مجددی
 شیخ علام علی ایشید سفر نویسی یکت احمدی
 تاجران کتب لہو تو تاجران کتب لہو تو

پہلا حصہ

۵۶

چھٹا حصہ

آپنکے اپنے مخالفین کے خلیلیں کی تھی۔ لہذا مومنین کے قتیں یا اس کو فرض کرنا صاف واقع ہے۔ تجوہ بیہمہ برکات ملکات دعائیں کوئی خصوصیت کاغذ کی نہیں۔ ہدایت کی مورست کفار و مومنین سب کو ہے نہ ایں ہر نومن دعا کرنے ہے ایہ دعا
الصراط المستقیم اور ذمی کا الفاظ نامہ کرو جائے کہ اگر اس میں مخالفین کفار داخل ہیں تو مومنین بطور
اُولیٰ داخل ہیں + اگر نومن دکون کے مومن میں تیکلفت نہ کیا جائے۔ جو اور تجوہ میں کیا کیا ہے تو مات سیدھا
تجوہ بیوں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا دستور تھا کہ عابرین اور خفیہ یہ دعا کرتے تھے کہ اللهم اهد المُنَّگر بِنَدِیْنَا و
آخرت کا کار و مر سے ہر شخص میں بالمقابلہ پلا آ رہا ہے۔ اور اس سے اگلے شتریں بھی یہی ذکر تلقیٰ کرو جو دینا و
بعید نہیں کر مولانا کی مراثی و دکون سے دیتا وہ خوش تھی ہے۔ اب یہ تکلفت بے مثال نہیں۔ داشدہ علم بالصواب +

باز کشته از دم او سر دیا ب درودِ حالم د عربت و مستحباب

تُرکیب - درسرے صدر عین کلمہ در بی از طرفیہ ہے بہرہ الجلیہ۔ لہذا تجوہ بد طرح ہر مکتابے اور طلبہ بھی در طرح
تُرکیب ہے۔ آپ کی دعا سے دینیاد آخرت کے دراز و راز سے بکھل گئے۔ دراز جہاں میں آپ کی دعا
مقبول ہے را بیوں کو کہ دراز جہاں کے بارے میں آپ کی دعا مقبول ہے +
مطلب ہے۔ دراز جہاں میں آپ کی دعا مقبول ہے کام مطلب پہلی تقدیر پر یہ ہے کہ دنیا میں جب آپ نے اُنت
کی ہدایت کے لئے دعا کی تزوہ مقبول ہو گئی اور جب آخرت میں ان کی خواتیت کے لئے ڈعا کریں گے تو وہ بھی مقبول ہو
جائے گی۔ جیسے کہ احادیث اس پڑشاہیں۔ درسری تقدیر پر یہ مطلب ہے کہ اُنت کی دُنیوی و آخرتی بہادری کے
لئے آپ نے جو دعا کی تزوہ ہو گئی +

التفہما - سفتاح الحمد کی پہلی بیلوج بح امارات لکھ میں شائع ہوئی۔ اور سرطان و جیاعمت کے لئے اگر کراس کے مطالعہ
کا وقوع لا۔ لہ ایک دوست نے راتم کی ایک خاص شمع کے متلوں لکھ کر شنوی کے سوار اس کی شمع سے جو آپنے لکھی ہے
مرزاںی لوگ ختم بُرت کے خلاف اسنے پکڑ لئی ہیں اور کھینچ لیں کہ دیکھنے والے اپنی شروع میں یہ تکمیل کرنے میں کوئی
بُرت ختم نہیں ہوا۔ وہ شریعہ ہے حسے

شعلہ آں ہادیکہم کاں لود

یہ شعلہ دشادھر و بگر کی سکابست کے آغازیں ہے۔ ہر جنہ کہ اس شعلہ اس کی شمع سے مرزاںی نادیاں کا اپنے جذبہ ہے
استدال کر ان کی کم تھی ہے۔ تام عوام کی غلط فہم رفت کرنے کیلئے تنبیہے ایلیشن میں اس مقام کے اور دفعہ کو دیا گیا ہے
تنبیہ، تاہم ان لوگوں کی سخت ملکیت پر جو ایک صفت کے صلے و شہر عینہ اور اس سے دفعہ و شدن سکس کے خلاف
کرنی ہے پس لدھب کی نامیہ بیس استدال کا صفت لگتے ہیں جن حقیقتیں یہ لوگ جس لایج مدل سے شمع کرنے میں بخسیا
ہیں۔ اسی طرح دنیا کی شمع سے بھی مستندی ہیں۔ اب تاریخی کے جاہنے کے تھنوی کے ان اشاعتیں جو محتاط ہیں۔ یہ
معلوم کر لیں کہ مولانا کا عقیدہ ختم بُرت کے بساے میں کیا ہے +

بھراں خاتم نہ لستہ اور کرن بکوڑ

مشل اونتے بوڈ نے خواہند بُرد
تُرکیب ہے۔ آپ نے عالم را نبیین اسی لئے ہونے ہیں۔ کوئی فیض رسانی میں نہ کوئی آپ کا مشل ہے۔ اور نہ
لائندہ آپ کی مشل، مہل کے +

بِهَا حَمْدٌ

八

چہارمین

مدظلہ بے پیشگی آنکھوں صلال اللہ علیہ وسلم کے نزد مذیع اس سے بھٹک جا کر مل بھئے کیم و میں دی تھی کہ اپنا ملے سا بھتھے لے جو مر نکلے پھر کشاور جو دی تھی وہ اپ کی بہلات کرتا تو پھر میں بیز اپ کی شواعت دلوں جاؤں پر ماری سے اور بیانات کی کوشش کرنے کو معاول تھیں یہاں سے اپ کے ناتوانیوں صرف سے آپ کی آنکھوں کا شواعت پیش فرما کر بھیں جس کا مطلب ہے اپ کو جو اپ کو اپنا خالی نہ نام اشیا، کے خاتم پر معرفت فراہم کرے۔ اس طبق اپ کے بعد کوئی بھی جو شدید گلاظ اپنے کو نکھڑ کر دی پڑے کہ آپ شانہ کیلات تھیں جس نے جسم اخراج اپ کے سالانہ سلسہ بروت ختم ہے۔ جسی طرح تحریک ہے، اکٹھی ہے، ہمافر عالم اصلاح ہوئی تاہم تھیں اس تھی اصلاح خلق ایک دن انہیں انتہی بائیتیں، تغیری ترب و غیرہ باسیں ہیں اپ سے بڑا بہ اکل نہ ہوئیں، ہیں۔ جس کی لیکر کوہ دوسرا بھی سے تفہیم فرخ بھولی اُتھے ہیں کہ مزید لذیع و راستے پیش ۔ ۱

نے تو گولی خشم پسندیدن شکر کو اسست
چون کہ دلخواہت پرداز استاد

تزمیح ہے جب کوئی اسٹریڈ (فن) کوئی صنعت میں ناکن ہنا ہے۔ زکیاتم (اس کا بطور مدعی ہے) شیعیوں کے
کوئی (ایہ) صنعت نہیں پر ختم ہے ۔

در کشاوختگان اتوخانه‌ی روح بخشش‌کاری

مترجمہ:- اسی طرح تم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی عرض کر کیا جائز تھا فریادِ ای وابی، آپ ان مجذوبوں کے کشاد کرنے میں غافل نہیں۔ اور رایاں دعوفان کی: طویج یعنی شذوال کے عالمیں بالآخر ہیں۔ مظلوم سب ایسا ہے جو دعوفان کی گروح بخت انبیاء علیہم السلام کا کام ہے۔ جس طرح عالمِ اکائی سبم و زرکشیہ بنی سام اسی سے افضل نہ ہے۔ اسی طرح آپ کا مالست باطل کی دوڑت یعنی شذوال نامِ انبیاء سے نہ پل بہن +

هست اشارت سعیل الماد گل کشاد اندر کشاد اندر کشاد

تبریز - غرض حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی افزایی ہے؛ لہو سب کی سب فتح و فتوح
درستہ ہیں *

مطلبہ۔ مگر ہے اتنا ہے سلطان امراء شاد مراد۔ جسے کوئی بھی نشانہ کیوں پکدا ہے
امیر ہے تاہم اکثری القاوس، پھر کسی ذمہ داری کی فروخت نہیں اور خوبیات ہے اپنے ارشادات
خوب درافت کرنے میں لیکن اگر انشاد سے اباہ، گناہ اور سخن، اس بات کا تم برقرار رکھو۔ تو یہی کلمہ درج ہے تو مطلب
یہیں ہو گا۔ اب کسے راغب ارشادات اسرار سریت کی صورت چاہیوں: تزلیں جبکہ، اپ۔ نکاشا راست بھی اس مراد انشاد
گفتگی پر ہے ۴

سو ایسا اور سے اس کام سے پہلے تو ویکٹ نام بانی کی خلاف مبتدا اور تکالیفیاں ہوتی ہیں۔ مگر ہر ہی شمارے ایک بندگی کی تینوں سے جو اپنے ایک ایسا مطلب ہے جو اپنے بھتیجے پر کوئی تھنھیں نہیں۔ اگر کوچھ تھنھیں کیا جائیں تو اس کے لئے بھتیجے تھنھیں کیا جائیں۔ اس کے لئے کوئی تھنھیں کیا جائیں تو اس کے لئے کوئی تھنھیں کیا جائیں۔ اس کے لئے کوئی تھنھیں کیا جائیں تو اس کے لئے کوئی تھنھیں کیا جائیں۔

بہر اس خاتم نہ کہ مل میستہ اے اے کہنے بگو
مشل اونے بود نے خواہ سند بگو
تزریق ہے۔ آپ خاتم را (تبیین) اسی لئے ہوتے ہیں کہ فیض رسانی میں نہ کوئی آپ کا مثل ہے۔ اور نہ
آئندہ آپ کی مثل، بدل گے +

چونکہ صنعت پر واسطہ است نے تو گوئی ختم صنعتیت کو است
تزریق ہے۔ جب کوئی اسٹراؤ فن کوی صنعت میں ناواقف ہوتا ہے تو کیا تم اس کو بطور محسن یا بیٹھیں گتھے
کہ ایہ صنعت تم پر ختم ہے +

در کشاد ختم مسائون خارجی در چنان روح بخشنلان خارجی

تزریق ہے۔ (اسی طرح تم اس صنعت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی عرض کر کے یا حضرت شافعی افکار ایک ایکی، آپ
ان بھروسی کے کشاد کرنے میں خالق ہیں۔ اور (ایمان و عرفان کی) توجہ بخشی داں کے عالم میں خالق ہیں۔
مطلوبہ سیماں کی روح بخشان اپنیا وظیفہ اسلام کا کام ہے جبکہ طرح عالم کا مام سیم و ذریثہ بنے میں نام
اسنیا سے بفضل ہے۔ اسی طرح آپ کا ایک بات بالتوں کی ذریثہ بخشی میں نام اپنیا استہضف ہیں +

(مفہوم العلوم ، شرح مثنوی مولانا روم ، جلد 15 ، دفتر 6 ، حصہ اول ، صفحہ 56-57)

حضرت مولانا رومی لکھتے ہیں:- آپ خاتم (تبیین) اس لئے ہوئے ہیں کہ فیض رسانی میں نہ کوئی آپ کا مثل ہو۔ اور نہ آئندہ
(آپ کی مثل) ہوں گے۔ جب کوئی اسٹراؤ (فن) کسی صنعت میں فاقہ ہوتا ہے تو کیا تم (اس کو بطور مرحیہ) نہیں کہتے کہ (یہ)
صنعت تم پر ختم ہے۔

Hazrat Maulana Rumi says:- "The Holy Prophet, peace and blessings of Allah be upon him was the Khatam because no one had ever been like him, before, nor shall there be one after him. When an artist excels others in art, do not say "The art has ended with you."

(Miftah ul Ulum vol 15 page 56-57)

Hadhrat Maulana Rumi sagt: "Er war das Siegel (der Propheten), weil nie jemand in solchem Maße Segnungen austeilten konnte, wie er, noch wird das einer jemals können. Wenn der Meister einer Kunst sein Feld beherrscht, sagst du nicht zu ihm als Kompliment: "Diese Kunst ist mit dir vollendet."

(Miftah ul Ulum Bd 15 Seite 56-57)

مشنوی مولوی مشنوی ہنس قیآن زبان پلوی
مشناخ احمد مسلم

تیرتیوبیں جلد

شیخ شمس الدین مولانا مازوہ
 حضرت سیدنا
 داشت

عالیجنا جنهرت مولانا مولوی محمد بندر صناعتی نقشبندی مجددی
 شیخ علام علی ایشان شریعتی مکتب ایشانی
 تاجران کتب لے ہو تو تاجران کتب لے ہو

حصہ اول

۹۸

دفتر بخوبی

ترجمہ اس (عقل کل والے) سے شکاریں کر شکری کی خوبی پہنچی۔ اور اس (عقل جزوی فاسی) نے خکاری کو خود شکار ہوتے کافم الحجا یا۔

مطلوب۔ مروحدا بعشق کی سی حق تقدیل کا شکارین کراداں کے دام عشق بیس مقید ہو کر منیا کا حسن دیکھا اور خود اس پاک صید بیس گیا۔ یعنی وہ تلقی با علاقوں اللہ اور خلائق سے بن گیا۔ اپنے اس پاک صکم کا بیات بیس، تاذہ بیس بہنافت اس کے دنبادار یا عقل جزوی والا غدوں خدا کو اپنی گفتہ تلقی اور دام تزدیر بیس مقید رئے کی ذہب سے خود اس شکار بے شکار شکار ہو گیا۔ چنانچہ عجیب ساختہ بیس خود را صید بیس کر دی بدام۔ کہ شری محبوس و محروم زکماں

آل زخم درست ناز خندومی زراہ عزت باتفاق و بیس زخم درومی زراہ عزت باتفاق

ترجمہ اس (امداد خدا) نے خدمت کے ذریعہ مخدومی کی شان رسائل کی۔ اور یہ (دنبادار مخدومی) دے گزور، کے عہد عزت کی راہ سے پھر گیا۔

آل زفر عونی اسیہر آب شدہ۔ مزا سیہری سبطبی ازار باب شدہ

لغات۔ سیکلی۔ اسلائی۔ یعنی اسرائیل کا آدمی۔ ارباب۔ شرفاء مذاہب۔

ترجمہ ہے، فرعونت کی وجہ سے پانی میں غرق ہو گیا۔ اور اس ایشی قیدی ہو جانے کے باعث مخدوم دل بیس ہو گیا

لعیسی مکوں سنت فرزین بخت جیلہ کم کن کار اقبال سنت بخت

لغات۔ فرزین بند۔ فرزین شترخ کار بیس زیادہ طاقتور مرد ہوتا ہے۔ فرزین بند سے بذی شذرخ کی وجہ مارا ہے جس میں فرزین پیادہ کی تقدیم سے جو اس کے عجیب و تابع حریف کے مرد کو اگئے آئے نہ رہے۔ یعنی کوئی اگر بیٹ کا سرہ پیادہ کو مار سکتا۔ فرزین اس کا انعامہ ہے کاگری چال۔ ریش دوانی۔ یا بخت رکاوٹ۔

ترجمہ ہے (یہ) الشاکلیں ہے۔ اور بخت گھری چال ہے دام کے مقابل میں کوئی جملہ کر کرو۔ کیونکہ یا مقابل وغیرہ کام ملاد ہے دام اپنا اختیار سے باہر ہے۔

برخیمال جیلہ کم تزن تازرا کعنی رہ کم دہر مکار را۔

ترجمہ جیسا کے عیال سے (مدد و فریب کی تائی نہ شو کیونکہ اخداونہ) غنی مکار کو باریا سپہیں کرتا۔

مکر کن در را نیکو خدمتی تاب نبوت یا بی اندر امتی

ترجمہ جس خدمت کی رہیں تدبیر کرد تاکہ تم اتنی ہو کر نبوت کی کمالات پاوے۔

مطلوب۔ شر کے خدا اپنی بیس یا کے صدری بیت است ہے۔ مکر بھی ہے لذاظ ضرورت ہے یا نے نسبت استہمال ہوا ہے۔ نبوت یا بی کے کمالات نبوت کا حصول مراد ہے۔ اور مکر کا حصول امتحن کرے۔ شہزادے کرام سے تو کاغذی ہونا لازم نہیں آتا کیونکہ نی کے کمالات نبوت اسالت نابت ہوئے ہیں۔ اور اتنی کے لئے تباہیں الیتم من ۱۔ مکر بھیت لی کتب المسلمين المنشدہ ہی۔

 دفتر بخوبی
دفتر بخوبی
دفتر بخوبی
دفتر بخوبی

حصہ اول

۱۵۲

دفتر ششم

بہوں لہ دستِ خود بدرستِ وردی پس زدستِ آکالاں بیرون جوی

ترجمہ جب تم اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ بیوت کے لئے دے دو گے۔ اور اس کی تعلیمات برعکسی کرو گے، تو مجھ تک رشیدان لجیں، نفس انارو، اور ساون وغواڑ وغیرہ کے) دناروں سے صفات بخچاؤ گے۔

وستِ نوازاں اُک بیعت شوو کہ یَنَّ اللَّهُ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ لَا

ترجمہ پھر اپنا ہاتھ ان بیوت (رقصان)، والوں (کے ہاتھوں) میں سے ہو جائے گا جس کے تعلیم رسول اللہ تعالیٰ کا ہاتھ تھا۔ مطلب:۔ مرشد کامل کی بیعت گویا رسول اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت ہے۔ اور اس کی بیعت کرنے والے کے ہاتھ پر اندر تھائے کا ہاتھ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سلسلہ بیعت خواہ ملکی خلافاد ہیں۔ اس کی انتہا رسول اللہ تعالیٰ اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہے۔ مرشد کامل کا ہاتھ اپنے مرشد کے ہاتھ سے چڑھا ہے۔ اور اس مرشد کا ہاتھ اپنے مرشد کے ہاتھ سے۔ اسی طرح یہ سلسلہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ یا حضرت علی کرم اللہ عز وجلہ تک پہنچتا ہے۔ اور ان ہر دو حضرات کے ہاتھ رسول اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک سے مل پکھیں۔ اس لامائتے مرشد کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دینا گویا رسول اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک سے ہاتھ لانا ہے۔ دوسرا سے صرف میں ہیت غیوان کی طرف اشارہ ہے۔ اور یہ کلمات آئیں قرآن پرستی مقتبس ہیں۔ اس بیعت کا مفصل ذکر مفتاح العلوم بحدیث چارم کے اولین گذر پڑکا ہے۔

چوں بداری وستِ خویں دو دستِ پتیں پھر حکمت کو حیم سست و خبیر

ترجمہ جب تم اپنا ہاتھ مرشد کامل کے ہاتھ میں دے دو گے۔ تو (دیکھو ہو گے کہ) وہ یہ حکمت (و دنائی) کا (حق) ہے۔ کیونکہ وہ صاحب حکمت ہے۔ اور باخبر ہے۔

مطلوب:۔ اب جو تم کو اپنی حقیقت دانائی پر نالدے۔ تو مرشد کی بیعت کرنے سے معلوم ہو جائے گا کہ تمہاری حقیقت اس سے درست حکمت پائی کی کس قدر عتمد جتنی۔۔۔

حافظہ ازدواج فزانی چودست تائیرت زانکہ درانج فزانی چودست تائیرت

کوئی وقت خوش سست اے هلیہ زال کہ او نور تی آمد پارید

ترجمہ کیونکہ کوئی لے مرید و وہ (مرشد کامل) اپنے عمد کا نہی ہے۔ اس لئے کہ وہ صفات طور پر تی کافر ہے۔

مطلوب:۔ جیونکہ مرشد تی کی تعلیمات کو خانکہ کرنے اور ان پر عمل کرنے والا ہوتا ہے اس لئے وہ گیلانی کافر ہے۔ کیونکہ اس سے وہی روشنی پیشی کرے۔ جیونکہ کی بعثت سبق مودود ہے۔ پہلا مصیر اس حدیث کے صفحہ ہوں پر مشتعل ہے۔ کہ اشیاء فی قومہ کالنی فی امتداد پیدا شیعیانی قومیں میں ایسا ہے۔ جیسے ہی اپنی امت میں تغیر الطیب میں لکھا ہے۔ کہ اس حدیث کو ابن جان نے ضمیت حدیثوں میں درج کیا ہے۔ اور وہ انبوار فی سے مرفوع مروی ہے۔ اور کہا ہے۔ وہاں موضوعہ این تیہیں اور ابن حجر اس کے موقوف ہوئے تلقین کیا ہے۔ (تھی)

دفتر ششم
دستِ ختم نبوت

لکر کن در راه نبی کو خدمتی تابوت یا بی اندر امتحان
نزدیک حسن خدمت کی راہ میں تدبیر کروتا کہ تم امتی ہو کرنبوت کے کمالات پاؤ۔

کوئی وقت خوشست اے ملایہ ڈال کہ او نور نبی آمد پرید
مرجہبہ کیونکہ اے مرید وہ (مرشد کامل) اپنے عہد کا نبی ہے۔ اس لئے کہ وہ صاف طور پر نبی کا نور ہے۔

(مفتاح العلوم، شرح مثنوی مولانا روم، جلد 13، دفتر 5، حصہ اول، صفحہ 98، 152)

حضرت مولانا روئی لکھتے ہیں:- حسن خدمت کی راہ میں تدبیر کروتا کہ تم امتی ہو کرنبوت کے کمالات پاؤ۔ کیونکہ اے مرید اوہ (مرشد کامل) اپنے عہد کا نبی ہے۔ اس لئے کہ وہ صاف طور پر نبی کا نور ہے۔

Maulana Rumi says:-Strive hard in the path of virtue in a manner so that you may be blessed with prophethood while you are still a follower.

(Miftah ul Ulum, Vol: 13, Page: 98,152)

Maulana Rumi sagt: "Mühe dich auf dem Wege des Guten / Damit du - als ein Gefolgsmann des Heiligen Propheten^{saw} - Prophetenschaft erlangst;
Denn, O Schüler, er ist der Prophet seiner Zeit / Weil er das Licht des vollkommenen Propheten wiederspiegelt."

(Miftah ul Ulum Bd. 13, Seite 98,152)

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلَفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ازْتَفَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفٍ فِيهِمْ أَمَّا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَسِقُونَ ﴿56﴾ (النور: 56)

اللہ نے تم میں سے ایمان لانے والوں اور مناسب حال عمل کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے کہ وہ ان کو زمین میں خلیفہ بنادے گا۔ جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنادیا تھا اور جو دین اس نے ان کے لئے پسند کیا ہے وہ ان کے لئے اسے مضبوطی سے قائم کر دیا گا اور ان کے خوف کی حالت کے بعد وہ ان کے لئے امن کی حالت تبدیل کر دے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے (اور) کسی چیز کو میرا شریک نہیں بنائیں گے اور جو لوگ اس کے بعد بھی انکار کریں گے وہ نافرمانوں میں سے قرار دیئے جائیں گے۔

Sura 24:56 Allah has promised to those among you who believe and do good works that He will surely make them Successors in the earth, as He made Successors from among those who were before them; and that He will surely establish for them their religion which He has chosen for them; and that He will surely give them in exchange security and peace after their fear: They will worship Me, and they will not associate anything with Me. Then whoso is ungrateful after that, they will be the rebellious.

Sura 24:56 Verheißen hat Allah denen unter euch, die glauben und gute Werke tun, dass Er sie gewißlich zu Nachfolgern auf Erden machen wird, wie Er jene, die vor ihnen waren, zu Nachfolgern machte; und dass Er gewißlich für sie ihre Religion festigen wird, die Er für sie auserwählt hat; und dass Er gewißlich ihren (Stand), nach ihrer Furcht, in Frieden und Sicherheit verwandeln wird: Sie werden Mich verehren, (und) sie werden Mir nichts zur Seite stellen. Wer aber hernach undankbar ist, das werden die Empörer sein.

مسنون

العمل الحذر حذل

منْشَحَ كَزِ العَمَال فِي سُنِ الْأَقْوَال وَالْأَفْعَال

المَحَلَّدُ الرَّابِعُ

دارصادر بیرونیت

سفة حوم ا (طب) عن عدى بن حاتم * **ابن زمان** تسير الفعلين من مكان الى الحبر لا يأخذ أسد بخطام راحلتها ولما نبأ على الناس زمان يعشى الرجل على كفه ذهباً يتصدق به لايقبل منه (طب) عن عدى بن حاتم * ياعدي لا تزدرن أصحابي ولما فتحن كوز كسرى واختبر جن الفعلين من الحيرة جواره هذا اليت وليلش معن على هذا المال في أول النهار ثم يطرح في آخره فلا يقبله أحد (طب) عن عدى ابن حاتم * **بعث الله** زوج حل الماء يعني الى كسرى ملك فارس خرج به من سور (٢٧٣)

(٣٥) - (مسند احمد) (رابع) **الْخَبْرُ بِالْعِلْمِ لَطَعْمَتْ كَمْوَهَا وَكَمْ أَهْلَكَمْ أَنْ تَرَكَوا زَمَانًا أَوْنَ أَدْرَكَهُ مَسْكُمْ بِغَدِي عَلَى أَحَدٍ كَجَفَنَةٍ وَرَاحَ عَلَيْهِ بَارِخِي وَبَسْتَرًا حَدَّ كَمْ يَكْتَسِرُ الْكَعْبَةُ هَذَا دُونْ سَعْدَدْنَ هَشَامْ * اَنْكَمْ - مَقْتَالُونْ قَوْمَا
ذَاقَتْهُرُونْ عَلَيْهِمْ فَيَقُولُنَّكُمْ بِأَمْوَالِهِمْ وَبِصَالَوْنَكُمْ عَلَى صَلَاتِهِنَّ وَأَمْمَنْ فَوْقَ ذَلِكَ فَانْهَلَّبِي أَكْمَ الْبَغْرِي عَنْ**

255

فقال حذيفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون النبوة ففيكم ماشاء الله ان تككون ثم يرفعها اذا شاء ان يرفعها ثم تككون خلافة على منهاج النبوة فتق تكون ماشاء الله ان تككون ثم يرفعها اذا شاء الله ائن يرفعها ثم تككون ملائكة اضافي تكون ماشاء الله ان يكون ثم يردها اذا شاء ائن يرفعها ثم تككون ملائكة بريه فتق تكون ماشاء الله ان تككون ثم يرفعها اذا شاء ائن يرفعها ثم تككون خلافة على منهاج النبوة ثم سكت

(مسند احمد بن حنبل ، جلد 4 ، زیر عنوان حدیث نعمان بن بشیر ، صفحہ 273)


حضرت حذیفہؓ بیان کرتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ کچھ عرصہ جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا نبوت کا زمانہ رہے گا پھر خلافت نبوت کے طریق پر قائم ہو گی اور اس وقت تک رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ کا منشاء ہو گا پھر وہ ختم ہو جائے گی اور با دشابت کا دروازہ کھل جائیگا اور یہ کچھ عرصہ تک جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا کھلا رہے گا۔ پھر اس کے بعد جابر حکومتیں شروع ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کو ختم کر دیگا اور اس کے بعد دوبارہ نبوت کے طریق پر خلافت قائم ہو گی۔ پھر آپ نے خاموشی اختیار فرمائی۔

The Holy Prophet, peace and blessing be upon him said:- "Prophetic period will remain with you as long as Allah wills that it remains, then Allah the Supreme will lift it; then will emerge Caliphate based on the prophetic standard of values and remain as long as Allah wills that it remain; then Allah will lift it; then will start cruel government and remain so long as Allah wills that it remain; then Allah will lift it; then will start conscriptional monarchy and remain so long as Allah wills that it remain; then Allah will lift it; then will emerge Caliphate based on the Prophetic standard of values. Then he became silent.

(Musnad Ahmad bin Hunbal vol 4 page 273)

Hazrat Husaifa (Möge Allah Gefallen an ihm haben) berichtet, dass der Heilige Prophet^{saw} sagte: Die Ära des Prophetentums wird solange währen, wie es Gottes Wille ist; dann folgt die Ära des Khilafats. In jener Ära werden die Werte des Prophetentums weiter gepflegt. Sie wird solange bestehen, wie es Gottes Wille sein wird. Dann wird auch diese zu Ende gehen und die Zeit der Monarchie beginnen, und auch sie wird solange Bestand haben, wie es der Wille Gottes sein wird. Dann wird die Zeit der Tyrannie einsetzen, und Gott wird auch sie beenden. Schließlich wird wieder die Ära des Khilafats anbrechen, in der Art und Weise des Prophetentums." Alsdann schwieg er.

(Musnad Ahmad bin Hanbal Bd 4 Seite 273)



لیا جادے جس سے صریح نقشان عقل ناقل نقل مذکور معلوم ہوتا ہے تو ایک
 مستقبل کتاب بننی ہے مگر میں نے بخواے قول خدا خذ العفو و اصل بالعرف
 داعمن عن الاجاهین اوس سے اعتراض کیا یہ قول اس قائل کا باطل ہے بلکہ
 ہے حدیث کا دھی بعد موافق ہے اصل ہے ہاں کا بنی بعد ی آیا ہے اسکے
 معنی نزدیک اہل علم کے یہہ این کہ میرے بعد کوئی بنی شرع نامخ نہ ادا کا بدلی
 اپنی تصنیف میں مراد است کی ہے اساتذہ کی کہیں علیہ السلام ہمارے ہی بنی کی
 شریعت کا حکم دیگرے قرآن و حدیث کے رو سے اس سے یہہ امر راجح سمجھا جاتا ہے
 کہ وہ سنت کو جانب بخوبت سے بطریق مثال فہر کے بغیر کسی واسطے کے بالطریق وحی
 والہام کے حامل کرنے گے ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ جب انہوں نے بہت
 حدیثین روایت کرنا شروع کیا اور لوگوں نے انہر انکار کیا تو اونکھوں نے
 کہا اگر یہے بندر یم میرے مرست سے پہنچا اور تین اور میں ادنکو حدیث کی روایت
 کروں رسول خدا صلیم سے تو وہ میری تقدیق کرن گے یہہ دلیل سے اس بات پر
 کہ وہ عالم جمیع عالم سنت بنی سلم کے ہوئے ادنکو اسکی حاجمت ہو گئی کہ وہ سنت کو
 کسی اتنی سے ہاذکر این بیانات کو ابو ہریرہ جنہوں نے خود جناب رسالت سے احادیث
 کو سنائے وہ بھی محترم ادن کی تقدیق کے ہین انتہی میں کہتا ہوں اس تکہد
 کی کیا ضرورت ہے کہ وہ بلا واسطہ علم سنت کو مثال فہر کا حامل کرن گے کوئی حدیث تجھے
 اس باب میں اگر لے تو تیہ بات ٹھیک ہے۔ درود قرآن و کتب سنت جو آنے والے
 میں موجود ہیں اور قیامت تک باقی رہنی گی دریافت حکم خدا اور رسول کے لئے کہ
 ہیں انکے ہوئے ہوئے بایں سند مستقبل مردی غریب ضرورت افذا بالثانیہ کی کیا یہہ
 شافعیہ بنی اگر ثابت ہو تو نالہ مثال یا ارادا جس میں ہو سکتا ہے نہ اس عالم میں پھر
 دلیل کیا باقی یہہ بات اور سب کو ادن کو وحی ادی جبلیح حدیث نواس بن سمعان

ہے حدیث کا دھی بعد موتی بے اصل سنت ہے ہن لآن بعده دی آیا یہیہ اسنتے
معنی نزدیک اہل علم کے یہیہ ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی شرع ناسخ نہ لاویگا

(اقتراب الساعة ، صفحہ 162)

اہل حدیث کے مشہور و معروف مذہبی لیدرنواب صدیق حسن خاں صاحب کہتے ہیں کہ حدیث لا وحی بعد موتی بے اصل ہے۔ ہاں لآن بعده آیا ہے جس کے معنی نزدیک اہل علم کے یہیں کہ میرے بعد کوئی نبی شرع ناسخ نہ لاویگا۔

The famous and well-known religious leader of the Ahl-e-Hadith, Nawab Siddiq Hassan Khan says:- "The Hadith 'There is no revelation after my demise' has no foundation, although LA NABIYYA BA'DEE is quite correct, which, according to the men of letters, means that 'There shall be no prophet after me who shall be raised with a new code of Law which abrogates my Law.'

(Iqtrab ul Saat page 162)

Der berühmte und bekannte religiöse Führer der Ahl-e-Hadith, Nawab Siddiq Hassan Khan, sagt: "Der Hadith "La Wahya Ba'da Mauti" (Es gibt keine Offenbarung nach meinem Tode) hat keine Grundlage: Allerdings ist die Hadith "La Nabiyya Baadi" (Es gibt keinen Propheten nach mir) durchaus richtig, nach Meinung der Gelehrten bedeutet sie: Es wird keinen Propheten nach mir geben, der mit einem neuen Gesetz kommt, das mein Gesetz abschafft."

(Iqtrab ul Saat Seite 162)

اللَّهُمَّ إِنَّكَ خَلَقْتَ سَمَوَاتِي وَمَسَنَّ الْأَرْضَ إِنِّي لَا أَمْسِكُ

بِفَضْلِ خَالقِي مَوْلَى وَإِذْنِي إِنِّي لَا أَمْسِكُ بِكَمْ عَلَيْهِ خَاصَّيْ بِكَمْ

شَرَابُ عَبَاسِيَّةِ وَلَاقِعُ الْوَوَاسِ

از پیغمبر علوم المعمول جنزوں المقول برلام ابوالجرجس محمد عبدالحی کھنری دام فیضہ اللہ

صلی اللہ علیہ و آله و سلیمان کے عیناً ملکی افضل اوصیاً و اوصیاً ایضاً رئی پیر حضور مولانا شفیع

بادید مطبع گردید
و مطبوع

پس ثابت ہوا کہ اسکو ابن عباس نے کسی بیو دستے اخذ کیا اول ابن ہجر و فیرہ نے اس حدیث کو یوں دایت کیا ہے تعالیٰ بن عباس نے مل قرضشل برائیم دخواعلی الارض نے محلت اور ابن ہجر نے فتح الباری میں سکھا سادہ صحیح اور کلمہ علی الارض کا حام ہر پنچاہ میں اور کشل عسی کجی طبقات میں ہر گوارثی اپنیکم یا عدی کسی یا زر کو روح سے نہیں مستفاد ہو کر ہر طبقہ سے ایک ایک بن اندان انبیاء کے صحیح صفات کا لیے سکھی تا انہوں کو رکن اوسی کا دلالت کرے کہ یہ قول ہرودی کا ہر بلکہ اسی تقدیر غیرہم ہوتا ہے کہ ہر طبقہ میں اپنی اندان انبیاء کے سخت اگرچہ مشہدست بعض صفات ہی نہ قابل الحصر حدیث ابن عباس عن اصحاب ترقان بزرگ کو نکھل جتن تعالیٰ شاذ کرتا ہے لیکن رسول اللہ صل و خالی علیہ السلام اور خرا جادو خالق ترقان کے باطل اقول یہ حدیث اکثر سلسلہ مرکے ہو کر طبقہ میں ایک ایسا بھی اکھنڑت کے زمانے میں جب شرع عبید پر بیت المقدس عما ذکر ہے خالق ہو گئی حال آنکہ یہ امر اس کو مستعار ہیں پس جائز ہو کرو اخراج اصل تجزیہ اکھنڑت کے زمانے کے بلکہ ہوں ایسا اکھنڑت کے زمانے میں ہو سکے صحیح شرحت محمد یہ ہو سے ہوں کوئی کوئی بعد اکھنڑت یا زمانے میں اکھنڑت کو ہو گئی ہے۔

کافر نما عمال ہیں یا یہ صاحب شرع حبید ہونا البیتہ منش ہے چنانچہ لا علی بن ابری رسالہ مبعوث عالت میں یہ حدیث رعما شل بابک کان بنیا کے سختی ہیں اک لوما ش لکان بن اتباع کسی خضر ولایاس فلانیا تعفن تو لزلزلہ خاتم نبیین اذعنی اشلا یا میں بسح لست انتی اور حافظ ابن حجر اصحابی فی احوال الصحاہ میں لکھتے ہیں استدلیں پیغمبر علی رحمۃ الرحمۃ علیہ السلام لابن بدی و بطا ابن وحیۃ القول فی ذالک وہیں لبیسی ناشرین قلمدا و قشت اذینز ایل لی الارض فی آخر زمان دیگر بشریۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فوجیہ

السفی علی الرقا و لبنة کل احمد انس لاعلی لقی وجود نبی کان تینی قبل ذلکل نہیتی تا الی عضر۔

اہل اسلام کا یہ قول ہے کہ طبقات زمین کے باہم تصل میں اور اس اثر سے سلام ہوتا ہے کہ طبقات جو صد اہمی پس پیارہ اعلیٰ ہے۔ اقول اقصام طبقات زمین ذریب علماء ہدیت کا ہے اور دو مردوں ساخت احادیث صحیحہ کے کو دلالت کرتی ہیں فہمیں پر جام تندی ہیں اب ہر یہ سے سردی ہوئی تعالیٰ ناجاہ میں رسول اللہ صل و خالی علیہ السلام اور سولہ اعلم تعالیٰ نہیہ یو تھا اسلامی اہل لالہ پروردہ و لا یکرو نہیں ترددن مافقہ تو لک تالو اشد و رسول اکلر قال فوق ذلک سچ مکفون و سفت محفوظ مل ترددن مافقہ ذلک تعالیٰ ورسول اعلم تعالیٰ فوق ذلک سچاہل ترددن مافقہ۔

کیونکہ بعد آنحضرت کی از رانے میں آنحضرت کو مجرد کسی نبی سلام برنا محال نہیں بلکہ صاحب شرع جدید ہونا البتہ ممتنع ہے

(دافع الوسواس فی اثر ابن عباس ، صفحہ 16)


حضرت مولانا ابو الحسنات محمد عبدالحی لکھنؤی لکھتے ہیں: کیونکہ بعد آنحضرت ﷺ یا زمانے میں آنحضرت ﷺ کے مجرد کسی نبی کا ہونا محال نہیں بلکہ صاحب شرع جدید ہونا البتہ ممتنع ہے۔

Hazrat Maulana Abul Hasanat Abdul Hayee says:- "After the demise of the Holy Prophet, peace and blessings of Allah be upon him, or even during his own lifetime, it is not an impossibility for someone to be exalted to the position of a simple prophet. But a prophet with a new Law is, indeed, forbidden."

(Dafe alWasawis fi Athar ibn Abbas page 16)

Hazrat Maulana Abul Hasanat Abdul Hayee sagt: "Nach dem Tode des Heiligen Propheten^{saw} und sogar während seiner Lebzeit war und ist es nicht unmöglich, dass jemand auf den Rang eines einfachen Propheten erhoben wird. Aber dass ein Prophet mit neuem Gesetz erscheinen wird, ist unmöglich."

(Dafe alWasawis fi Athar ibn Abbas Seite 16)



لِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

کیا فرماتے ہیں بلکہ وہ میں اس باب میں کمزیدی نے بہ تبعیت ایک نام رے جس کی تقدیریق ایک صفتی مسلمین نے بھی اگر تھی اور بارہ قول ابن عباس سے جو درمنشور وغیرہ میں ہے۔ ان اہلہ خلق سیہ ارضین کی ارض ادم کا دم کو فوجاً نکھل کر ایا ہم کا براہیم کم دعیسی کیسا کو وہی کتبیک کے یہ عبارت تحریر کی کہ میرا یہ عتیقه ہے کہ حدیث مذکور صحیح اور مستبرہ ہے۔ اور زینین کے طبقاً بتہدا احمد ریں۔ اور ہر طبقے میں خلوق خدا ہے اور حدیث مذکور سے ہر طبقے میں انبیاء کا ہونا معلوم ہوتا ہے لیکن الکریمہ ایک ایک خاتم کا ہونا طبقات باقیہ میں ثابت ہوتا ہے۔ مگر اس کا مثل ہونا ہمارے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نہیں۔ اور زندہ میرا عتیقه ہے کہ وہ خاتم مختار کہ حضرت صلیم کے ہوں اس کیلئے کہ اولاد ادم جس کا ذکر و لعلہ کرمنا بنی اسرار میں ہے۔ اور سب مخلوقات سے افضل ہے وہ اسی طبقے کے ادم کی اولاد ہے۔ بالاجماع اور ہمارے حضرت صلیم سے اولاد ادم سے افضل ہیں تو بلاشبہ کہ تمام مخلوقات سے افضل ہوئے۔ لیں وہ سب طبقات کے خاتم جو مخلوقات میں داخل ہیں۔ آپ کے عالیٰ کسی طرح ہیں ہو سکتے۔ اُنہی اور بادبود اس تحریر کے زیدیہ کرتا ہے کہ اگر مشرع سے اس کے خلاف ثابت ہو گا تو میں اسی کو مان لوں گا۔ میرا اصرار اس تحریر پر نہیں پیش علماء شرع سے استقتاً ہیے ہے کہ الفاظ حدیث ان منہوں کو محظی ہیں یا نہیں۔ اور زیدیہ بوجہ اس تحریر کے کافر یا فاسق یا مشارق الہست و جماعت سے ہو گا یا نہیں۔ میں تو جزو

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على رسول خاتم النبیین و سید المرسلین والباد اصحاب اجمعین۔ بعد حمد و صلوٰۃ قیل عرض جواب یہ گزارش ہے کہ اول منہ خاتم النبیین معلوم کرنے چاہیں تاکہ فهم جواب میں کچھ وقت نہ ہو سو امام کے خیال میں تو رسول اللہ صلیم کا خاتم ہو گا میں سنتے ہے کہ اسی کی وجہ مذکوراً

تجزیہ الانس

۵

بیان کے لئے اپنے سب میں آخر بیان ہے۔ مکمل ایام حرم پر دشمن ہو گا کہ تقدیم ما تاخر زمانے میں بالذات کی فضیلت نہیں بچت امام مدح میں و نکن ترسول اللہ و خاتم النبیت فرمادیں جو حضرت میں کوئی خوبصورت کہنا، ملک الارض و حسن کو اور حسن و حرج میں سے نہ کہہ کر اس مقام کو مقام مدح و حرج کا تھا تو ایسا ترتیب ہے تا خلاف عقایق حیثیت ہے۔ تو اسی باہت ہوں انہیں اسلام میں سے کسی کو راست کو روندہ ہو گی کہ اسی ایک توہن اپنی جانب نوادر بالشذ زیادہ گوئی کا فہم ہے آخر اس دصف میں اور قدر قیامت و شکل و رنگ و صب و فسب و سکونت و غیرہ اوصاف میں جن کو نبوت یا اور فضائل میں کچھ داعل نہیں کیا فرق ہے جو اس کو ذکر کیا اور وہ کو ذکر نہ کیا۔ وہ سرسر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھائی فقصان قدر کا احتمال کیوں نکل اہل کمال کے کملات ذمکر کرنے میں وہ اعتماد نہ ہو تاریخوں کو دیکھ لیجیے باقی یہ احتمال کریں وہیں اپنے تھا اس لیے سد باب ایماع مدینان نبوت کیا ہے جو کل جھوٹے دعویٰ کر کے خلاصی کو گمراہ کریں گے۔ الیتھ فی حد ذاتہ تابیل الحافظ یہے پڑھ لے مالا محدثین احادیث من ترجیحاً الکفر اور جملہ و نکن ترسول اللہ و خاتم النبیت میں کیا تباہی تھا۔ جو ایک وہ سرسرے پر عطف کیا اور ایک مستدر کر مہنہ اور وہ سرے کو استدر اک اقرار دیتا۔ اور ظاہر ہے کہ اس قسم کی بے ربی اور بے ارتباطی تھا اس کے سلام میز نظام میں متفہور نہیں اگر سد باب مذکور منظور ہی تھا تو اس کے لئے اور میسوں مر قعہ تھے۔ بلکہ پیارہ تباہی اور بات پر ہے۔ جسیں سے تا خیر یافتی اور سد باب مذکور خود بجزد لازم آبانتا ہے۔ اور افضلیت نبوی دو بالا ہو جاتی ہے قفسیل اس اجیال کی یہ ہے کہ موصوف بالعرض کا تقدیم موصوف بالذات پر ختم ہو جاتا ہے جیسے موصوف بالعرض کا دصف بالعرض کا دصف موصوف بالذات، سے لکھتے ہوتا ہے موصوف بالذات کا دصف جس کا ذائقہ ہونا اور غیر مکتب من الغیر ہونا الغلط بالذات ہی سے مفہوم ہے کسی غیر سے لکھتے اور استعارہ نہیں ہونا مثال درکار ہوتا یہی زندگی و کہسار اور درود دلوار کافور الگر آنکتاب کافیض ہے تو آنکتاب کافر کسی اور کائیں نہیں اور بھاری عرض دصف

خا اور ایسے ویسے لوگوں کے اس قسم کے احوال بیان کرنے میں ہے

التصاف ذاتی بوصفت نبوت ییحییہ جیسا کہ اس پیغمبر اُن نے عرض کیا ہے تو پھر سوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کسی کو افراد مقصود بالحقوق ہیں سے ماحصل نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں کر سکتے بلکہ اس صورت میں فقط اپنیا کی افراد خارجی ہی پر آپ کی افضلیت ثابت ہوگی افراد مقدار پر یہ بھی آپ کی افضلیت ثابت ہو جائیگی بلکہ اگر بالغین بعد زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرقہ نہ آئے کہ آپ کے معاصر کسی اور زمین میں یا فرقہ کیجئے اسی زمین میں کوئی اور بنی تجویز کیا جائے بالحمد للہ ثبوت اثر مذکور دو نامہ ثبت خاتمیت ہے معاشر من و مخالف شاہزادہ النبیین ہمیں جو بولیں گے ابھا یہ کہ یہ اثر شاذ ہے جنہیں خلافت برداشتی تھات ہے اور اس سے یہ بھی واضح ہو گیا ہو کہ حسب مزعوم منکر ان اثر اس اثر میں کوئی عدالت خاصہ نہیں ہے جو اسی رہا سے انکار صحت کیجئے کیونکہ اول نورا میں بیہقی کا اس اثر کی نسبت صحیح کہتا ہی اس بات کی دلیل سے کہ اس میں کوئی عدالت خاصہ خفیہ قادحیۃ الصحة نہیں دوسرے شندوذ خطا توبیہ تھا کہ خلاف جملہ خاتم النبیین ہے اور عدالت تھی تب بھی تھی۔ اگر اور کوئی آیت یا حدیث ابھی ہی جس سے سات سے کم تر یادہ زمینوں کا ہونا انبیاء، کامک و عیش ہونا یا نہ ہونا ثابت ہے تو کہہ سکتے تھے کہ وہ شندوذ ہے مگر آج تک نہ کسی نے ایسا کہی وحدیت سنی تہ مدعا بر کرنے پیش کی علیاً لہذا القیاس معمنوں عدالت قادحہ کو خیال فرمائے آج تک سوا خلافت مضمون مذکور کسی نے کوئی وجہ تادح فی الاثر المذکور پیش نہیں کی اور فقط احتمال ہے دلیل اس باب میں کافی نہیں درست خارجی و مسلم کی حدیثی بھی اس حساب سے شاذ و معلل ہو جائیں گی اور نیز بھی واضح ہو گیا ہو کہ یہ تادلی کہ یہ اثر اسراہیلیات سے مانع ہے۔ یا انبیاء راد امنی ماتحت سے مبلغان احکام مراد ہیں ہرگز تابیل التفات نہیں وہ اس کی یہ ہے کہ باعث تاویلات مذکورہ فقط بھی خلافت خاتمیت تھی۔ جب خلافت ہی نواسی نہ ایسی نہ ایسی کیوں کیجئے جن مدلول منع مطابقی سے کچھ ملا فہمی ہی نہیں باقی رہی یہ بات کہ بڑوں کی تاویل کو نہ مانسے تو ان کی تحریر نہ عورذ بالله لازم اکے تھے۔ یہ اپنی لوگوں کے خیال میں آسکتی ہے جو بڑوں کی بات فقط ان رہا ہے ادبی نہیں مانگرے۔ ایسے لوگ اگر ابسا سمجھیں تو بھا ہے المرافقین علی

مولانا محمد قاسم نانو توی فرماتے ہیں: ”عوام کے خیال میں رسول اللہ ﷺ کا خاتم ہونا بایس معنی ہے کہ آپ کا زمانہ انبیاء سابق کے زمانے کے بعد اور آپ سب میں آخری نبی ہیں۔ مگر اہل فہم پر روشن ہو گا کہ تقدم یا تاخر زمانی میں بالذات کچھ فضیلت نہیں۔ پھر مقام مرح میں ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین فرمانا اس صورت میں کیونکر صحیح ہو سکتا ہے۔ ہاں اگر اس وصف کو اوصاف مرح میں سے نہ کیجئے اور اس مقام کو مقام مرح قرار نہ دیجئے تو البتہ خاتمیت باعتبار تاخر زمانی صحیح ہو سکتی ہے مگر میں جانتا ہوں کہ اہل اسلام میں سے کسی کو یہ بات گوارانہ ہو گی۔“ (تحذیر الناس، صفحہ 4-5)

مولانا موصوف مزید فرماتے ہیں: ”اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی ﷺ بھی کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا۔“ (تحذیر الناس، صفحہ 34)

Maulana Muhammad Qasim of Nanauta states: According to the layman the Messenger of Allah, peace and blessings on him, being the KHATAM (seal), is supposed to have appeared after all the previous prophets. But men of understanding and the wise know it very well that being the first or the last, chronologically, does not carry any weight. How could, therefore, the words of the Holy Qura'n: "But he is the Messenger of Allah and the seal of the Prophets" (33:41) glorify him? But I know very well that none from among the Muslims would be prepared to agree with the common men.

(Tahzir ul Naas page 4-5)

He states further: If we accept this view it shall not at all contravene his finality, even though someone in the future does rise to the high status of prophethood.

(Tahzir ul Naas page 34)

Maulana Muhammad Qasim aus Nanauta stellt fest: "Der Laie sagt, dass der Gesandte Allahs^{saw}, der das KHATAM (Siegel) ist, angeblich nach allen früheren Propheten erschienen ist. Doch die Menschen mit Verstand und Weisheit wissen sehr wohl, dass es keine Rolle spielt, zeitlich der Erste oder der Letzte zu sein. Wie könnten denn die folgenden Worte des Heiligen Qurân, "sondern der Gesandte Allahs und das Siegel der Propheten" (33:41), ihn verherrlichen? Ich bin mir im Klaren, dass niemand unter den Muslimen bereit sein würde, mit der Meinung der gewöhnlichen Menschen übereinzustimmen."

(Tahzir ul Naas page 4-5)

Er stellt weiter fest: "Wenn wir diese Ansicht annehmen, so wird sie nicht im Widerspruch zu seiner Endgültigkeit stehen, auch dann nicht, wenn jemand in Zukunft den hohen Rang des Prophetentums erreichte."

(Tahzir ul Naas Seite 34)

* وَالْكَلِيلُ خَلُقَ عَظِيمٌ *

* الْجَرْبُ الْأَوَّلُ *

مِنْ

* كُنَانَةُ الطَّالِبِ الْيَسِيرِ فِي خَصَائِصِ الْحَمِيرِ *

* الْمَعْرُوفُ *

بِالْخَصَائِصِ الْكَبِيرِ

لِشِعْرِ الْإِمامِ الْعَلَمَ الْمَامِ حَانَظِ عَصْرٍ وَدِيدِ دَهْرٍ أَبِي النَّضْلِ جَلالِ الدِّينِ

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرِ الْبُرْمِيِّ الثَّانِيِّ الْمُوْتَوْفِ سَنَةً أَحَدِيْنِ شَرْعَرَةَ وَتَسْمِيَةً

تَمَدَّهُ اللَّهُ تَعَالَى بِالرَّحْمَةِ وَالرَّضْوَانِ وَاسْكَنَهُ فَسْعَ الْجَاهِ

الناشر

الْمَكَتبَةُ الْبُرْسَيَّةُ الْمَصْرُوْيَّةُ ○ الْأَنْبُوْرُ بِكِبَرَا

١١٢

﴿الْحَمَّاْنِصُ الْكَبْرَى﴾

١٢

وَبِهِنْوَنْ عَنِ الْمَنْكُرِ وَبِهِنْوَنْ بِالْكَابِ الْأَوَّلِ وَالْكَتَابِ الْآخِرِ وَيَقَاتُلُونَ أَهْلَ الْفَلَاقِ تَحْتِ يَقَاتُلُوا الْأَعْوَادَ الْجَالِ
 فَقَالَ مُوسَى رَبِّ الْجَلِيلِ إِنِّي قَالَ هُمْ أَهْدِي دَقَالَ الْجَبَرِنُمْ هُنْ قَالَ كَعْبَ فَأَنْذِكُهُمْ هُنْ تَمْبَدِي كِتَابَ أَهْلِ الْمَنْزِلِ إِنْ
 مُوسَى نَظَرَ فِي التُّورَاةِ فَقَالَ يَا رَبِّ إِنِّي أَجَدُ أَهْمَةَ هُنْ الْمَادُونَ رَعَاةَ الشَّسْسِ الْمَكْدُونَ أَذْارَادُ الْأَرْقَالِ الْأَقْصَلَهُ
 إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَاجْعَلْهُمْ إِنِّي قَالَ هُمْ أَهْمَةَ أَهْدِي دَقَالَ الْجَبَرِنُمْ هُنْ قَالَ كَعْبَ أَشَدُكَ بِاهْلِ تَمْبَدِي كِتَابَ أَهْلِ الْمَنْزِلِ إِنْ مُوسَى
 نَظَرَ فِي التُّورَاةِ فَقَالَ يَا رَبِّ إِنِّي أَجَدُ أَهْمَةَ أَذَا شَرَفَ أَهْدِي دَمْ عَلَى شَرْفِ كَبَرَاهُ وَإِذَا بَطَرَ وَادِيْهِ دَمْهُ هُنْ الْمَبْدِلُونَ
 طَبُورُ الْأَرْضِ لَمْ مَسْبِدِ حِثْ مَا كَانُوا يَطْهُرُونَ مِنِ الْجَنَابَةِ طَبُورُمْ بِالْمَبْدِلِ كَطْبُورُمْ بِالْمَهِ حِثْ لَامِدُونَ
 الْمَاءِ غَرِّ مَجْلُونَ مِنْ أَتَارَ الْوَضُوءِ فَاجْعَلْهُمْ إِنِّي قَالَ هُمْ أَهْمَةَ أَهْدِي دَقَالَ الْجَبَرِنُمْ هُنْ قَالَ كَعْبَ أَشَدُكَ بِاهْلِ تَمْبَدِي هُنْ تَمْبَدِي
 كِتَابَ أَهْلِ الْمَنْزِلِ إِنْ مُوسَى نَظَرَ فِي التُّورَاةِ فَقَالَ يَا رَبِّ إِنِّي أَجَدُ أَهْمَةَ مِنْ حَوْمَةِ خَمْفَاهُ يُرْثُونَ الْكِتَابَ وَاصْطَفَيْتُمْ
 فَهُمْ ظَالِمُونَ وَمِنْهُمْ مَقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْمُبَاهِرَاتِ وَلَا يَجِدُ أَهْدِي أَهْمَهُمْ حُوْمَ الْأَرْمَنِ حُوْمَ الْأَرْمَنِ إِنِّي قَالَ هُمْ أَهْمَةَ
 أَهْدِي دَقَالَ الْجَبَرِنُمْ هُنْ قَالَ كَعْبَ أَشَدُكَ بِاهْلِ تَمْبَدِي كِتَابَ أَهْلِ الْمَنْزِلِ إِنْ مُوسَى نَظَرَ فِي التُّورَاةِ فَقَالَ يَا رَبِّ إِنِّي
 أَجَدُ فِي التُّورَاةِ أَهْمَةً مَصَاحِفَهُمْ فِي صَدْوَرِمْ بِلَبْسُونِ الرَّانِ ثَيَابَ أَهْلِ الْمَنْزِلِ يَصْفُونَ فِي صَلَاتِهِمْ كَصْفُوفَ الْمَلَائِكَةِ
 أَصْوَاتِهِمْ فِي مَسَاجِدِهِمْ كَدُوْيِ الْغَلُولِ لَا يَدِي خَلَ النَّارِ مِنْهُمْ أَهْدِي الْأَمْنِ بِرَئِيْ منَ الْمَحْسَنَاتِ مُثْلِ مَبَرِّيِ الْمَجْرَمِ
 وَرَقِ الشَّجَرِ فَاجْعَلْهُمْ إِنِّي قَالَ هُمْ أَهْمَةَ أَهْدِي دَقَالَ الْجَبَرِنُمْ هُنْ قَالَ كَعْبَ مُوسَى مِنَ الْخَيْرِ الَّذِي أَعْطَاهُ اللَّهُ مُحَمَّدُ وَأَهْمَهُ
 قَالَ بِالْيَتِيْ مِنْ أَهْمَةَ أَهْدِي دَوْحَى أَهْلِ إِلَيْهِ ثَلَاثَ آيَاتِ يَرْضِيَهُ بَنْ يَا مُوسَى أَنِّي أَصْطَفْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرَسَالَتِيْ
 وَبِكَلَامِي الْآيَةِ فَرَضَيْ مُوسَى كُلَّ الرَّضاِهِ

وَأَخْرَجَ أَبُونِيمَ عنْ سَعِيدَ بْنِ أَبِي هَلَالٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو قَالَ لِكَعْبَ الْأَحْجَارِ أَخْبَرَهُ عَنْ صَفَةِ مُحَمَّدِ مُلِّيْ أَهْلَهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ وَأَهْمَهُ قَالَ أَجَدُ هُمْ فِي كِتَابِ أَهْلِهِ أَهْدِي دَقَالَ مَحْمُودُونَ يَعْمَدُونَ أَهْلَهُ عَلَى كُلِّ خَيْرٍ وَشَرِّيْكَبِرُونَ الْمُهْلِلُ
 كُلِّ شَرْفٍ وَيَسْجُونُ أَهْلَهُ فِي كُلِّ مَنْزِلٍ نَدَأْوُمَ فِي جَوِ السَّاهِلِمَ دَوِيْ فِي صَلَاتِهِمْ كَدُوْيِ الْغَلُولِ عَلَى الصَّغِيرِ يَصْفُونَ
 فِي الصَّلَاةِ كَصْفُوفَ الْمَلَائِكَةِ وَيَصْفُونَ فِي الْقَتَالِ كَصْفُوفَهُمْ فِي الصَّلَاةِ إِذَا غَزَوُا فِي سَيْلِ أَهْلِهِ كَاتِلِ الْمَلَائِكَةِ
 أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْقِهِمْ بِرَمَاحِ شَدَادِ أَذْاحَضَرِ الْأَصْفَافِ فِي سَيْلِ أَهْلِهِ كَانَ أَهْلُهُ عَلِيْمٌ مَظَالِمُهُ اشْارِيْدَهُ كَانَ قَاتِلُ السُّورِ
 عَلَى كُورَهَا لَيَأْتِيَ خَرْوَنَ زَحْفًا بَدِ احْتِيَ يَحْضُرُهُ جَبَرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ

وَأَخْرَجَ أَبُونِيمَ فِي (الْحَلْبَةِ) عَنْ أَنَسٍ قَالَ رَسُولُ أَهْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْحَى أَهْلُهُ أَهْمَهُ مُوسَى بْنِ بَنِي إِسْرَائِيلَ
 أَهْلَهُ مِنْ لَقَبِيْ وَهُوَ جَاجِدُ بِاهْدِي دَقَالَ خَلَتِ النَّارِ قَالَ يَا رَبِّ وَمِنْ أَهْدِي دَقَالَ مَا خَلَقْتَ خَلْقًا كَرْمَلِيْ مِنْهُ كَتَبْتَ أَسْهَهُ
 مَعَ أَسْهِي فِي الْمَرْسَ قَبْلَ أَنْ اخْلُقَ السَّوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنَّ الْجَنَّةَ حَمْرَةَ عَلَى جَمِيعِ خَلْقِهِ حَتَّى يَدْلِهُو وَأَهْمَهُ قَالَ
 وَمِنْ أَهْمَهُ قَالَ الْمَادُونَ بِهِمْدِلُونَ صَعُودُهُ وَهُبُطَوْلَعِيْلُ كُلَّ حَالٍ يَشَدُّونَ أَوْ سَاطِهِمْ وَبَطَرُونَ وَنَاطِرَاهِمْ حَائِمُونَ
 بِالنَّهَارِ رَهَانَ بِاللَّيلِ أَقْبَلَ مِنْهُمْ إِسْرَيْرَادِ خَلِمَ الْجَنَّةَ بِشَهَادَةِ أَنَّ لَهُ أَهْلَهُ قَالَ كَاعْنَمَنِيْلِيْنِيْ بِنِي تَلَكَ الْأَمَةَ قَالَ نَبِيَّهَا
 قَالَ اجْعَلْنِي مِنْ أَهْمَهَ ذَلِكَ الْبَيْ قَالَ اسْتَنْدَمْتَ وَاسْتَأْخَرَ وَلَكِنْ سَاجِمَيْنِكَ وَيَنِهِ فِي دَارِ الْمَبَالَلِ •

وَأَخْرَجَ

و اخرج ابو نعيم في (الحلية) عن انس قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم او سعی الله الی موسي بني اسرائیل انه من لقني وهو ماجحد باحد ادخلته النار قال يارب ومن احمد قال ما خلقت خلقاً كرم على منه كنثت اسمه مع اسمي في العرش قبل ان اخلق السموات والارض ان الجنة محمرة على جميع خلقى حتى يدخلها هو وامثله قال ومن امته قال الحمد ون بحملون صعود او هبوطا على كل حال يشد ون او ساطهم وبطبر ون اطر انهم ملائكون بالنهار رهبان بالليل اقبل منهم اليسرا واد خلیم الجنة بشہادۃ ان لا اله الا الله قال اجعلنى نبی تلك الامة قال نبیا منها قال اجعلنى من امة ذلك النبی قال استند مت واستأنف ولكن ساجد منك وپیشہ تھی دار الملال ۰

(الخصائص الكبیری جلد 1، صفحہ 12)

ابو نعیم نے ”حلیہ“ میں حضرت انسؓ سے روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ و سلم نے فرمایا بنی اسرائیل کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دھی فرمائی کہ جو شخص مجھ سے اس حال میں ملے کہ وہ احمد مجتبی کا مکر ہے تو میں اُسے جہنم میں داخل کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے رب! احمد کون ہیں؟ فرمایا۔ ”میں نے کسی مخلوق کو ان سے بڑھ کر کرم نہیں بنایا۔ اور میں نے ان کا نام تخلیق آسمان و زمین سے پہلے عرش پر لکھا۔ بلاشبہ میری تمام مخلوق پر جنت حرام ہے جب تک وہ ان کی امت میں داخل نہ ہو۔“ موسیٰ نے کہا ان کی امت کیسی ہے؟ فرمایا وہ بہت زیادہ حمد کرنے والی امت ہے جو چڑھتے اور اترتے ہر حال میں خدا کی حمد کرنے والی ہے۔ وہ اپنی کریں باندھیں گے اور اعضاء کو پاک کریں گے۔ وہ دن میں روزہ دار اور شب میں ذکر و اذکار اور عبادت گزار ہوں گے ان کے قلیل عمل کو قبول کروں گا اور لا اله الا اللہ کی شہادت پر ان کو جنت میں داخل کروں گا عرض کیا اس امت کا نبی مجھے بنادے؟ فرمایا اس امت کا نبی انہیں میں سے ہو گا۔ عرض کیا مجھے اُس نبی کا امتی بنادے؟ فرمایا تمہارا زمانہ پہلے ہے اور ان کا زمانہ آخر میں، لیکن بہت جلد میں تم کو اور ان کو بہت اجلیل میں یک جا کر دوں گا۔

Abu Naeem quoting in Hulya has narrated from Hazrat Anas, Allah be pleased with him, that the Holy Prophet, peace and blessings of Allah be upon him, has said:- Allah the exalted revealed to Moses, peace be upon him, the Prophet of Israelites, that any person who meets me while denying Ahmad Mujtaba, I shall cast him into Hell. Moses, peace be upon him, enquired, who is Ahmad? Allah said, I have not made any of the creation more honoured than him, and I did write his name on the Throne before the creation of the heaven and earth. No doubt, the entire creation has been barred from Paradise, until it enters in his Ummah. Moses enquired what kind of Ummah he has. Allah said, that Ummah is praising extensively who is eulogizing God in each state of affairs whether progressing or retrogressing. They will grid up their loins and purify their organs. They would keep fasts during day

and shall spend night in remembering God and worshipping Him. I shall accept the least of their action, and shall made them enter Paradise on their bearing witness of 'There is no God but Allah'. Moses begged Allah to make him a Prophet of this Ummah. Allah said, the Prophet of this Ummah would be from among themselves. Moses requested to make him a follower of that Prophet. Allah said, your period is of the past and their age is of the last. However, I shall gather you together with them soon in Baitul Jaleel.

(Al Khasais ul Kubra vol 1 page 12)

In "Hulya" zitiert Abu Naim eine Überlieferung von Hadhrat Anas^{ra}, wonach der Heilige Prophet^{saw} sagte: "Dem Propheten der Juden, Moses^{as} offenbarte Gott, Der Erhabene: 'Wenn Mich jemand in dem Zustand trifft, in dem er den Erwählten Ahmad leugnet, so werde Ich ihn in die Hölle führen.' Moses fragte darauf: 'O Gott, wer ist dieser Ahmad?' Gott sagte: 'Keinem Wesen meiner Schöpfung gebührt mehr Ehre als ihm und sein Name wurde vor der Erschaffung von Himmel und Erde auf den Thron geschrieben. Keiner unter Meiner Schöpfung wird in das Paradies eingehen, solange er nicht zu seiner Gefolgschaft (Umma) gehört. ' Moses fragte: 'Wie ist seine Gefolgschaft? ' Er (Gott) sagte: 'Diese Umma lobpreist Gott in besonderem Maße; sie lobpreisen ihn immer, ob im Zustand des Aufstiegs oder im Zustand des Niedergangs. Sie werden zum Aufbruch bereit sein und ihre Körperteile reinigen. Am Tage werden sie fasten und die Nächte werden sie in Lobpreisung und Anbetung Gottes verbringen. Ich werde jede Tat von ihnen annehmen, mag sie auch noch so klein sein. Und ob ihrer Bezeugung, La ilaha ilallah (niemand ist anbetungswürdig außer Allah), werde ich sie ins Paradies einführen.' Moses bat Gott: 'Mache mich zu einem Propheten dieser Umma!' Gott sagte darauf: 'Ihr Prophet wird aus dieser Umma selbst sein.' Darauf flehte Moses zu Gott: 'Mache mich zu einem der Gefolgsleute dieser Umma.' Gott sagte: 'Deine Zeit liegt vor ihrer Zeit, aber bald werde ich dich mit ihnen im Bait-ul-Jalil (Ein besonderer Platz im Himmel).'"

(Al Khasais ul Kubra Bd 1 Seite 12)

الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير

تألیف

الإمام الحافظ خادم السنة وقائم البدعة
جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي
اللتوف سنة ٩١١ هجرية

وبالما ماش :

كنوز الحقائق في حديث خير الخلق
للإمام عبد الرؤوف المناوي

الجامع الأول

الثاني (فر). أبغض الحلال إلى الله العلائق (د). أبغض الخلق إلى الله من آمن ثم كفر (عام). أبغض العياد إلى الله من يهتم بيته المؤمن وبدع (٦) حنته (فر). آخرأ بعاء في الشهريوم نفس مستمر (قط). آخرسورة تزلت

ابنوا المساجد وأخرجوا القمامات منها فلن بنى الله يبتلى الله يبتلى الجننة وإخراج القمامات منها مهوراً بالمورعين (طب) والسياه في المختارة عن أبي قرصفة (ص) * ابن القديح عن فيك ثم تنفس. سوبيه في فوائده (هب) عن أبي سعيد * ابن آدم أطهر ربك تسمى عاقلاً ولا تنصه قسمى جاهلاً (حل) عن أبي هريرة وأبي سعيد (ض) * ابن آدم عندك ما يكتفيك وأنت تطلب ما يطلبك ، ابن آدم لا يقليل تفع ولا يكتير تشبع ، ابن آدم إذا أصبحت معاف في جسدك آمنا في سركك عندك قوت يومك فعلى الدنيا العطا (عده) عن ابن عمر (ص) * ابن أخت القوم منهم (جم ق ت) عن أنس (د) عن أبي موسى (طب) عن جبیر بن مطعم وعن ابن عباس وعن أبي مالك الأشعري (ص) * ابن السبیل أول شارب يعني من زمزم (طص) عن أبي هريرة (ح) * أبو بكر وعمر سیداً كهول أهل الجننة من الأولين والآخرين إلا النبيين والرسلين (جم ت) عن علي (ه) عن أبي جعیفة (ع) والضیاء في المختارة عن أنس (طص) عن جابر وعن أبي سعيد * أبو بكر وعمر مني بعنزة السمع والبصر من الرؤس (ع) عن المطلب بن عبد الله ابن حنبل عن أبيه عن جده قال ابن عبد البر وما له غيره (حل) عن ابن عباس (خط) عن جابر * أبو بكر خير الناس إلا أن يكون نبي (طب عد) عن سلمة بن الأكوع * أبو بكر صاحب ويتؤسى في الفارسدةوا كل خوخة في المسجد غير خوخة أبي بكر (عم) عن ابن عباس * أبو بكر مني وأنا منه وأبو بكر أخني في الدنيا والآخرة (فر) عن عائشة (ض) * أبو بكر في الجننة وعمر في الجننة وعثمان في الجننة وعلى في الجننة وطلحة في الجننة وبعد الرحمن بن عوف في الجننة وسعد بن أبي وقاص في الجننة وسعيد بن زيد في الجننة وأبو عبيدة ابن الجراح في الجننة (جم) والضیاء عن سیدین زید (ت) عن عبد الرحمن بن عوف (ص) * أبو سفیان ابن الحوش سید قیان أهل الجننة . ابن سعد (ك) عن عروة مرسلا * أناكم أهل العین ماضف قلوا وأرقوا أثنتها الفقة عیان والحكمة عیانیة (ق) عن أبي هريرة (ص) * أناقی جبریل بالجی وطالعون فاماکت الجی بالمدینة وأرسلت الطالعون إلى الشام فطالعون شهادة لأمّق ورحمة لسم ورجس على الكافرین (جم) وابن سعد على أبي عسیب (ص) * أناقی جبریل فقال بشر أنتك أنه من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجننة قلت يا جبریل وإن سرق وإن زنى قال نم قلت وإن زنى قال نم وإن سرق وإن زنى قال نم وإن شرب المحرر (جم ت) عن أبي ذر (ص) * أناقی جبریل فبشرني أنه من مات من أنتك لا يشرك بالله شيئاً دخل الجننة قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق (ق) عن أبي ذر * أناقی جبریل فقال يا عاصد كن عجاجاً ثجاجاً (جم) والضیاء عن السائب بن خالد * أناقی جبریل فقال يا عاصد كن عجاجاً بالتلیة ثجاجاً بتحربالبدن . القاضی عبد الجبار في أمالیه عن ابن عمر * أناقی جبریل فأمرني أن آمر أصحابي ومن معه أن يرفعوا أصواتهم بالتلیة (جم) وحب لك هنف) عن السائب ابن خالد (ص) * أناقی جبریل فقال لي إن الله يأمرك أن تأمر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلیة فانها من شعائر المحج (جم هـ ك) عن زید بن خالد (ص) * أناقی جبریل فقال ان ربى وربك يقول لك تدري كيف رضت ذكرك قدت الله أعلم قال لا أذكر إلا ذكرت مى (ع ح) والضیاء في المختارة عن أبي سعيد (ص) * أناقی جبریل في خضر تلقى به المرء (قط) في الانزداد إلى الله العلائق (د) . أبغض الحلال إلى الله من ضئ على عياله (فر) أبغض الحلال إلى الله الآباء عن الحصم (ق) أبغض إله عبده هذه الله في الأرض المورى (ط) . ابکوا ظاہن لم تکوا قبا کوا (ض) . ابن أخت القوم منهم (د)

* أبو بکر خیر الناس إلا أن يكون نبی *

(الجامع الصغير ، زیر عنوان حرف الهمزة ، جلد 1، صفحہ 6)

آنحضرت ﷺ فرماتے ہیں :ابو بکرؓ اس امت کا بہترین انسان ہے سوائے اس کے کہ بعد میں کوئی نبی پیدا ہو جائے۔

The Holy Prophet, peace and blessings of Allah be upon him, says:- "Abu Bakr is the best of people except that there be a prophet after me."

(AlJami ul Saghir vol 1 page 6)

Der Heilige Prophet^{saw} sagte: "Abu Bakr ist der Beste (in der Umma), es sei denn, es erscheint ein Prophet."

(AlJami ul Saghir Bd 1 Seite 6)

لَبَّيْقَ أَدْكَرَ إِنَّمَا يُعَذِّبُكُمْ رُسُلٌ مُّنْكَرٌ يَقُصُّونَ عَنْكُمْ أَيْنِيۤ فَمِنْ أَتَقْرَبَ
وَأَضْلَلَهُ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ بِخَرْبَوْتٍ ⑦ (الاعراف:36)

اے آدم کے بیٹو! اگر تمہارے پاس تم میں سے رسول بننا کر سمجھ جائیں اس طرح کہ وہ تمہارے سامنے میری آیات پڑھ کر سناتے ہوں تو جو لوگ تقویٰ اختیار کریں اور اصلاح کریں ان کو (آئندہ کے لئے) کسی قسم کا خوف نہ ہو گا اور نہ وہ (ماضی کی کسی بات پر) غمگین ہوں گے۔

Sura 7:36 O children of Adam ! if Messengers come to you from among yourselves, rehearsing My Signs unto you, then whoso shall fear God and do good deeds, on them shall come no fear nor shall they grieve.

Sura 7:36 O Kinder Adams, wenn zu euch Gesandte kommen aus eurer Mitte, die euch Meine Zeichen verkünden - wer dann gottesfürchtig ist und gute Werke tut, keine Furcht soll über sie kommen, noch sollen sie trauern.

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيقَاتَ النَّبِيِّنَ لَمَّا آتَيْنَكُمْ مِّنْ كِتَابٍ وَّحِكْمَةً ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَحَكُمْ لَوْمَنْ بِهِ وَلَتَسْتَرِنَّهُ
قَالَ أَفَرَرْتُمْ وَأَخْدُنَّمُ عَلَى ذِلِّكُمْ إِصْرِيۤ قَالُوا أَفْرَرْنَاۤ قَالَ فَأَشْهُدُواۤ وَأَنَا مَحَكُمٌ مِّنَ الشُّهِيدِينَ ⑤ (آل عمران:82)

اور (اس وقت کو بھی یاد کرو) جب اللہ نے (اہل کتاب سے) سب نبیوں والا پختہ عہد لیا تھا کہ جو بھی کتاب اور حکمت میں تمہیں دوں پھر تمہارے پاس کوئی (ایسا) رسول آئے جو اس کلام کو پورا کرنے والا ہو جو تمہارے پاس ہے تو تم ضرور ہی اس پر ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا (اور) فرمایا تھا کہ کیا تم اقرار کرتے ہو اور اس پر میری (طرف سے) ذمہ داری قبول کرتے ہو؟ (اور) انہوں نے کہا تھا انہم اقرار کرتے ہیں، فرمایا اب تم گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے (ایک گواہ) ہوں۔

Sura 3:82 And remember the time when Allah took a covenant from the people through the Prophets, saying: "Whatever I give you of the Book and Wisdom and then there comes to you a Messenger, fulfilling that which is with you, you shall believe in him and help him." And He said: " Do you agree, and do you accept the responsibility which I lay upon you in this matter?" They said, "We agree;" He said, "Then bear witness, and I am with you among the witnesses."

Sura 3:82 Und (gedenkst der Zeit) da Allah (mit dem Volk der Schrift) den Bund der Propheten abschloß (und sprach): "Was immer Ich euch gebe von dem Buch und der Weisheit - kommt dann ein Gesandter zu euch, erfüllend, was bei euch ist, so sollt ihr unbedingt an ihn glauben und ihm unbedingt helfen." Er sprach: "Seid ihr

einverstanden und nehmet ihr diese Verantwortung Mir gegenüber an?" Sie sprachen: "Wir sind einverstanden." Er sprach: "So bezeugt es, und Ich bin mit euch unter den Zeugen."

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ الْأَئِمَّةِ مِنْهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمٍ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِنْهُمْ مِنْهُمْ فَغَيِّظًا
الاحزاب: (8)

اور (یاد کرو) جب کہ ہم نے نبیوں سے ان پر عائد کردہ ایک خاص بات کا وعدہ لیا تھا اور تجھ سے بھی (وعدہ لیا تھا) اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے بھی اور ہم نے ان سب سے ایک پختہ عہد لیا تھا۔

Sura 33:8 And remember when We took from the Prophets their covenant, and from thee, and from Noah, and Abraham, and Moses, and Jesus, son of Mary, and We indeed took from them a solemn covenant;

Sura 33:8 Und (gedenke der Zeit) da Wir mit den Propheten den Bund eingingen, und mit dir, und mit Noah und Abraham und Moses und mit Jesus, dem Sohn der Maria. Wir gingen mit ihnen einen feierlichen Bund ein;

مصنفین کتب کا سوانحی خاکہ

1 - علامہ طبری

علامہ ابو جعفر محمد بن جریر بن یزید الطبری (224 - 310ھ) کا آبائی وطن طبرستان تھا۔ بارہ سال کی عمر میں طلب علم کے شوق سے گھر سے نکلے اور مختلف دیار، مصر، شام، عراق میں اپنے شوق کی پیاس بجھاتے رہے اور بالآخر بغداد کے ہو کر رہ گئے۔ آپ ایک بلند پایہ تاریخ دان، حدیث و مفسر، فقیہ اور مجتهد تھے۔ آپ کی تصانیف میں جامعہ البیان فی تفسیر القرآن، تاریخ الامم الملوک، کتاب القراءت، کتاب العدد والتنزیل، احکام شرائیع الاسلام اور التبصر فی اصول الدین، اہل علم و فن میں سندمانی جاتی ہیں۔

2 - حضرت امام احمد بن حنبل[ؓ]

حضرت امام احمد بن محمد بن حنبل بن ہلال بن اسد بن ادريس بن عبد اللہ بن حیان بن عبد اللہ بن انس البغدادی ابو عبد اللہ 780ء میں پیدا ہوئے اور 855ء میں آپ نے وفات پائی۔ آپ کا آبائی وطن بغداد تھا۔ وہیں آپ نے ابتدائی تعلیم حاصل کی اور بزرگوں سے حدیث سنی۔ پھر کوفہ، بصرہ، مکہ مدینہ، یمن، شام اور جزیرہ کاسفرا اختیار کیا۔ آپ حدیث اور فقہ میں بڑا مقام رکھتے تھے اور حنبلی مسک کے امام تھے۔ آپ کی مشہور تصانیف المسند احمد بن حنبل، کتاب الزهد، المعرفة والتعلیل والجرح والتعديل ہیں۔

3 - امام محمد بن علی ترمذی[ؓ]

امام محمد بن علی بن بشیر الحکیم ابو عبد اللہ تیرمذی صدی ہجری کے آغاز میں پیدا ہوئے۔ اپنے آبائی وطن ترمذ کی مناسبت سے آپ کو ترمذی کہا گیا ہے۔ حدیث کے لئے آپ نے عراق خراسان کا سفر کیا۔ پھر نیشاپور گئے۔ آپ حافظ، صوفی اور حدیث تھے۔ فقیہ ترتیب پر مشتمل جامع ترمذی جو صحابت میں شامل ہے، کے علاوہ آپ کی مشہور تصانیف ریاضۃ النفس، نوادر الاصول فی معرفۃ الاخبار لرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، علل العبودیۃ، کتاب ختم الأولیاء ہیں۔

4 - امام ابو داؤد سجستانی

آپ کا نام سلیمان ہے۔ ابو داؤد آپ کی کُنیت ہے اور نسب نامہ سلیمان بن اشعث بن اسحاق بن بشیر بن شداد بن عمرو بن عمران الازری سجستانی ہے۔ آپ 202ھ میں پیدا ہوئے اور 16 شوال 275ھ کو بصرہ میں فوت ہوئے اور وہیں دفن ہیں۔ آپ کا آبائی وطن سجستان ہے۔ حدیث کے لئے بغداد، نیشاپور اور اصفہان کا سفر اختیار کیا۔ حدیث میں مقتدیٰ مانے گئے۔ فقہ و اجتہاد میں ایک امتیازی حیثیت حاصل ہے۔ بعض علماء نے آپ کو فقہ و اجتہاد میں امام بخاری کے بعد دوسرا درجہ دیا ہے۔ آپ کے شیوخ کی تعداد تین صد کے قریب ہے۔ آپ کی مشہور تصانیف سنن ابی داؤد جو صحاح ستہ میں بھی شامل ہے، کے علاوہ کتاب الناسخ والمنسوخ، کتاب المسائل، مسنند مالک، کتاب المصایح والمصاحف، کتاب التفسیر زیادہ مشہور ہیں تاہم آپ کی تصانیف کی مجموعی تعداد تقریباً 22 ہے۔

5 - امام مسلم بن الحجاج

علامہ ابو الحسین بن مسلم القشیری بن دروین 206ھ میں پیدا ہوئے اور 24 ربیع 261ھ کو وفات پائی۔ خراسان کا مشہور شہر نیشاپور آپ کا وطن تھا۔ ابتدائی تعلیم نیشاپور میں حاصل کی۔ تحصیل علم کے لئے جاز، شام، مصر، یمن، بغداد کا سفر اختیار کیا۔ محمد بن شین کرام سے احادیث کو حاصل کیا۔ امام مسلم نے جمع حدیث کے ضمن میں جس سخت کا اہتمام کیا، اس کے سبب امام مسلم کو علم حدیث میں امام مانا جاتا ہے۔ آپ کی تصانیف صحیح مسلم شریف کے علاوہ کتاب مسنند کبیر، کتاب الاسماء والکنى، کتاب العلل، کتاب اوہماں المحدثین اور کتاب الطبقات وغیرہ ہیں۔

6 - امام ابن ماجہ

علامہ ابو عبد اللہ محمد بن یزید بن عبد اللہ ابن ماجہ الریبعی قزوینی۔ 824ء میں ایران کے صوبہ آذربایجان کے مشہور شہر قزوین میں پیدا ہوئے اور 886ء میں آپ نے وفات پائی۔ حدیث نبوی کے لئے آپ خراسان، عراق، جاز، مصر و شام کے لئے سفر کیا۔ اس کے علاوہ کوفہ، بغداد، ہمدان، نیشاپور وغیرہ بھی گئے۔ آپ کے اساتذہ اور مشايخ کی تعداد 300 سے زائد تھی۔ امام ابن ماجہ کی امامت، جلالت شان کے انکے تک مترقب تھے۔ علامہ ذہبی، حافظ ابن کثیر اور حافظ ابن حجرؓ نے آپ کی بہت تعریف کی ہے۔ آپ نے تفسیر، حدیث اور تاریخ پر متعدد کتب تصنیف فرمائیں، جن میں سے التفسیر، سنن ابن ماجہ اور التاریخ زیادہ مشہور تصانیف وغیرہ ہیں۔

7 - علامہ محمد بن سعد البصريؒ

آپ کا نام محمد بن سعد بن میون البصري الدھری الکتبی بابی عبد اللہ ہے۔ آپ 168ھ میں بصرہ میں پیدا ہوئے اور 230ھ میں بغداد میں وفات پائی۔ دینی تعلیم کی خاطر آپ نے بغداد، مدینۃ المنورہ اور کوفہ کی طرف بھی سفر کیے۔ اس دوران بڑے بڑے شیوخ سے علم حاصل کیا۔ آپ اپنے زمانے کے حدیث کے بڑے بڑے عالموں میں سے تھے۔ آپ محدث اور حافظ تھے۔ آپ کی مشہور کتاب الطبقات الکبیر ہے۔

8 - علامہ ابو الحسن علی بن عمرؓ

علامہ ابو الحسن علی بن عمر بن احمد بن مہدی بن مسعود بن نعمان بن دینار عبد اللہ 306ھ میں پیدا ہوئے اور 385ھ میں آپ نے وفات پائی۔ آپ کا آبائی وطن بغداد تھا اور محلہ قطن میں پیدا ہوئے۔ زمانے کے مشاہیر محدثین سے حدیث کا علم حاصل کیا۔ اس سلسلہ میں بصرہ، کوفہ، شام اور مصر پنچے ادبیات، قرأت وغیرہ کی تعلیم حاصل کی۔ آپ کو امیر المؤمنین فی الحدیث کا لقب بھی دیا گیا۔ آپ کی مشہور تصانیف کتاب السنن الدّارقطنی، کتاب علل الحدیث ، الالزامات علی الصحیحین، الاستدراکات والتتبیع اور کتاب الأربعین ہیں۔

9 - امام الراغب الاصفہانی

علامہ ابوالقاسم الحسین بن محمد بن المفضل المعروف بن امام الراغب الاصفہانی پانچویں صدی ہجری کے مشہور عالم اہل لغت ہیں۔ بعض لوگ انہیں مفترض کرتے ہیں جبکہ امام رازی نے انہیں اہل سنداور صحیح العقیدہ قرار دیا ہے۔ آپ ایک مستند اہل زبان، ادیب اور مفسر تھے۔ آپ کی تصنیف لطیف مفردات لالفاظ القرآن شہرہ آفاق ہے۔ علاوه ازیں آپ نے لغت و ادب کے حوالہ سے بعض اور ثقہ کتب بھی تصنیف فرمائی ہیں۔

10 - علامہ ابوالقاسم محمود بن عمر

مشہور ایرانی الاصل عالم ابوالقاسم محمود بن عمر 467ھ میں اپنے آبائی وطن خوارزم میں پیدا ہوئے اور 538ھ میں وفات پاگئے۔ لڑکپن میں ہی طلب علم کے شوق میں گھر سے نکل کھڑے ہوئے۔ علم کلام میں آپ نے معزلہ خیالات کی پیروی کی۔ اور مندرجہ ذیل خنیم کتب تصنیف کیں۔ مختصر الموافقة بین اہل الیت والصحابہ، خصائص العشرة الکرام البررة۔

11 - علامہ ابو الحسن علی ابن احمد الواحدی نیشاپوری

شیخ الاسلام ابو الحسن علی ابن احمد الواحدی نیشاپوری الشافعی۔ آپ نے نیشاپور میں 468ھ میں وفات پائی۔ آپ نے مدینہ اور کوفہ میں تعلیم حاصل کی۔ واحدی شعبی جو کہ صاحب التفسیر ہیں ان کے شاگرد ہیں۔ ان سے تفسیر کا علم حاصل کیا۔ آپ مفسر، خوارولغت کے ماہر تھے۔ آپ کی مشہور تصانیف اسباب النزول، التعبیر فی شرح اسماء اللہ تعالیٰ الحسنی، شرح دیوان ابی الطیب المتبنی ہیں۔

12 - علامہ فخر الدین رازیؒ

علامہ فخر الدین الرازی ابو عبد اللہ محمد بن عمر بن حسین القرشی الطبری تاریخ 543ھ میں ایران کے مشہور شہر ”رے“ میں پیدا ہوئے اور 606ھجری میں عید کے دن آپ نے وفات پائی۔ ابتدائی تعلیم اپنے والد ضیاء الدین ابو القاسم سے جو علم الکلام کے ماہر تھے، سے حاصل کی۔ شرق، ہندوستان اور دیگر مقامات میں پناہ گزیں ہو گئے۔ اسلام کے مشہور ترین علماء دین، مفسرین قرآن میں ایک بلند پایہ مفسر، نادر الوجود عالم تھے۔ عالموں کے لئے سرچشمہ تھے۔ آپ کی مشہور تصانیف التفسیر الكبير، تفسیر الفاتحہ، التفسیر الصغیر، نهاية العقول، المعالم فی اصول الفقیہ، الاربعین فی اصول الدین وغیرہ ہیں۔ آپ کی تصانیف کی تعداد قریباً 68 ہے۔

13 - علامہ علی بن محمد

علامہ علی بن محمد بن عبد الکریم بن عبد الواحد المعروف بابن الاشیر الجزری 1160ء میں پیدا ہوئے اور 1233ء میں آپ نے وفات پائی آپ کی کنیت ابو الحسن ہے۔ ابن خلکان نے آپ کے حالات میں لکھا ہے کہ آپ تحصیل علم کے لئے بغداد گئے وہاں سماعت کی پھر شام اور القدس سے ہوتے ہوئے موصل پہنچ گئے جہاں آپ نے علم حدیث میں مہارت حاصل کی۔ آپ مؤرخ، محدث حافظ اور ادیب تھے۔ آپ کی مشہور تصانیف اسد الغابة فی معرفة الصحابة، الکامل فی التاریخ ، الجامع الکبیر فی علم البیان اور کتاب المجاد شامل ہیں۔

14 - علامہ محی الدین ابن عربی

حضرت محمد بن علی بن محمد بن احمد بن عبد اللہ الطائی الماتمی المعروف بـ الشیخ الـاکبر ابن عربی محی الدین 560ھ / 1165ء میں بمقام آندلس پیدا ہوئے۔ اور 638ھ / 1240ء میں وفات پائی۔ 30 سال حصول علم میں سرگردان رہے۔ اشبيلیہ منتقل ہونے

کے بعد آپ نے مصر، ججاز، بغداد اور بلاد روم کا سفر اختیار کیا۔ لوگ آپ کو کامل ولی، قطب زمان اور علم باطنی میں سند رکھنے والے مانتے ہیں۔ فتوحات مکہ میں مختلف مذاہب اور ملک پر بحث کی گئی ہے۔ فصوص الحکم تصوف اور فاسقے کے مسائل اور الہامات پر ایک مستند کتاب ہے۔ آپ کی ڈیڑھ سو سے زیادہ تصنیفیں ہیں۔

15 - علامہ محمد بن یوسف الاندلسی

علامہ محمد بن یوسف بن علی بن یوسف بن حیان الغرناطی البیانی۔ الاندلسی 1256ء میں غرناطہ میں پیدا ہوئے اور 1344ء میں وفات پائی۔ آپ نے قرأت، عربی، حدیث اور تفاسیر کے متعلق تعلیم اپنے زمانہ کے بلند پایہ علماء سے پائی تھی۔ ان کے متعلق ذکر ملتا ہے کہ 450 شیوخ سے انہوں نے حدیث کا علم سیکھا۔ آپ بلند پایہ ادیب، مفسر، حدیث اور مؤرخ تھے۔ علم نحو اور لغت میں بھی آپ کو کمال حاصل تھا۔ آپ کی مشہور تصنیف البحرمحيط فی تفسیر القرآن، الاعلام بارکات اسلام، الفوائد و تکمیل المقاصد فی النحو و غیرہ ہیں۔

16 - علامہ احمد بن عبد الحکیم

آپ کا نام احمد بن عبد الحکیم بن عبد السلام بن عبد اللہ بن الحضر بن محمد بن الحضر بن علی بن عبد اللہ بن تیمیہ الحرانی ثم الدمشقی الحنفی شیخ الاسلام تقی الدین ابوالعباس تھا اور ابن تیمیہ کے لقب سے مشہور تھے۔ آپ 661 ہجری میں حران کے مقام پر پیدا ہوئے اپنے گھروں کے ساتھ دمشق کی طرف سفر کیا۔ آپ نے 728 ہجری میں وفات پائی۔ آپ نے دمشق اور مصر میں تعلیم حاصل کی۔ قاہرہ کے قلعہ میں قید کئے گئے۔ اسی طرح اسکندریہ اور دمشق میں بھی دو دفعہ قید کئے گئے۔ آپ حدیث، حافظ، مفسر، فقیہ مجتہد مانے جاتے ہیں۔ آپ کی چند مشہور تصنیفیں میں سے مجموعہ فتاویٰ، السیاست الشرعیہ فی اصلاح الراعی والرعیہ، بیان الجواب الصحیح عن بدل دین المسیح، منهاج السنۃ النبویہ، الرسالۃ العرشیہ وغیرہ ہیں۔

17 - علامہ علاء الدین علی المستقی الہندي

علامہ علاء الدین علی المستقی بن حسام الدین الہندي 1480ء میں بمقام دکن (ہندوستان) میں پیدا ہوئے اور 1567ء میں آپ نے وفات پائی۔ مدینہ منورہ میں تحصیل علم کے لئے مقیم رہے۔ پھر ایک طویل عرصہ مکہ کر مہ میں قیام کیا۔ جہاں سے حدیث کی تعلیم حاصل کی۔ آپ فقیہ، حدیث، واعظ، پڑیز گار، متقی عالم دین مشہور تھے۔ آپ کی مشہور تصنیفیں کنز العمال، ارشاد العرفان و عبارۃ الایمان البهارات الجلی فی معرفۃ الولی، الرق المرقوم فی غاییات العلوم ہیں۔

18 - علامہ ابو عبد اللہ محمد بن احمد الاندلسی

علامہ ابو عبد اللہ محمد بن احمد بن ابی بکر بن فرح الانصاری الاندلسی القرطبی نے 671ھ میں وفات پائی۔ آپ کا نثار مفسرین العارفین، الوارثین اور الزادین فی الدنیا میں ہوتا ہے۔ آپ کی مشہور تصانیف دس جلدوں پر مشتمل الجامعۃ الاحکام القرآن، الاسنی فی شرح اسماء اللہ الحسنی، التذکار فی افضل الاذکار، التذکرہ بامور الآخرہ ہیں۔

19 - علامہ ابن قیم جوزیہ

علامہ شمس الدین ابو عبد اللہ محمد بن بکر بن ایوب سعد زرعی دمشقی المعروف ابن قیم جوزیہ بمقام دمشق 691ھ میں پیدا ہوئے اور 751ھ میں اُنگی وفات ہوئی۔ آپ کے والد دمشق کے المدرسة الجوزیہ کے قیم و مہتمم تھے۔ اس لئے انہیں ابن قیم جوزیہ کہا جانے لگا۔ آپ بلند پایہ مفسر قرآن، علم خونکے امام، فن کلام کے استاد اور اپنے وقت کے بہت بڑے مجتهد اور متكلم تھے اور اپنی اس قابلیت کے پیش نظر ابن تیمیہ کے صحیح جانشین سمجھے جاتے تھے۔ آپ کے علمی کارناموں میں اعلام الموقعين من رب العالمین کتاب بدائع الغائد، کتاب الصراط المستقیم، اجتماع المیوش الاسلامیہ، مدارج السالکین، زاد المحاد، مفتاح دار السعادة، الوابل الصیب فی الكلم الطیب سرفہرست ہیں۔ ابن العماد نے اپنی کتاب شذرات الذہب میں علامہ موصوف کی 45 کتب کی فہرست دی ہے۔

20 - علامہ ابن کثیر^ر

آپ کا نام اسماعیل، کنیت ابو الفداء اور لقب عماد الدین جبکہ ابن کثیر آپ کا عرف ہے۔ آپ 701ھ میں پیدا ہوئے اور 774ھ میں آپ نے وفات پائی۔ آپ کا آبائی گاؤں مجدد ملک شام میں ہے۔ بڑے بھائی سے فقہ اور شیخ برہان الدین اور شیخ کمال الدین سے فن حدیث کی تکمیل کی۔ علم حدیث کے علاوہ فقہ، تفسیر اور تاریخ میں بھی آپ کو کمال حاصل تھا۔ چنانچہ بڑے علماء نے آپ کی خدمت میں خراج تحسین پیش کیا۔ آپ کی مشہور تصانیف تفسیر القرآن الکریم، البدایہ والنہایہ، طبقات الشافعیہ، الاجتہاد فی طلب المہاجد، رسالتہ فی فضائل القرآن اور کتاب المقدمات ہیں۔

21 - علامہ مسعود بن عمر بن عبد اللہ التقازانی

علامہ مسعود بن عمر بن عبد اللہ التقازانی المعروف بے سعد الدین 712ھجری برابق 1312ء میں پیدا ہوئے اور 791ھ برابق 1389ء میں وفات پائی۔ آپ نساء کے ایک نوای گاؤں تقمازان کے رہنے والے تھے۔ آپ عربی گرامر الصرف والخویز علم

المعانی والبیان کے عالم بے بدل تھے۔ فقہ و منطق میں بھی یہ طویل رکھتے تھے۔

22- امام محمد بن عبد اللہ التبریزیؒ

علامہ ولی الدین محمد بن عبد اللہ التبریزی العمری آپ کا نام تھا۔ آپ کی پیدائش کا کچھ پتہ نہیں کہ کب ہوئی تھی۔ صرف یہ ذکر ملتا ہے کہ آپ نے 737ھ میں مشہور عالم کتاب مشکوٰۃ المصایح تالیف فرمائی۔ آپ بہت بڑے عالم حدیث تھے اور آپ کی مشہور کتاب مشکوٰۃ المصایح ہے، علاوہ ازیں آپ نے مشہور کتاب مصایح السنہ کی شرح بھی لکھی۔

23- علامہ عبدالکریم بن ابراہیم القادری

علامہ عبدالکریم بن ابراہیم بن عبدالکریم الجبلی القادری المعروف بقطب الدین 768ھ میں پیدا ہوئے اور 811ھ میں آپ کی وفات ہوئی۔ آپ بغداد کے رہنے والے بتائے جاتے ہیں۔ آپ طریقہ قادریہ کے پیروکار تھے۔ آپ کے خیالات شیخ الکبیر علامہ مجی الدین ابن عربی کی تعلیمات کے مطابق تھے۔ انسان کامل فی معرفة الاخر والاوائل، الاسفار عن رسالت الانوار، النوادر العینية فی البوادر الاغیثیة، الکھف والرقیم، الکاشف عن اسرار بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کے علمی شاہکار ہیں۔

24- امام عبد الرحمن بن ابی بکر السیوطی

علامہ عبد الرحمن بن ابی بکر بن محمد ابی بکر بن عثمان بن محمد بن خضر بن ایوب من محمد بن عمام الدین المصری الشافعی جلال الدین (ابوالقلقل) سیوطی 1445ء میں قاهرہ میں پیدا ہوئے اور 1505ء میں فوت ہوئے۔ آپ کے آباء اجداد مصر کے شہر سیوط میں آکر آباد ہوئے۔ اسی وجہ سے سیوطی مشہور ہوئے۔ آپ کے والد فقہ کے بہت بڑے عالم اور مدرس تھے، آپ نے بھی علوم نقلیہ و عقلیہ میں مہارت حاصل کی اور اپنے باپ کی جگہ مدرس بن گئے۔ آپ علوم شریعت قرآن، تفسیر، حدیث، فقہ، ادب، لغت اور تاریخ و تصوف میں ماہر تھے۔ آپ کی مشہور تصنیف ترجمان القرآن فی التفسیر المنسد القرآن، تفسیر الدّر المنشور، الاتقاء فی علوم القرآن، الجامع الصغیر فی الحدیث ہیں۔ آپ کی تصنیف کی تعداد 500 سے زائد ہے۔

25- علامہ اسماعیل حقی الاستنبولی

علامہ اسماعیل حقی بن مصطفی الاستنبولی، البروسی ابو الفداء 1063ھجری میں ایڈوس میں پیدا ہوئے اور 1137ھجری میں وفات

پائی۔ شیخ فضل اللہ عثمان کی تعلیم و تربیت سے مستفیض ہونے کا موقع ملا۔ انہیں سے علم کے اعلیٰ مدارج اور طریقہ تصوف کی منازل طے کیں۔ آپ کی مشہور تصانیف روح البیان فی التفسیر القرآن، کتاب التوہید، کتاب النجاة، شرح الأربعین فی الحدیث ہیں۔ آپ نے ایک سو سے زائد کتابیں تصنیف کیں۔

26- حضرت شاہ ولی اللہ^ر

حضرت عظیم الدین شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ابن عبدالرحیم شاہ 1703ء میں ضلع مظفر نگر ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم گھر میں ہی حاصل کی۔ سات سال کی عمر میں قرآن حفظ کیا۔ تفسیر، حدیث، فقہ اور تصوف کا علم حاصل کیا۔ آپ کا تعلق سلسلہ نقشبندیہ سے تھا۔ آپ عظیم محدث، جیتا عالم، فقیہ، مجتهد اور عربی زبان کے ماہر تھے۔ آپ کی مشہور تصانیف فتح القرآن، الفوز الکبیر، حجۃ البالغۃ اور تفہیمات الہیہ وغیرہ ہیں۔

27- علامہ سید محمود آفندی

آپ کا نام سید محمود آفندی، کنیت ابوالثناہ لقب شہاب الدین ہے۔ آپ 1217ھ میں بغداد کے محلہ کرخ میں پیدا ہوئے۔ اپنے والد ماجد سے ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ اکابر علماء سے فیض حاصل کیا۔ 13 سال کی عمر میں تدریس و تالیف میں لگ گئے۔ آپ اپنے زمانہ کے معقولات کے مستند اور جامع عالم اور عدیم المثال محدث و مفسر تھے۔ آپ کی مشہور تصانیف روح المعانی فی تفسیر القرآن، شرح السلم فی المنطق وغیرہ ہیں۔

28- نواب صدیق حسن خان

آپ 1248ھ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا آبائی وطن بریلی یو۔ پی ہند ہے۔ ابتدائی تعلیم اپنے محلہ میں ہی حاصل کی۔ فرخ آباد گئے۔ آپ کی مساعی کی وجہ سے بر صغیر میں علوم دینیہ کا احیاء ہوا اور مذہبی حلقوں میں جہود ٹوٹ کر علمی تحقیق کا شوق پیدا ہوا۔ علوم کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جس پر آپ کی کوئی غیر معمولی تصنیف نہ ہو۔

29- علامہ محمد قاسم نانو توی^ر

آپ 1248ھ میں پیدا ہوئے اور 1297ھ میں آپ نے وفات پائی۔ آپ کا آبائی وطن نانوہ ضلع سہارنپور اتر پردیش بھارت تھا۔ اپنے وطن کے مکتب میں ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد مختلف بزرگوں سے عربی اور فارسی کی کتب پڑھیں۔ صدق و دیانت، تقویٰ و دینداری امت محمدیہ سے ہمدردی، خیر خواہی اور راہ حق میں سرفوشی و جانبازی کی روشن مثالیں قائم کیں۔ آپ

کی مشہور تصانیف حاشیہ صحیح بخاری، تحذیر الناس، آب حیات، انتصار الاسلام، تصفیۃ العقائد، حجۃ الاسلام، مباحثہ شاہ جہاں پور وغیرہ ہیں۔ آپ نے ہندستان کے عظیم دینی مدرسہ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی۔

30 - علامہ عبدالحکیم بن عبدالحکیم

علامہ عبدالحکیم بن محمد امین بن محمد اکبر بن مفتی احمد 26 ذیعقدہ 1264ھ میں پیدا ہوئے اور 1304ھ میں آپ نے وفات پائی۔ آپ کا آبائی وطن باندہ ہندوستان ہے۔ دس برس کی عمر میں آپ نے قرآن کریم حفظ کیا۔ تمام علوم و فنون اپنے والد مولوی عبدالحکیم سے سیکھے۔ آپ طلیق اللسان، کریم النفس اور فصح البیان اور متبع سنت تھے۔ آپ نے صرف و نحو، علم مناظرہ، منطق، علم الكلام، طب، تاریخ، فقہ، علم حدیث کے بارہ میں کئی تصانیف لکھیں۔ آپ کی مشہور تصانیف الفوائد البیہیۃ، اثر ابن عباس فی دافع الوساوس، ظفر الامانی، الہدیۃ المختاریۃ الندیۃ ہیں۔

31 - علامہ سید قطب شہیدؒ

علامہ قطب سید شہیدؒ کا اصل نام سید قطب آپ کا خاندانی نام ہے۔ آپ کا سن پیدائش 1906ء تھا۔ 1966ء میں آپ کو قتل کر دیا گیا تھا۔ آپ حافظ قرآن تھے۔ ابتدائی تعلیم اپنے مقامی مدرسہ سے حاصل کی اور اعلیٰ ڈگری قاہرہ کی یونیورسٹی سے لی۔ امریکہ میں بھی رہ کر تحصیل علم کیا۔ آپ اخوان المسلمين کی تحریک آزادی کے علمبردار تھے۔ عربی زبان کے بلند پایۂ انشاء پرداز۔ آپ کی کتب میں القصص الدینیہ، اشوک، طفل، من القریۃ اور المدینۃ المسحورۃ، مشابہۃ القيامة فی القرآن، العدالة الاجتماعیۃ فی الاسلام، فی ظلال القرآن، دراسات الاسلامیۃ مشہور ہیں۔

32 - مولانا نشان اللہ امر تسری

ابوالوفاء مولانا نشان اللہ امر تسری 1287ھجری میں پنجاب کے شہر امر تسری میں پیدا ہوئے اور 1368ھجری میں آپ کی وفات ہوئی۔ انکا آبائی وطن کشمیر تھا۔ آپ کا شمار ہندوستان کے بڑے بڑے علماء اور مناظر میں ہوتا تھا۔ آپ اہل حدیث سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کی تصانیف میں تفسیر القرآن بکلام الرحمن تفسیر شانی مشہور ہیں۔ آپ جماعت احمدیہ کے اشد ترین مخالفین میں سے تھے۔

33 - حضرت امام بخاریؓ

حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا پورا نام ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل بخاری تھا۔ آپ 810ء میں بخارہ (وسط ایشیاء) میں پیدا

ہوئے۔ آپ نے بچپن ہی سے احادیث زبانی یاد کرنی شروع کر دی تھیں۔ آپ نے احادیث کو اکٹھا کرنے کے لئے سفر کا آغاز صرف 16 سال کی عمر میں حجج بیت اللہ سے کیا اور آپ اس غرض سے مختلف اسلامی ممالک میں گئے۔ آپ نے روایات کا سخت تنقیدی نظر سے جائزہ لے کر مستند احادیث پر مشتمل ایک جامع کتاب مرتب کی جو ^{صحیح البخاری} کے نام سے معروف ہے اور اسے علماء نے قرآن کریم کے بعد صحیح ترین کتاب قرار دیا ہے۔ امام بخاری کا شمار جید علمائے حدیث میں ہوتا ہے۔ ایک اختلاف کی بناء پر آپ کو جلاوطن کر کے سمرقند کے نزدیکی مقام Kartank میں رہنے پر مجبور کر دیا گیا۔ آپ کی وفات 870ء میں ہوئی۔ آپ متعدد کتب کے مصنف ہیں، جن میں التاریخ الکبیر حییی ضحیم تصنیف بھی ہے۔

Biographies of the Authors

1. Alama Tibri ®

The native land of Alama Abu Jafer Mohammed bin Jareer bin Yazeed Al Tibri (224-310 Hijri) was Tabaristan.¹

In quest of knowledge he departed from his home at the age of twelve. He traveled to various countries like Egypt, Syria and Iraq to quench his thirst for knowledge and lastly settled in Baghdad. He was one of the greatest historians muhhadis, faqih and mushtahid. He is the author of Jamaya tul bayaan fi tafseer ul Quran², Tareekh ul Umum ul mulook, Kitaab ul Qiraeet³, Kitaab ul Addad wa tanzeel⁴, Ehkaam sharayatul Islam⁵, Al tabseer fi usool id din⁶.

His writings are considered to be authoritative in the field of knowledge.

2. Hazrat Imaam Ahmad bin Humble ®

Hazrat Imaam Ahmad bin Abdullaah Humble bin Hilaal bin Assad bin Abdullaah Hayaan bin Abdullaah bin Annas Al Baghdadi Abu Abdullaah was born in 780 AD and deceased in 855 AD. His native land was Baghdad where he enjoyed his primary education, learned Ahadith and Sunna from his elders and then passed through Kufah⁷, Basra⁸, Mecca-Medina, Yemen, Syria and Algiers.

He held a high position in hadith and fiqh and became the Imam of Humbali Masslaq⁹.

The prominent books written by Hazrat Imam Ahmad bin Humble are the following: Al Massnad Ahmad bin Humble¹⁰, Kitaab ul Zohad¹¹, Al Mo-erifa wal taleel wan jirra wal tadeel

¹ A place located south of the Caspian Sea in Iran.

² A complete exegesis of the Holy Quran.

³ Correct recitation with accurate pronunciation of the Holy Quran.

⁴ The sequence of the revelation of the quranic verses.

⁵ Instruction referring the Shari-at of Islam, which is the Islamic jurisprudence.

⁶ Review on the teachings of religion.

⁷ A city located in southern Iraq.

⁸ city, capital of Al Basra province in Iraq.

⁹ School of thought

¹⁰ Statements of Ahmad bin Humble

¹¹ Manuscript about the abstinence

3. Imam Mohammad Bin Ali Tirmizi ®

Imam Mohammad bin Ali bin Basheer al Haqeeem Abu Abdallah was born at the beginning of the third century of the hijra calendar. In accordance to the name of his residence Tirmaiz, he is called Tirmizi. In order to gather Ahadith he travelled to Iraq, Khurasa¹² and Nishapur¹³. He was a hafiz, sufi and muhaddis.

In addition to his book “Jamaee Tirmizi¹⁴”, which is reckoned among the Saha-Sitta, he has written Riyazatul nafs¹⁵, Nawadir al asool fi maraffat al aghbaal susool ullah , Allal al aboodiya khat mue oliya

4. Imam Abu Daud Bahustani ®

His name is Sulaiman, his patronymic name Abu Daud and his pedigree Sulaiman bin Asha-at bin Ishaaq bin Basheer bin Shahad bin Umrao bin Imran al Azri Sabbastani.

He was born in 202 AH and deceased at the 16th Shawal 275AH in Basra where he was buried. His native land was Sabastan. On the lookout for Ahadith he travelled to Baghdad, Nishapur¹⁶ and Isfahan¹⁷. In the field of hadith he is regarded as a trustworthy person. He holds an eminent status in fiqh and ijtehaad.

In the field of fiqh and ijthaad several scholars have granted him with the rank next to Imam Bukhari.

The number of his saints amounted to 300. One of his prominent writings, “Sannan Abu Daud¹⁸” is amongst the Saha-Sitta.

In sum he wrote 22 books. Some of the well-known are complied below:

Kitaab ul misail, Massnatt Malik, Kitaab ul Massabbi wa-al musahif, Kitaab ul tafseer

5. Imam Muslim bin Al Hajaaaj ®

Alama Abul Hassan bin Mulsim al Kasheri bin Daruan was born in 206 AH and deceased at 24.Rajjab 261 AH. He was an inhabitant of Nishapur¹⁹, which is a well-

¹² Province in north-east Persia.

¹³ Also called Neyshabur, town in north-eastern Iran

¹⁴ Collection of Ahadith

¹⁵ The austerity of ego

¹⁶ Also called Neyshabur, town in north-eastern Iran

¹⁷ City in central Iran.

¹⁸ Sunna complied by Abu Daud

¹⁹ Also called Neyshabur, town in north-eastern Iran

known city of Khurasa²⁰ where he received his basic education. In order to obtain knowledge he made his way to Hijaaz²¹, Syria, Egypt, Yemen and Baghdad. He collected several Ahadith from muhaddaseen.

The way of preserving authenticity and accuracy, in regard of assembling Ahadith made Imam Muslim the principal of the knowledge of hadith.

Besides Sahi Muslim, he wrote various other books:

Kitaab Massnat Qabeer, Kitaab al Asma wal qanni, Kitaab al Allal, Kitaab wahaam ul muhaddaseen, Kitaab al tabkhaat etc.

6. Imaam Ibn-e-Majah ®

Alama Abu Abdallah Mohammad bin Yazeed bin Abdallah Ibn-e-Majah Aler Yaii fazo yani was born in 824 AD. in Khazuyan which is located in the province of Azerbaijan in Iran and deceased in 886 AD. Aimed at the collection of Ahadith he passed through Khurasan²², Iraq, Hijaz²³, Egypt and Syria. Additionally he was in Kufah²⁴, Baghdad, Hamadan²⁵, Nishapur²⁶. etc.

The number of his pedagogues and educationalists is more than three hundred. Even spiritual intellectuals acknowledged his headship and grandeur. Hafiz Ibn-e-Qaseer, Hafiz Ibn-e-Hijer and Alama Zohbi praised him greatly. He composed several books on the subject of tafseer²⁷, hadith and history. The well-known books are the following ones: Al Tafseer, Sannan Ibn-e-Majah²⁸, Al Tareekh

7. Alama Mohammad bin Saad Al Bisri ®

Mohammad bin Saad bin Maina Al Bisrai Al Lodi Al Makkanni Baa-bi Abdullah is his proper name. He was born in 168 AH in Basra and deceased in 230 AH in Baghdad. In order to gain religious knowledge he made his way to Medina tul Munawara and Kufah²⁹. All through he acquired knowledge from various

²⁰ Province in north-east Persia.

²¹ Located in western Saudi-Arabia

²² Province in north-east Persia

²³ Located in western Saudi-Arabia.

²⁴ A city located in southern Iraq

²⁵ Also called Neyshabur, town in north-eastern Iran

²⁶ Sunna of the holy prophet (p.b.u.h) complied by Ibn-e-Majah

²⁷ Exegesis of the Holy Quran

²⁸ Sunna of the holy prophet (p.b.u.h) complied by Ibn-e-Majah

²⁹ A city located in southern Iraq

sophisticated personalities. He is considered to be one of the most brilliant scholars among his contemporaries. He was a muhaddis and hafiz. His famed book is called “Al Tabkhatul Qabeer”.

8. Alama Abu Al Hassan bin Ali Umar ®

Alama abul Hassan Ali bin Umar bin Ahmad bin Mehdi bin Masood bin Nauman bin Dinar Abdullah was born in 303 AH and deceased in 385 AH.

His national state was Baghdad and he was born in the municipality of Qatn. He has obtained the knowledge of Hadith from the most prominent muhadaseen of his age. For this purpose he reached Kufah, Syria and Egypt where he gained knowledge of literature, qiraat etc.

He was honored with the title of “Ameer ul Momineen fil Hadith”.

One of his well-known writings are:

Kitaab ul Sunnal al darull qatni, Kitaab allal hadith, Al ilzamaat ali al saheheen, Al astaad rakaat wa-al tashbi, Kitaab al arba-i'en.

9. Imam Ar-Raghib Al-Asfahani ®

Alama Abdul Qasim al Husain bin Mohammad bin Al-fazal al maroof bin Imam ar-Raghib was an exceedingly celebrated scholar and philologist.

Several people described him as a non-conformist despite the fact that Imam Razi confirmed him as a true believer. He was a reliable philologist, litterateur and mufassir. His writing “ Mufaradatul Alfaaz ul Quraan” is vastly renowned. Additionally he composed various authoritative books on the subjects of literature and philology.

10. Alama Abul Qaim Mohammad bin Umar ®

The famed Iranian scholar Abul Qasim Mohammad bin Umar was born in 467 AH in his native land Quarham and deceased in 538 AH.

In search of knowledge he left his home at adolescence.

In scholastic philosophy he pleaded the thought of Moahtazallah.

He composed voluminous books such as:

Mukhtassar al muwaffaqaat bail ehl ul bait wa as-asahab,

Kasa-is al ashtarul al akraam al-barrah

³⁰ Plural of *muhaddis*.

³¹ A city located in southern Iraq

³² Correct recitation and pronunciation of the holy Quran

³³ Head of the Muslims who are acquainted with Ahadith

11. Alama Abul Hassan Ali Ihn Ahmad Wahidi Nishapuri ®

Shaikh ul Islam Abul Hassan Ali Ihn Ahmad al Wahidi Nishapuri al Shafaii deceased in 468 AH in Nishapur. In Medina und Kufah he acquired his knowledge. Wahedi Salebi, a master of exegesis, was a student of him and obtained the knowledge of exegesis. He was a mufassir and an expert in syntax and lexicon. His renowned books are:

Babul as baab ul hazool, Al tabeer fir sharah asma-ullah talah al husna, Sharraah dewaan abbi al tayyal muttabbanni

12. Alama Faqhrud din Razi ®

Alama Faqhrud din Razi Abu Abdullah Mohammad bin Umar bin Hussain al Kharshi al Tabristani was born in the on at the day of Eid.

Alama Faqhrud din Razi obtained the basic knowledge from his father Zia ud Din Abul Qasim who himself was a master of scholastic philosophy. He accommodated in various places like Samerqand and Hindustan.

Among the most famous Islamic scholars and exegetical writers of his time he was a brilliant and unique personality. For many scholars he was a source of knowledge.

His celebrated books are:

Al tafseer ul kabeer, Tafseer ul fateha, Tafseer ul Sagheer, Nahayatul Aqool, Al Malam fi usool al faqiha, Al arbaien fi usool id din etc.

The amount of his books is approximately 68.

13. Alama Ali bin Mohammad®

Alama Ali bin Mohammad bin Abdul Kareem bin Abdul Waheed al Ma-roof ba-bin al Asheer as Jisri was born in 1160 AD and deceased in 1233 AD. His patronymic name was Abul Hassan. Ibne Kuldoom marked about his life that he set out to Baghdad in order to obtain knowledge. From there on he proceeded to Musil through Syria and Jerusalem. At Musil he developed into a master of Hadith. He was a great historian, muhaddis-e-hafiz³⁸ and a litterateur.

³⁴ Also called Neyshabur, town in north-eastern Iran.

³⁵ A city located in southern Iraq

³⁶ Islamic festival

³⁷ city and capital of Samarqand Wiloyat (Samarqand Oblast), central Uzbekistan. Located in the irrigated valley of the Zeravshan River. It is the oldest city in Central Asia.

³⁸ A person who has memorised the entire collection of Ahadith.

His well-known books are:

Az Daad ul ghabela fi mahra fatul sahabiya, Kamil fi al tareekh,
Al Jame-a al kabeer fi il-mul bayaan, Kitaab ul Jihaad

14. Alama Mohi Uddin Ibne Arabi®

Hazrat Mohammad bin Ali bin Mohammad bin Ahmad bin Abdullah Al Ta-i al Hatami al Ma-roof be al Sheikh al Akbar Ibn Arabi Mohi Uddin was born in 560 AH (1165AD) and deceased in 638 AH (1240AD).

He spent 30 years in gathering knowledge. After moving to Ashbelia he travelled to Egypt, Hijaaz, Baghdad and Rome. People regarded him as a saint, a polestar and an authority in devout knowledge of his age. In “Futoohaat-e-Makkiya” diverse religious sects are discussed. Fasoos-ul-Makaam is a trustworthy book on the themes of mysticism, issues of philosophy and revelations. He wrote more than 150 books.

15. Alama Mohammad bin Yousuf Al Andaloosi®

Alama Mohammad bin Yousuf bin Ali bin Yousuf bin Hayyan Al Gharnati Al Jilani Al Andaloosi was born at Gharnata in 1256 AD and deceased in 1344 AD. He acquired the knowledge of qiraat, Arabic, hadith and tafseer from the most brilliant scholars of his times. It is said that he gained comprehension of Ahadith from more than 450 educators. He was a wonderful litterateur, muffassir, muhaddis and historian. Moreover he had proficient in the understanding of syntax and lexicon.

His prominent writings are:

Al Behrul Moheed fi tafseer ul Quran

Al Alaam ba-arkaan ul Islaam

Al fawaid o takmeel al maqasid fi al-nahu etc.

16. Alama Ahmad bin Abdul Haleem®

His name was Ahmed bin Abdul Haleem bin Abdus Salam bin Abdullah bin Al-Khizar bin Mohammad bin Al-Khizar bin Ali bin Abdullah bin Tamimiya Al Harani sum Al-Damashki al Hambali Sheikh ul Islam Taqi-Uddin Abul Abbas. He was known under the title of Ibne Tameema. He was born at Haraan in 661 AH. In company with his family he travelled to Damascus³⁹. He deceased in 728 AH. He expanded knowledge in Damask²¹ and Egypt. He was imprisoned in the fort of Cairo. In the same way he was detained twice in Alexandria⁴⁰ and Damask. He was regarded as muhaddis, hafiz, muffassir, faqih and mushtehid.

³⁹ Capital and chief city of Syria.

⁴⁰ City and major seaport in northern Egypt.

Few of his books are:

Majmoo-ah fatawa, Al sayasatul sharriya fi islah al ra-ii wal raiyya,
Bayanul jawaab al sahi an badal din al Massih, Minhaaj ul sunnat al nabwiya,
Al risalatul arshiya etc.

17. Alama Ala-Uddin Ali al Mutaqaii al Hindi®

Alama Ala-Uddin Ali al Mutaqai bin Hassam ud din al Hindi was born in southern Dhakkan –Hindustan⁴¹ in 1480 AD and deceased in 1567 AD.

He resided in Medina-Munawar for the sake of education. After that he accommodated for a long period in Mecca where he obtained knowledge of Hadith. He was a famous faqih, muhaddis, sermonizer, abstinent, pious and religious scholar. His renowned writings are:

Kanzool ul amal irshaad ul irfaan wa ibaratul imaan al burhaan al jalli fi marafatul wali, Al raq al ,arqoom fi ghayaat ul uloom.

18. Alama Abu Abdullah Mohammad bin Ahmad Al Andaloosi®

Alama Abu Abdullah Mohammad bin Ahmad bin Abi Baker bin Farha al Ansari al Andaloosi al Qurtabi departed his life in 671 AH. He was considered among the mufassireen-e-arifeen al wareseen and Al-zahedeen fi dunya.

His famous writings embrace ten volumes:

Al Jaame-a al ehkaam al Quran, Al Suni fi shara asma-ul husna,
Al Taz-kaar fi al-fazal al as-kaar, Al Tazkiri ba amoor al akira

19. Alama Ibn Qeem Juziya®

Alama Shams Uddin Abu Abdullah Mohammad bin Bakr bin Ayoob Saad Zarri Damaski al maroof Ibn Qayyim⁴² Juziya was born at Damask⁴³ in 691 AH and passed away in 751 AH. His father was the chief administrator of Madarsatul Jawaziya⁴⁴. That is the reason he is called Ibn Qeem Jawaziya.

He was a great muffasir-e-Quran⁴⁵, Imam of the understanding of syntax, master of rhetoric, a great mushtahid and scholastic philosopher. Due to his abilities he was reckoned as a successor of Ibn-e-Tameema.

⁴¹ The entire Indian subcontinent

⁴² Qeem means chief administrator

⁴³ Capital and chief city of Syria.

⁴⁴ Name of a school

⁴⁵ A person who elaborates the verses of the holy Quran.

Among his outstanding works are

Alaam ul moqe neen mir rabbul alameen kitaan badi-ul aqa-id,
Kitaab ul siratul mustaqeem, Ishtama-ul jayoosh al islamiyah, Madare jul sale qeen,
Zaad-ul-me-aad, Fatah darul sada, Al wa-bil al seeb fee al kalam al tayyab
the most prominent. Ibne Mayaad listed 45 of his books in his manuscript entitled
Shaz raat-ul-zeheb.

20. Alama bin Akseer®

His name was Ismail, patronymic name Abul Fidah, his title Amadud-Deen whereas he was usually called Ibne Kaseer. He was born in 701 AH and deceased in 774 AH. His native village was Mujdall which is located in Syria. He acquired knowledge of fiqah from his elder brother and terminated his schooling of Hadith from Sheikh Burhan-ud-Din and Sheikh Kamal-ud-Din. Besides the knowledge of Hadith he had a perfection over fiqah, tafseer and history. That is the reason why outstanding scholars paid high tribute to him.

His celebrated writings are:

Tafseer ul Quran-e-Kareem, Al Badaya wall nahaya, Tab-kaat ul Shafiya,
Al-Ijtehaad fee talb al-jihaad, Rasala fee faza-il Quran, Kitaab al fi muqqaddamaat

21. Alama Masood bin Umar bin Abdullah Al Taftazani®

Alama Masood bin Umar bin Abdullah Al Taftazani al Maroof ba Saad ud Din was born in 712 AH (i.e. 1312 AD) and died in 791 (1389 AD). He was the inhabitant of Taftazann which is located next to Nisa. He was incomparable in Arabic grammar, syntax, etymology, rhetoric and its branch dealing with the metaphorical use language. In addition he owned dexterity in fiqah and logic.

22. Imam Mohammad bin Abdullah al Tabreezi®

His name was Alama Wali ud Din Mohammad bin Abdullah al Qateeb al Tabreezi al Umri. There are no references about the date and place of his birth. The only referral which can be found is that he wrote the world famous book Mishkatul Masabih in the year 737 AH. He was a luminous scholar of Hadith. In addition to his prominent book Mishkatul Masabih he composed an explanation of this book.

23. Alama Abdul Kareem Ibne Ibraheem al Qadri®

Alama Abdul Kareem bin Ibraheem bin Abdul Kareem al Jibbili al Qadri al Maroof Ba-qutub ud Din was born in 768 AH and passed away in 811 AH.

It is said that he was an inhabitant of Baghdad. He was a follower of Tariqa-e-Qadriya. His thoughts were in accordance to the teachings of the great Sheikh Alama Mohi ud Din Ibne Arabi.

The following books are cerebral masterpieces:

Imsaan-e-kamil fi mora fatull wa akhir wa awwal, Al asfaar an risaalatul al anwaar, Al nawa dir al aina fill bawadir al ghabiya, Al kai-happ wal rafeem, Al kashif an as-raar bismilla hir rahmaan nir raheem

24. Imam Abdul Rahman Ibn Abi Bakr al Sayooti®

Alama Abdul Rehman bin Abi Bakr bin Mohammad Abi Bakr bin Usmaan bin Mohammad bin Khizar bin Ayoob Mann Mohammad bin Amaad Uddin Al Misri Al Shifai Jalaal Uddin (Abu Al Kufl) Sayooti was born at Cairo in the year 1445 AD and deceased in 1505 AD. His ancestors settled down in the famous city of Sayoot in Egypt. That is the ground why he is known as Sayooti. His father was a great scholar and educator of fiqhah. Moreover he had proficiency in the fields of aphorism and rationalism and finally became an educator as well.

He was an expert in Sharyat-e-Quran⁴⁶, tafseer, hadith, fiqhah, literature, lexicon, history and mysticism.

His well-known books are:

Tarjamatal Quran fi Tafseer al Massnad al Quran, Tafseer ad daaarul mansoor,
Al adkhaan fi uloom il Quran, Al jama-e-al sagheer fi al-hadith

The number of his books is more than 500.

25. Alama Ismail Haqqi Al Astanbuli®

Alama Ismail Haqqi bin Mustafa al Astanbuli al Buroosi Abu al Fuda was born at Odesa in 1063 AD and deceased in 1137 AD.

He got the opportunity to obtain knowledge and training from Sheikh Fazl Ullah Usmaan. Under his guidance he attained the highest positions in the fields of mysticism and Sufism.

His famed books are:

Roo-hul bayaal fi tafseer ul Quraan, Kitaab al toheed, Kitaab al Nijaat, Sharra ul arba-I-een fi al hadith

He wrote down more than 100 books.

26. Hazrat Shah Wali-Ullah®

Hazrat Azeem ud Din Shah Wali Ullah Mohaddis Dehallwi Ibn Abdul Raheem Shah was born in the district Muzaffar Nagar of Hindustan⁴⁷ in 1703 AD. He obtained his primary education at his own home. At the age of seven year he memorised the entire Holy Quran. Afterwards he acquired knowledge of tafseer, hadith, fiqhah and mysticism. He had a link to the followers of Naqsh-Bandiya.

⁴⁶ Divine law of Quran

⁴⁷ The entire Indian subcontinent

He was an outstanding muhaddis, an excellent scholar, faqih, mushtahid and an connoisseur of Arabic language.

His eminent books are:

Fatah ul Quran al Fauz ul Kabeer,
Hijra tul balaghah, Tafhi maatul haa-ya

27. Alama Syed Mahmood Aafandi®

His name was Syed Mohammad Aafandi, his patronymic name Abu Al Sana and title Shahab ud Din. He was born in Karkh, Baghdad in 1217 AH. He obtained the basic education from his father. In addition he acquired knowledge from great scholars. At the age of 13 he started teaching and writing.

He was a reliable scholar of philosophy and logic, a perfect scholar and an unparalleled muhaddis and mufassir of his times.

His illustrious books are:

Rooh ul maani fi tafseer ul Quran,
Sharra ul Salam fi al-mantaq etc.

28. Nawaab Siddeeq Hassan Khan®

He was born in the year 1248 AH. His home town was Bareeli/ U.P.(Utter Pradesh) – India.

After acquiring his principal education in his town he travelled to Farakhabad. Due to his endeavours religious knowledge revived in the subcontinent and the inactivity of the religious sectors was surrogated by the enthusiasm for informative researches. There is not even a single field of knowledge in which he did not write a unique and unparalleled book.

29. Alama Mohammad Qasim Nanotwi®

He was born in 1248 AH and passed away in 1297AH. His home town was Nanota, district Saharan-Pur, U.P. (Utter Pradesh) in India. He acquired education from the school of his country. Afterwards he was taught Arabic and Persian books by various wise men. He established a luminous role model for sincerity , honesty, piety, religiousness, sympathy with Ummat-e-Mohammadiya⁴⁸, well-wishing and sacrifice for the path of justice.

His famous books are:

Hashiya sahi Bukhari, Tahzeer un naas, Aab-e-hayaat, Intesaar ul Islam,
Taswiya al aqaidah, Hujja tul Islam, Mubahisa Shah Jahan Pur etc.

Besides he was the founder of the great religious academies of Deoband in India.

⁴⁸

Followers of the holy Prophet Mohammad(peace be upon him)

30. Alama Abdul Hai bin Abdul Haleem®

Alama Abdul Hai bin Mohammad Ameen bin Mohammad Akbar bin Mufti Ahmad was born at 26th Zeeqat⁴⁹ 1262 AH and deceased in 1304 AH.

Banda of Hindustan was his home town. At the age of ten years he memorised the entire Holy Quraan-e-Kareem.

All skills and knowledge he got taught by his father Maulwi Abdul Haleem.

31. Alama Qutab Syed Shaheed ®

His real name was Alama Qutab Shaheed⁵⁰ whereas his family name was Qutab. He was born in 1906 and was murdered in 1966. He was a hafiz. He got skilled at the school of his home town and finally got hold of a first-rate certificate from the Cairo university. Furthermore he expanded his knowledge in America. He was the supporter of the movement Akhwaan ul Musleemeen. He was a magnificent writer of Arabic prose.

His famed writings are:

Al qassas al deeniyah, Ashook, Tifl, Min al qarriyah, Al madinatul mas-hoora,
Mush-haa-heda tul qayamaa iil Quran al adliyaa ul ij-temaya fil islam,
Fi zalaal ul Quran Darasaa tul Islamiya.

32. Alama Maulana Sana Ullah Amritsari ®

Abu Al wafa Maulana Sana Ullah Amritsari was born in a famous city of Punjab called Amritsar in 1287 AH and passed away in 1368 AH. Kashmir was his native land. He was considered among the greatest scholars and polemical writer and voice of Hindustan⁵¹ among the Muslims in India. He was associated with Ehl-e-Hadith⁵². Among his writings Tafseer ul Quran ba-kalaam ur rahmaan Tafseer e Sanai is famous. He was one of the most ruthless adversaries of the Ahmadiyya Muslim Jamma't in Islam.

33. Alama Ismail al-Bukhari ®

His full name was Abu Abdallah Mohammad Ibn Ismail Al-Bukhari. He was born at Bukhara⁵³, Central Asia in the year 810. As a youth he began travelling throughout

⁴⁹ Name of an Islamic month

⁵⁰ Martyr

⁵¹ The entire Indian subcontinent

⁵² An Islamic sect

⁵³ Now in Uzbekistan

Muslim world collecting Ahadith. Alama Bukhari began learning the utterances and actions of the Prophet by heart while still a child. His travels in search of more information about them began with a pilgrimage to Mecca when he was 16. He then went to Egypt, and for 16 years he sought out informants from Cairo to Merv in Central Asia. Al-Bukhari was an extremely scrupulous compiler, showing great critical discrimination and editorial skill in his selection of traditions as authentic ones. He was one the greatest compilers and scholars of Hadith. Of the more than 600,000 traditions al-Bukhari collected, some 7,275 of them were compiled, with full genealogies of transmitters stretching back to the prophet, in a work he entitled *Kitaab al-Jami as-Sahih*⁵⁴. Following a theological dispute, al-Bukhari was banished to Kartank, near Samarkand⁵⁵, where he died in 870. His tomb has been the destination of many pilgrimages. As a preliminary to his Sahih, al-Bukhari wrote *at-Tarikh al-kabir*⁵⁶. is the most famous and voluminous book.

⁵⁴ Arabic: The genuine book

⁵⁵ Now in Uzbekistan

⁵⁶ Arabic: The Large history

Explanation

Bin = Arabic word for „son of“

Hijri =(abbreviation AH) the Islamic era is known as that of the hijra since its starting point is the year in which Prophet Muhammad peace be upon him migrated from Mecca to Medina (AD 622), an event known in Muslim tradition as the hijra. This calendar is based on the Moon rather than the Sun, a year consisting of 12 months, each counted as the time between the appearance of one new moon and that of the next. The year thus lasts for about 354 days, approximately 11 days less than the solar year used in the common calendar.

Muhaddis = Collector of the A'Hadith of Holy Prophet Mohammed (p.b.u.h)

Hadith = in Islam, the record of the precepts, actions, and life of the Prophet Mohammed, (pbuh) which constitutes his Sunna, or example. It is accepted as a main source of Islamic belief and practice and is placed in secondary in authority after Holy Quran. The plural form of Hadith is A'hadith.

Mufassir = a person who comments and elaborates on the meaning of Quranic verses.

Fiqah = Islamic law that direct the conduct of individuals and the Islamic community.

Faqih = a person who has the authority to explain Islamic law as determined in the Holy Quran, Hadith and Sunna.

Sunna = (plural form is sunnan) Islamic custom or the Way of life of Prophet Mohammed (p.b.u.h).

Mushtahid = a jurist entitled to independent notes referring the Islamic law.

Shawal= the Islamic month after Ramadan.

Imaam= Islamic Title “The one who leads the prayer”. It may also signify the head of a community or group.

Hafiz = a person who memories the Holy Quran.

Sufi= an Islamic mystic

Saha-sitta= the seven most authentic collections of Hadith.

Ijtehaad = independent clarification of Islamic law based on all four sources i.e. Quran, Sunnah, Hadith & Ijmah.

Rajjab = Islamic month

Biographien von Autoren

1. Alama Tibri®

Das Heimatland von Alama Abu Jafer Mohammad Bin Jareer Al Tibri (224-310 H) war Tabristan (südlich des kaspischen Meers im Iran). Auf der Suche nach Wissen machte er sich auf den Weg nach Ägypten, Syrien und Irak und ließ sich schließlich in Bagdad nieder. Er war einer der herausragendsten Historiker, Hadith-Gelehrter, Quran-Kommentator, Rechtsgelehrter und Rechtsgutachter.

Er verfasste folgende Bücher: Jamaya tul bayaan fi tafseer ul Quran, Tareekh ul Ummul mulook, Kitaab ul Qiraeet¹, Kitaab ul Addad wa tanzeel², Ehkaam sharayatul Islam³, Al tabseer fi usool id din⁴. Seine Werke besitzen unter Fachleuten große Autorität.

2. Hazrat Imaam Ahmad bin Humble® (780 bis 855 n.Chr.)

Er stammte aus Bagdad, wo er in den frühen Jahren seines Lebens unterrichtet wurde, dort lernte er Ahadith und Sunna und begab sich auf eine Reise nach Kufah⁵, Basra⁶, Mekka, Medina, Jemen, Syrien und Algerien. Er nahm eine hohe Stellung in Hadith und Fiqah ein und wurde daher zum Imam von Humbli-Rechsschule. Die bekanntesten Büchern von Hazrat Imaam Ahmad bin Humble sind nachstehende: Al Massnad Ahmad bin Humble⁷, Kitaab ul Zohad⁸

¹ Fehlerfreie Rezitation und richtige Aussprache des Heiligen Qurans

² Die Reihenfolge der Offenbarung der Verse des Heiligen Qurans

³ Anweisungen der Shariyat (Islamische Rechtswissenschaft) betreffend

⁴ Die Rezension der Lehren der Religion.

⁵ Eine Stadt im Süden Iraks

⁶ Eine irakische Provinz

⁷ Stellungnahme von Ahmad bin Humebl

⁸ Manuskript über Besonnenheit

3. Imam Mohammad Bin Ali Tirmizi (3. Jh der Hidjra)

Wegen seiner Heimat Tirmiz wurde er Tirmizi genannt. Um Ahadith zu sammeln, bereiste er Irak, Khorasan und Nishapur. Er war ein Hafiz, Sufi und Muhaddis. Außer seinem Buch „Jamaee Tirmizi“⁹, welches zu den Saha Sitta gehört, hat er weitere Werke verfasst: Riyazatul nafs¹⁰, Nawadir al asool fi maraffat al aghbaal ul susool ullah, Allal al aboodiya khat mue oliya.

4. Imam Abu Daud Bahustani

wurde im Jahre 202 H geboren und verstarb am 16. Shawal 275 H in Basra¹¹. Sein Vaterland war Sabastan. Auf der Suche nach Ahadith durchreiste er Bagdad, Nishapur¹² und Isfahan¹³. Im Fach Hadith wird er als eine Autorität anerkannt. Er nimmt auf dem Fachgebiet Hadith und Fiqah eine hohe Stellung ein. In Fiqah und Ijtehaad räumten ihm viele Gelehrten den zweiten Rang nach Imam Bukhari ein. Die Zahl seiner Werke beläuft sich auf 300. Eines seiner vielbeachteten Werke „Sannan Abu Daud“¹⁴ gehört zu den Saha-Sitta. Die Gesamtzahl seiner Werke beträgt 22. Einige der bekanntesten Werke sind: Kitaab ul misail, Massnatt malik, Kitaab ul Massabbi wa-al musahif, Kitaab ul tafseer.

5. Imam Muslim bin al Hadjaadj: (206 H bis 24. Rajjab 261 H.).

Er lebte in Nishapur¹⁵, eine wohlbekannte Stadt von Khorasan¹⁶, wo er in seinen jungen Jahren Bildung erhielt. Um sich Wissen anzueignen, reiste er nach Hijaaz¹⁷, Syrien, Ägypten, Jemen und Bagdad. Er notierte zahlreiche Ahadith von Muhammadasien.

Die Methode, wie er bei der Aufstellung von Ahadith die Authentizität und Exaktheit bewahrte, machte Imam Muslim zur Hauptperson im Fachbereich Hadith. Außer Sahi Muslim Shareef hat er noch weitere Bücher geschrieben: Kitaab Massnat Qabeer, Kitaab al Asma wal qanni, Kitaab al Allal, Kitaab wahaam ul muhaddaseen, Kitaab al tabkhaat etc.

⁹ Sammlung von Ahadith

¹⁰ Die Mäßigung des Selbstbewusstseins

¹¹ eine irakische Provinz

¹² (auch Neyshabur genannt) befindet sich in nord-östlichem Iran.

¹³ Eine Stadt in Iran

¹⁴ Zusammenstellung der Ahadith vom Abu Daud

¹⁵ (auch Neyshabur genannt) befindet sich in nord-östlichem Iran.

¹⁶ Eine Provinz in Persien.

¹⁷ Befindet sich in Saudi Arabien.

6. Imaam Ibn-e-Majah: (824 n.Chr 889 n.Chr)

Geboren in Khazuyan in der Provinz von Azerbijan in Iran, geboren. Für die Aufstellung von Ahadith begab er sich auf den Weg nach Khorasan¹⁸, Irak, Hidjaaz¹⁹, Ägypten und Syrien. Ferner reiste er nach Kufah²⁰, Bagdad, Hamadan²¹, Nishapur²² etc. Er hatte mehr als 300 Lehrer. Sogar große spirituelle Gelehrte erkannten seine Erhabenheit an. Hafiz Ibn-e-Qaseer, Hafiz Ibn-e-Hijer und Alama Zohbi rühmten ihn sehr. Er schrieb diverse Bücher über Tafseer, Hadith und Geschichtswissenschaft nieder: Al Tafseer , Sannan Ibn-e-Majah²³, Al Tareekh²⁴

7. Alama Mohammad bin Saad Al Bisri ®: 168 H bis 230 H.

Um religiöses Wissen erwerben, machte er sich auf den Weg nach Medina und Kufah²⁵. Dabei war er Schüler bedeutender Lehrer. Er wird als einer der exzellentesten Gelehrten seiner Zeitgenossen angesehen. Er war ein Muhaddis und Hafiz. Sein berühmtes Werk heißt „Al Tabaqatul Qabeer“.

8. Alama Abu Al Hassan bin Ali Umar ®: (303 bis 285 H)

Seine Heimat war Bagdad, er wurde im Stadtteil Qutn geboren. Das Wissen über Ahadith eignete er sich von den berühmten Muhadaseen²⁶ seiner Zeit an. Für diesen Zweck reiste er nach Kufah²⁵, Syrien und Ägypten, wo er das Wissen über Literatur, Qiraat etc. erlernte. Er wurde mit dem Titel „Ameer ul Momineen fil Hadith²⁷“ ausgezeichnet. Einige seiner geschätzten Werke sind: Kitaab ul Sunnal al darull qutni, Kitaab allal hadith, Al ilzamaat ali al saheheen, Al astaad rakaat wa-al tashbi, Kitaab al arba-i-en.

¹⁸ eine Provinz in Persien.

¹⁹ befindet sich in Saudi Arabien.

²⁰ eine Stadt im Süden Iraks

²¹ eine Stadt im Westen Irans

²² (auch Neyshabur genannt) befindet sich in nord-östlichem Iran.

²³ Sammlung von Sunnat, die von Ibn-e-Majah zusammengetragen wurde.

²⁴ Die Geschichtswissenschaft

²⁵ Eine Stadt im Süden Iraks

²⁶ Pluralform von Muhaddis

²⁷ Das Oberhaupt der Muslime, die sich mit Ahadith auskennen.

9. Imam Ar-Raghib Al-Asfahani ®:

Ein berühmter Gelehrter und Philologe. Einige Leute beschrieben ihn als Anhänger des puren Rationalismus; Imam Razi bestätigte jedoch, dass Imam Raghib an die Grundlehren des Islam glaubte. Er war ein zuverlässiger Philologe, Literat und Quran-Kommentator. Sein Werk „Mufaradat li Alfaaz ul Quran“ ist weit anerkannt. Überdies hat er weitere äußerst bedeutende Bücher über die Themen Literatur und Philologie verfasst.

10. Alama Abul Qaim Mohammad bin Umar®: 467-538 H.

Geboren wurde er Quarhan. Bereits als Heranwachsender verließ er in der Suche nach Wissen sein Zuhause. In scholastischen Philosophie befolgte er den Überlegungen von Moahtazallah. Er verfasste vielbändige Werke wie: Mukhtassar al muwaffaaqat bail ehl ul bait wa as-asahab, Kasa-is al ashtarul al akraam al-barrah.

11. Alama Abul Hassan Ali Ibn Ahmad Wahidi Nishapuri ®:

Shaikh ul Islam Abul Hassan Ali Ibn Ahmad al Wahidi Nishapuri al Shafaii starb im Jahre 468 H in Nishapur²⁸. In Medina und Koofa eignete er sich Wissen an. Wahedi Salebi, ein meisterhafter Exeget, war sein Student und erlernte von ihm die Wissenschaft der Exegese. Er war ein Mufassir und ein Experte auf dem Gebiet der Morphologie und Syntax. Seine bekannten Bücher sind: Babul as baab ul hazool, Al tabeer fir sharah asma-ullah talah al husna, Sharraah dewaan abbi al tayyal as muttabbanni.

12. Alama Fakhrud din Razi®: 543 bis 606 H.

Geburt in der berühmten Stadt Ray im am Tage des Id-Fests²⁹. Grundkenntnisse erwarb er von seinem Vater Zia du Din Abul Qasim, der selbst ein Fachmann der scholastischen Philosophie war. Er lebte in verschiedenen Gegenden wie Samerqand³⁰ und Hindustan³¹. Unter den geehrtesten islamischen Gelehrten und Exegeten seiner Zeit war er eine einzigartige und ausgezeichnete Persönlichkeit. Für viele Gelehrten galt er als eine Quelle des Wissens. Seine bekannten Bücher sind: Al

²⁸ (auch Neyshabur genannt) befindet sich in nord-östlichem Iran.

²⁹ Islamischer Feiertag

³⁰ Gebietshauptstadt im Zentrum Usbekistans, in der Flussoase des Serawschan gelegen.

³¹ Bezeichnung für die Region, die im Allgemeinen die gesamte Gangesebene in Nordindien umfasst.

tafseer ul kabeer, Tafseer ul fateha, Tafseer ul Sagheer, Nahayatul Aqool, Al Malam fi usool al faqiha, Al arbaien fi usool id din etc. Die Gesamtsanzahl seiner verfassten Werke beläuft sich auf ungefähr 68.

13. Alama Ali bin Mohammad®: 1160-1233 n. Chr.

Der Name seines Vaters war Abul Hassan. Ibne Khuldoun vermerkt über ihn, dass er nach Badgag reiste, um dort Wissen zu erwerben. Von hier setzte er seinen Weg nach Musil über Syrien nach Jerusalem fort. In Musil entwickelte er sich zu einem meisterhaften Kenner der Ahadith. Er war ein hervorragender Historiker, muhaddis-e-hafiz³² und Literat. Seine berühmten Werke sind: Assad ul ghabela fi mahra fatul sahabiya, Kamil fi al tareekh, Al Jame-a al kabeer fi il-mul bayaan, Kitaab ul Jihaad

14. Alama Mohi Uddin Ibne Arabi®

Hazrat Mohammad bin Ali bin Mohammad bin Ahmad bin Abdullah Al Ta-i al Hatami al Ma-roof be al Sheikh al Akbar Ibn Arabi Mohi Uddin wurde in 560H (1165 n.Chr.) geboren und verstarb in 638H (1240 n.Chr.).

Er verbrachte 30 Jahre, um sich Wissen anzueignen. Nach einem Umzug nach Ashabelia reiste er nach Ägypten, Hijaaaz³³, Bagdad und Rom. Er wurde als ein Heiliger, ein Wegweiser und ein beachtlicher Fachmann im spirituellen Wissensbereich hochangesehen. In „Futoohaat-e-Makkiya“ werden diverse religiöse Vereinigungen besprochen. Außerdem ist Fasoos-ul-Hikam ein authentisches Werk den Themen der Mystik, philosophischen Fragen und Offenbarungen betreffend. Er verfasste mehr als 150 Bücher.

15. Alama Mohammad bin Yousuf Al Andaloosi® (1256-1344 n. Chr.)

Alama Mohammad bin Yousuf Al Andaloosi Geboren in Gharnata. Das Wissen über Qiraat (Quran-Rezitation), arabische Sprache, Hadith und Tafseer erlernte er von den hervorragendsten Gelehrten seiner Zeit. Es wird berichtet, dass er sich das Wissen über Ahadith von mehr als 450 Mentoren beibringen ließ. Er war ein ausgezeichneter Literat, Mufassir, Muhaddis und Historiker. Überdies war er ein genialer Sachkenner von Grammatik.

Seine hervorragenden Werke sind: Al Behrul Moheed fi tafseer ul Quran, Al Alaam ba-arkaan ul Islaam, Al fawaaid o takmeel al maqasid fi al-nahu etc.

³² Eine Person, die die gesamte Sammlung von Hadith auswendig gelernt hat.

³³ Befindet sich in Saudi-Arabien.

16. Alama Ahmad bin Abdul Haleem®: (661 H. in Haraan geboren)

Er war unter dem Titel Ibne Tameema bekannt. Zusammen mit seiner Familie reiste er nach Damaskus³⁴. In der Festung von Kairo wurde er gefangengehalten. Ebenso wurde er zweimal in Alexandria³⁵ und Damaskus eingesperrt. Er wird als ein Muhibbin, Hafiz, Mufassir, Faqih und Mudjtid angesehen.

Einige seiner Bücher sind: Majmoo'-ah fatawa, Al sayasatul sharriya fi islah al ra-ii wal raiyya, Bayanul jawaab al sahi an badal din al Massih, Minhaaj ul sunnat al nabwiya, Al risalatul arshiya u. a.

17. Alama Ala-Uddin Ali al Mutaqi al Hindi®:

Alama Ala-Uddin Ali al Mutaqi bin Hassam ud din al Hindi (1480-1567 n.Chr.) wurde in Süddhakken (Hindustan³⁶) geboren. Um sich Wissen anzueignen, wählte er Medina-Munawara als seinen Wohnsitz. Anschließend verweilte er einen langen Zeitraum in Mekka, um dort sein Wissen über Hadith auszudehnen. Er war ein anerkannter Faqih, Muhibbin, Prediger, ein enthaltsamer, gottesfürchtiger und religiöser Gelehrter.

Seine bekannten Bücher sind: Kanzool ul amal irshaad ul irfaan wa ibaratul imaan al burhaan al jalli fi marafatul wali, Al raq al ,arqoom fi ghayaat ul uloom.

18. Alama Abu Abdullah Mohammad bin Ahmad Al Andaloosi® (verst. 671 H).

Er war als mufassireen-e-arifeen al warsaeen und Al zahedeen fi dunya hochangesehen.

Sein Werk umfasst zehn Bände: Al Jaame-a al ehkaam al Quran, Al Suni fi shara asma-ul husna, Al Taz-kaar fi al-fazal al as-kaar, Al Tazkiri ba amoor al akira

19. Alama Ibn Qayyam Juziya®: (691-751 H)

Er wurde in Damaskus³⁷ geboren. Sein Vater war der Hauptverwalter von Madarsatul Jawaziya³⁸. Das ist auch der Grund, warum er als Ibn Qayyam Jawaziya

³⁴ Hauptstadt Syriens.

³⁵ Stadt und wichtigster Seehafen im nördlichen Ägyptens.

³⁶ Bezeichnung für die Region, die im Allgemeinen die gesamte Gangesebene in Nordindien umfasst.

³⁷ Hauptstadt Syriens.

³⁸ Name einer Akademie.

bekannt war. Er war ein großartiger muffasir-e-Quran³⁹, Spezialist in Satzlehre, Herr der Rhetorik, ein brillanter Mudjtahid und scholastischer Philosoph (ilme kalam). Aufgrund seiner Fähigkeiten zählt man ihn zu den Nachfolgern von Ibn-e-Tameema. Die Bekanntesten unter seinen Werken sind: Allaam ul moqe neen mir rabbul alameen kitaan badi-ul aqa-id, Kitaab ul siratul mustaqeem, Idjtama-ul jayoosh al islamiyah, Madare jul saleqeen, Zaad-ul-meAAD, Fatalah darulsada, Al wabil al seeb fee al kalam al tayyab. Ibne Mayaad zählt 45 seiner Bücher in seinem Manuskript mit dem Titel Shaz raat-ul-zeheb auf.

20. Alama bin kaseer® 701 bis 774 Hidjra.

Sein Name war Ismail, Name des Vaters Abul Fidah, Titel Amadud-Deen, wobei er üblicherweise Ibne Kaseer genannt wurde. Sein Heimatort war Mudjall in Syrien. Das Verständnis von Fiqah eignete er sich von seinem älteren Bruder an und absolvierte ein Studium von Hadith unter der Aufsicht von Sheikh Burhan-ud-Din und Sheikh Kamal-ud-Din. Neben den Kenntnissen von Hadith war er Meister von Fiqah, Tafseer und Geschichtswissenschaft. Dies ist der Grund, warum erstklassige Gelehrte ihm Achtung zollten. Seine anerkannten Werke sind: Tafseer ul Quran-e-Kareem, Al Badaya wall nahaya, Tab-kaat ul Shafiya, Al-Ijtehaad fee talb al-jihaad, Rasala fee faza-il, Kitaab al fi muqqaddamaat.

21. Alama Masood bin Umar bin Abdullah Al Taftazani® (1312-1389 n. Chr.)

Er war ein Bewohner von Taftazann, welches in der Nähe von Nisa liegt. Er war einmalig in arabischer Grammatik, Syntax, Etymologie und Rhetorik. Zudem war er in Fiqah und Logik versiert.

22. Imam Mohammad bin Abdullah al Tabreezi® :

Es gibt keine Angaben über Ort und Datum seiner Geburt. Den einzigen Hinweis gibt es über das Jahr 737 H, in dem er das Buch Mishkatul Masabih niederschrieb. Er war ein außerordentlicher Gelehrter von Hadith. Neben seinem bekannten Werk Mishkatul Masabih verfasste er auch eine Erläuterung dieses Buches.

23. Alama Abdul Kareem Ibne Ibraheem al Qadri® (768-811 Hidjra).

Es wird gesagt, dass er ein Bewohner von Bagdad gewesen sei. Er war ein Anhänger von Tariqa-e-Qadriya. Sein Denken war im Einklang mit den Lehren des

³⁹ Eine Person, die sich mit der Auslegung des Heiligen Qurans beschäftigt und diese auch näher beleuchtet.

vortrefflichen Sheikh Alama Mohiuddin Ibn Arabi. Die nachstehenden Bücher gehören zu den Meisterwerken: Imsaan-e-kamil fi mora fatull wa akhir wa awwal, Al asfaar an risaalatul al anwaar, Al nawa dir al aina fill bawadir al ghabiya, Al kai-happ wal raeem, Al kashif an as-raar bismilla hir rahmaan nir raheem

24. Imam Abdul Rahman Ibn Abi Bakr al Sayooti® (1445 bis 1505 n.Chr.):

Geboren in Kairo. Seine Vorfahren ließen sich in Sayoota (Ceuta) nieder. Dies ist auch die Begründung, warum er als Sayooti bekannt war. Sein Vater war ein ausgezeichneter Gelehrter und Mentor von Fiqah. Überdies war er versierter Logiker, Philosoph, Quran-Kommentator und nahm die Stelle seines Vaters als Lehrer an. Seine geschätzten Bücher werden nachstehend aufgezählt: Tarjamatal Quran fi Tafseer al Massnad al Quran, Tafseer ad daarul mansoor, Al adkhaan fi uloom il Quran, Al jama-e-al sagheer fi al-hadith. Die Zahl der von ihm verfassten Werke beläuft sich auf mehr als 500.

25. Alama Ismail Haqqi Al Astanbuli®

Alama Ismail Haqqi bin Mustafa al Astanbuli al Buroosi Abu al Fuda wurde im Jahre 1063 n.Chr. in Odessa geboren und verstarb 1137 n.Chr. Er hatte die Gelegenheit bekommen, sich von Sheikh Fazl Ullah Usmaan unterrichten und ausbilden zu lassen. Unter seiner Anweisung konnte er eine hohe Stellung auf dem Gebiet der Mystik erlangen.

Seine berühmten Bücher sind: Roo-hul bayaal fi tafseer ul Quraan, Kitaab al toheed, Kitaab al Nijaat, Sharra ul arba-I-een fi al hadith. Er verfasste mehr als 100 Bücher.

26. Hazrat Shah Wali-Ullah®

Hazrat Azeem ud Din Shah Wali Ullah Mohaddis Dehallwi Ibn Abdul Raheem Shah wurde im Jahre 1703 n.Chr. im Stadtteil Muzaffar Nager in Dehli (Hisdustan⁴⁰) geboren. Grundbildung erwarb er sich in seinem Heimatort. Im Alter von sieben Jahren lernte er den gesamten Heiligen Quran auswendig. Nachher erweiterte er sein Wissen über Tafseer, Hadith, Fiqah und Mystik. Er hatte außerdem Beziehungen zu den Anhängern von Naqsh-Bandiya. Er war nicht nur ein ausgezeichneter Muhammadi, sondern ebenfalls ein exzellenter Gelehrter, Faqih, Mudjtahid und Kenner der arabischen Sprache. Seine bedeutendsten Bücher sind: Fatah ul Quran al Fauz ul Kabeer, Hijja tul balaghha, Tafhi maatul haa-ya.

40

Bezeichnung für die Region, die im Allgemeinen die gesamte Gangesebene in Nordindien umfasst.

27. Alama Syed Mahmood Aafandi®

Syed Mohammad Aafandi war sein Name, Name des Vaters Abu Al Sana und Anrede Shahab ud Din. Er wurde im Jahre 1217 n.Chr. in Karkh/Bagdad geboren. Grundbildung gab ihm sein Vater. Des weiteren ließ er sich von vorzüglichen Gelehrten ausbilden. Im Alter von 13 Jahren fing er an Unterricht zu erteilen und Bücher zu verfassen. Er war ein zuverlässiger Gelehrter der Philosophie und Logik, ein perfekter Gelehrter und ein einmaliger Muhaddis und Mufassir seiner Zeiten. Seine bedeutendste Bücher sind: Rooh ul maani fi tafseer ul Quran, Sharra ul Salam fi al-mantaq.

28. Nawaab Siddeeq Hassan Khan®:

Er wurde im Jahr 1248 Hidjra geboren. Sein Heimatort war Bareeli in U.P (Uttar Pradesh⁴¹). Nachdem er die grundlegende Bildung in seiner Heimatstadt abgeschlossen hatte, reiste er nach Farakhabad. Aufgrund seiner außerordentlichen Anstrengungen lebte das religiöse Bewusstsein auf dem Subkontinent wieder auf und Begeisterung für wissenschaftliche Forschung trat an die Stelle der Untätigkeit in den religiösen Vereinigungen. Es existiert kein einziges Fachwissen, in dem er kein überragendes Schrift verfasst hat.

29. Alama Mohammad Qasim Nanotwi®:

Er wurde im Jahre 1248 Hidjra geboren und verstarb in 1297 H. Sein Heimatort war Nanota, Stadtteil Saharan-Pur in U.P. (Uttar Pradesh⁴¹). Seine Bildung schloss er in seiner Heimat ab. Danach ließ er sich von verschiedenen Gelehrten arabische und persische Bücher lehren. Er war ein leuchtendes Beispiel an Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit, Frömmigkeit, Religiosität, Mitgefühl mit der Ummat-e-Mohammadiya⁴², Gutmütigkeit und Selbstlosigkeit für den rechten Weg. Seine bekannten Bücher sind: Hashiya sahi Bukhari, Tahzeer un naas, Aab-e-hayaat, Intesaar ul Islam, Taswiya al aqaidah, Hujja tul Islam, Mubahisa Shah Jahan Pur. Überdies war er der Begründer der erstklassigen religiösen Akademien von Deoband in Indien.

30. Alama Abdul Hai bin Abdul Haleem®:

Geb. am 26. Dhilqad 1262 Hidjra, verstorben im Jahre 1304 Hidjra. Banda in Indien war sein Heimatort. Im Alter von zehn Jahren lernte er den gesamten Heiligen Quran auswendig. Alle sein Können und sein Wissen hatte er sich von seinem Vater Maulwi Abdul Haleem erworben.

⁴¹ Bundesstaat in Indien.

⁴² Nachfolger des heiligen Propheten Mohammad.

31. Alama Qutab Syed Shaheed ®:

Sein Name war Alama Qutab Shaheed⁴³, sein Familienname war Qutab. Er wurde im Jahre 1906 geboren und wurde in 1966 ermordet. Grundschule besuchte er in seinem Heimatort und mit einem exzellenten Zertifikat der Kairo Universität ausgezeichnet. Studienaufenthalte in Amerika. Er war ein Befürworter der Bewegung Akhwaan ul Muslemin. Er war auch ein bedeutender arabischer Schriftsteller. Seine wichtigsten Bücher sind u.a.: Al qassas al deeniyah, Ashook, Tifl, Min al qarriyah, Al madinatul mas-hoora, Mush-haa-heda tul qayamaa il Quran al adliyaa ul ij-temaya fil islam, Fi zalaal ul Quran, Darasaa tul Islamiya.

32. Alama Maulana Sana Ullah Amritsari ®:

Abu Al wafa Maulana Sana Ullah Amritsari wurde in 1287 Hidjra in der bekannten Stadt Amritsar in Punjab geboren und starb i. J. 1368 Hidjra. Seine Heimat war Kaschmir. Er war einer der großartigen Gelehrten und Schriftstellern und Rednern in ganz Hindustan. Er gehörte der Vereinigung von Ehl-e-Hadith an. Unter seinen Werken ist Tafseer ul Quran ba-kalaam ur rahmaan tafseer e sanai bedeutend. Er war einer der erbitterten Gegner der Ahmadiyya-Muslim-Gemeinde.

33. Alama Ibn-Ismail Bukhari®:

Sein vollständiger Name war Ibn-Ismail Bukhari. Er wurde im Jahre 810 n.Chr. in Bukhara⁴⁴ geboren. Als Jüngling begann er, in der muslimischen Welt zu reisen, um Ahadith zu sammeln. Von den über 600 000 Überlieferungen, die Alama Ibn Ismail Bukhari sammelte, wurden etwa 7 275 mit vollständigen Genealogien der bis zu dem Propheten zurückreichenden Übermittler in einem Werk zusammengetragen, das er Al-Sahih⁴⁵ betitelte. Im Anschluss an eine theologische Auseinandersetzung wurde Al-Bukhari nach Kartank bei Samarkand verbannt, wo er starb. Sein Grab ist das Ziel vieler Pilger.

⁴³ Märtyrer

⁴⁴ Heute Usbekistan.

⁴⁵ Arabisch: das Echte

Erläuterungen

Bin = arabische Bezeichnung für „Sohn von“

Hidjra = (Abkürzung H) bezeichnet insbesondere die Auswanderung 622 n. Chr. des heiligen Propheten Mohammad (Friede Allahs sei mit ihm) aus Mekka nach Medina. Kalif Omar I. legte das Jahr der Hidjra als erstes Jahr der islamischen Zeitrechnung fest. Somit wurde das Jahr 622 zum Jahr 1 ah (anno hegirae) im islamischen Kalender.

Muhaddis = Sucher und Aufbewahrer der Ahadith.

Hadith= (Pl. Ahadith) Dies ist nach Quran und Sunnat die dritte wesentliche Quelle des Islams. Ahadith sind Überlieferungen des Heiligen Propheten (s), d.h. alles, was er jemals äußerte wie auch die Ereignisse seines Lebens, die von Augenzeugen berichtet wurden und die von denen, die die Überlieferungen sammelten, schriftlich festgehalten wurden.

Sunnat = (Pl.=Sunnan) Die Sunnat is gleich nach dem Heiligen Quran die wichtigste Quelle, aus der sich die Lehren des Islams herleiten. Im Islam steht Sunnat für die tatsächliche Verfahrensweise des heiligen Propheten Mohammad (s) hinsichtlich einer religiöser Angelegenheit, die seine Anhänger zu seinen Lebzeiten und unter seiner persönlichen Leitung ausgeübt haben.

Mufassir = eine Person, die sich mit der Auslegung des Heiligen Qurans beschäftigt und diese auch näher beleuchtet.

Fiqah = Islamisches Recht, das das Verhalten der Individuen und das Zusammenleben in einer Gemeinde festlegt.

Faqih= eine Person, die die Legitimation zur Erläuterung und Deutung von islamischen Recht, wie dieser in dem Heiligen Quran, Hadith und Sunnat festgelegt ist.

Mushtahid = ein Rechtswissenschaftler, dem eine unabhängige Anmerkung zum islamischen Recht genehmigt ist.

Shawaal = islamischer Monat nach dem Fastenmonat Ramadan.

Imam = (arabisch : derjenige, der das Gebet leitet) Vorbeter in einer Moschee, der das rituelle Gebet der Gläubigen leitet. Als Imam kann auch das Oberhaupt einer Gemeinschaft oder Gruppe bezeichnet werden.

Hafiz = eine Person, die den gesamten Heiligen Quran auswendig gelernt hat.

Sufi = islamischer Mystiker

Saha-sitta = die sieben authentischsten Sammlungen von Ahadith

Ijtehaad = unabhängige Erläuterung des islamischen Rechts

Rajjab = Islamischer Monat

اظہار تشکر

اس کتاب کی تیاری کے مختلف مراحل میں بہت سے احباب نے نہایت محنت سے حصہ لیا۔ محترم مولانا عطاء اللہ گلیم صاحب مرحوم کے بعد امیر جماعت جرمی مختار عبد اللہ و اگس ہاؤزر صاحب کی ہدایت پر شعبہ تصنیف نے اس اہم کام کو جاری رکھا۔ چنانچہ اس تالیف کے مختلف مراحل پر مربیان سلسلہ مختار مولانا حیدر علی ظفر صاحب مبلغ انچارج جرمی، مختار مبارک احمد صاحب تنور، مختار محمد الیاس صاحب منیر، مختار جاوید اقبال صاحب ناصر اور مختار ساجد نسیم صاحب اور ان کے ساتھ مختار میر عبد اللطیف صاحب، مکرم مرزا محمود احمد صاحب اور عزیزم عبد الاعلیٰ صاحب نے گرفتار خدمت سرانجام دی نیز اس کی تیاری کے دوران بزرگوار مختار مسعود احمد خان صاحب دہلوی، مکرم حبیب الرحمن زیر وی صاحب، مکرم راجہ محمد یوسف خان صاحب اور مکرم رانا نعیم احمد صاحب کا تعاون رہا۔ انگریزی اور جرمی زبانوں میں ترجمہ کا کام ابتدائی طور پر مکرم طاہر محمود صاحب نیشنل سیکرٹری تعلیم جرمی، مختار ساجدہ و سیم شاہ صاحب، عزیزہ شاء مریم، عزیزہ ماریہ چیمہ اسی طرح مکرم عبد الرفق احمد صاحب نے سرانجام دیا جبکہ مختار سید منصور شاہ صاحب ایڈیٹر ریویو آف ریسیجنز اور عزیزم عاصم خان صاحب نے انگریزی ترجمہ اور مختار فضل الہی انوری صاحب نیز مکرم سیکرٹری سیرے بے صاحب (Jan Zerbe) اور مکرم طارق، بیش صاحب نے جرمی ترجمہ پر نظر ثانی کی۔

اور یہ فہرست نامکمل رہے گی اگر کارکنان شعبہ تصنیف جرمی مکرم نوید حمید صاحب ایڈیشنل سیکرٹری تصنیف، مکرم محمد داؤد جو کہ صاحب اسٹینٹ سیکرٹری تصنیف اور عزیزم طارق محمود کا ذکر نہ کیا جائے، جنہوں نے بے پناہ محنت اور مسلسل کام کر کے اس کتاب کو پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ ان سب مخلص اور فدائی کارکنان سلسلہ کو اپنے فضلوں سے نوازے اور اجر عظیم عطا فرمائے۔ آمین۔

انچارج شعبہ تصنیف۔ جماعت احمدیہ جرمی

Acknowledgment

Many people have contributed to the success of this book. First and foremost, it was the late Maulana Ataullah Kaleem who laid the foundation of this work. After the demise of the former, under the instructions of Amir Jama'at Germany Mr. Abdullah Wagishauser, Shoba Tasneef (Publication Section) of Jamaat Germany carried on with this project.

We are thankful to our missionaries Maulana Haider Ali Zafar Sahib Missionary In-charge Germany-, Mr. Mubarak A. Tanveer, Mr. Muhammad Ilyas Munir, Mr. Javaid Iqbal Nasir and Mr. Sajid Naseem as well as Mr. Mir Abdul Latif and Mr. Abdul A'ala who all have significantly participated in this hard work. Also included among the scholars and writers, who have extended valuable support to us during the compilation of this book, are Mr. Masood Ahmad Dehlawi, Mr. Habib-ur-Rahman Zeervi, Raja Mohammad Yousuf Khan and Rana Naeem Ahmad.

The translation into English and German was initially done by Mr. Tahir Mahmood, Mrs. Sajida Waseem Shahid, Ms. Sana Mariam und Ms. Maria Cheema. The final work on the English translation was done by Mr. Seyd Mansoor Shah, editor of „Review of Religions“, and Mr. Asim Khan. While Mr. F.I. Anweri and Mr. Jan Zerbe and Tariq Hübsch have revised the German translation.

This list would remain incomplete, however, if the names of Mr. Naveed Hameed, additional Secretary Tasneef, Mr. Daud Majoka, assistant Secretary Tasneef, and Mr. Tariq Mahmood, who converted the book into electronic data for computer use, were not mentioned here.

May Allah's special blessings descend upon all the brethren who offered their time and knowledge to grant a successful conclusion of the book in hand.

In-Charge Shoba Tasneef
Ahmadiyya Muslim Jamaat Germany

Danksagung

Zahlreiche Personen haben durch ihre Arbeit dieses Projekt zum Abschluss gebracht. Denen sei hier herzlichst gedankt. Besondere Erinnerung verdient die grundlegende Bemühung von Maulana Ataullah Kaleem zur Sammlung der Zitate dieses Buches. Möge Allah ihm dies aufs beste belohnen. Nach seinem Tode unter der Anleitung des Amirs der Jamaat Deutschland Herrn Abdullah Wagishauser führte Shoba Tasneef (Publikations- Abteilung) dieses Projekt weiter.

Wir möchten Dank sagen den Imams Herrn Maulana Haider Ali Zafar Leitender Imam in Deutschland, sowie Herrn Mubarak A. Tanveer, Herrn Muhammad Ilyas Munir, Herrn Javaid Iqbal Nasir, Herrn Sajid Naseem, des weiteren den Herren Mir Abdul Latif, Mirza Mahmood Ahmad und Abdul A'ala, welche die Arbeit zum Abschluss brachten. Während der Anfertigung dieses Buches standen uns der Gelehrte Herr Masood Ahmad Khan Dehlawi und Herr Habib-ur-Rahman Zeervi und Raja Mohammad Yousuf Khan und Rana Naeem Ahmad durch ihre tatkräftige Unterstützung zur Seite.

Die Übersetzung ins Englische und Deutsche nahmen zunächst Herr Tahir Mahmood, Frau Sajida Waseem Shahid, Frau Sana Mariam, Frau Maria Cheema und Herr Abdur Rafik Ahmad vor. Eine abschließende Überarbeitung des Englischen wurde von Herrn Seyd Mansoor Shah, dem Herausgeber von „Review of Religions“ sowie von Herrn Asim Khan vorgenommen. Die Deutsche Übersetzung wurde revidiert von Herrn F. I. Anweri und Herrn Jan Zerbe und Tariq Hübsch.

Diese Liste wäre jedoch nicht vollständig, wenn Herr Naveed Hameed, Additional Sekretär Tasneef, Herr Mohammad Daud Majoka, Assistent-Sekretär Tasneef, und Herr Tariq Mahmood, der für die elektronische Datenverarbeitung zuständig war, nicht erwähnt würden.

Ihnen allen möchten wir an dieser Stelle für Ihre Unterstützung danken. Möge Gott Sie belohnen und Sie segnen.

Leiter Abteilung Tasneef
Ahmadiyya Muslim Jamaat Deutschland

Impressum:

2. Auflage Januar 2012
(2000 Exemplare)
© Copyright: Verlag Der Islam
Genfer Str. 11, 60437 Frankfurt

ISBN 3-932244-16-8